

# تمیزِ سیرت کی اوریں سیرت



مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبد الرشید الی نقوی برکاتی قوی

[www.Markazahlesunnat.com](http://www.Markazahlesunnat.com)

امام احمد رضا روڈ  
پور بندر، گجرات

مرکز اہل سنت برکاتی



## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	:	”خیر بشر کی نوری بشریت“
تصنیف	:	علامہ عبدالستار ہمدانی برکاتی نوری
تصحیح	:	ارشاد علی جیلانی برکاتی ”جان“، جبل پوری
سن اشاعت	:	باراؤل — ۱۴۲۳ھ / ۲۰۰۲ء
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰ (ایک ہزار)
باہتمام	:	کتب خانہ امجدیہ
	:	۴۲۵، ٹیماحل، جامع مسجد، دہلی ۶، فون: 3243187
کمپوزنگ	:	افضل حسین بستوی، دہلی
قیمت	:	Rs. _____
مطبوعہ	:	بھارت آفسیٹ پریس، دہلی

## مرکز اہلسنت برکات رضا

امام احمد رضا روڈ، پور بندر (گجرات)

-: ملنے کے پتے :-

کتب خانہ امجدیہ، ۴۲۵، ٹیماحل جامع مسجد دہلی ۶

فاروقیہ بکڈپو، ۴۲۳، ٹیماحل جامع مسجد دہلی ۶

رضا اکیڈمی، کامپلیکس اسٹریٹ، بمبئی-۳

المکتبۃ المدینۃ، خاص بازار، تین دروازہ، احمد آباد، (گجرات)

دارالعلوم غوث اعظم، امام احمد رضا روڈ، مین واڈ، پور بندر

انبیائے کرام کو اپنے جیسا ”بشر“ کہنے والوں کو شیطان نے ہی یہ ذہنیت دی ہے.....  
انبیائے کرام کے خلاف کی جانے والی ہر سازش میں شیطان شریک ہوتا ہے.....

دارالندوة کی میٹنگ میں شیطان بصورت شیخ نجدی حاضر تھا.....  
قوم لوط کو لوطا طت کا فعل قبیح شیطان نے سکھایا ہے.....  
قرآن شریف میں حضور اقدس ﷺ کے لئے ”قل الما انابشر مثلکم“ کا ارشاد خداوندی کیوں نازل ہوا ہے؟.....  
حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات.....  
حضرت عزیز بن شریخا علیہ الصلوٰۃ والسلام.....  
یہودیوں نے حضرت عزیز کو اور عیسا تیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا.....  
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو لاکاراکہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب طلوع کر دکھا.....

حضور اقدس رحمت عالم ﷺ کے چند  
عظیم الشان معجزات

مردہ لڑکی کو قبر میں زندہ فرمائی.....  
پکائی ہوئی بکری پھر زندہ ہو گئی.....  
حضرت جابر بن عبد اللہ کے دو مردہ بیٹوں کو زندہ فرمایا.....  
چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے.....  
حضور اقدس کو پتھر، درخت چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے.....  
جانوروں نے رسالت کی گواہی دی اور سجدہ تعظیم کیا.....

## ”خیر بشر کی نوری بشریت“ فہرست عنوانات

عرض ناشر  
تقریر جلیل  
بشر یعنی کیا؟

حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا.....  
حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا.....  
حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اصحاب نیکہ نے اپنے جیسا ”بشر“ کہہ کر جھٹلا دیا.....  
فرعون اور رفیعونیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے جیسا ”بشر“ کہا.....  
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو حواری کو کافروں اور مشرکوں نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا.....  
الوا العزم انبیائے کرام کو ”بشر“ کہا گیا.....  
اگلی امتوں کے کفار انبیائے کرام کو ”بشر“ کہہ کر کافر ہوئے.....  
حضور اقدس ﷺ کو بھی کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ نے اپنے جیسا ”بشر“ کہنے کی گستاخی کی تھی.....  
سب سے پہلے ابلیس نے نبی کو ”بشر“ کہا ہے.....  
شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس وجہ سے سجدہ نہ کیا؟.....

”ووجدك ضالاً فهدى“ کا صحیح ترجمہ اور آیت کی تفصیلی وضاحت و تفہیم.....

جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے آیت شریف ”ووجدك ضالاً فهدى“ کا کیا ترجمہ اور وضاحت بیان فرمائی ہے.....؟

قلعہ حلب کے حاکم کا تعارف اور اسلامی لشکر سے مقابلہ کی کیفیت حاکم یوقنا کو حضور اقدس ﷺ نے خواب میں ہی عربی زبان کا علم عطا فرما دیا.....

پھر کیا ہوا؟ حاکم یوقنا نے کیا کیا؟.....

”ضال“ کا ترجمہ وارفتہ ہونے کی ایک مزید قرآنی شہادت.....  
سورۃ الفتح اور سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وارد لفظ ”ذنب“ بمعنی گناہ نہیں.....

حل لغات.....

عربی زبان کی لغت کے متعلق.....

لغت کے تعلق سے کی گئی گفتگو کا حاصل.....

ایک ضروری نکتہ.....

امام احمد رضا کے ترجمہ پر اعتراض کے امکان کا مقدم اور اختصاراً تحقیقی جواب.....

”انا بشر مثلكم“ خطاب کن سے ہے.....

حضور اقدس نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا، اور صحابہ کرام حضور اقدس کو اپنے جیسا ”بشر“ کہتے تھے یا نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟.....

قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولتا ہے.....

مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے.....  
درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا.....

## لمحہ فکر یہ !!!

”قل انما انا بشر مثلكم“ آیت قرآن کا مطلب و معنی اور اس کی صحیح تفہیم.....

آیت کے شروع میں وارد لفظ ”قل“ کے استعمال میں کیا حکمت

خداوندی ہے؟.....

قرآن میں ”بشر مثلكم“ کہنے کی کیا وجہ ہے؟.....

”انا بشر مثلكم“ آیت کا خلاصہ اور اس کی ضروری وضاحت.....

آیات محکمات.....

آیات تشابہات.....

آیات تشابہات کے متعلق مزید وضاحت.....

منافقین آیات تشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلانے ہیں.....

ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ.....

سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد گرامی.....

آیات محکمات و تشابہات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد عالی.....

”انا بشر مثلكم“ آیات تشابہات سے ہے.....

بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی غرض سے منافقین زمانہ ”انا بشر

مثلكم“ کی طرح دیگر آیات تشابہات کو بھی دلیل بناتے

ہیں.....

- دلیل نمبر-۳.....
- دلیل نمبر-۴.....
- دلیل نمبر-۵.....
- دلیل نمبر-۶.....
- حضور اقدس ﷺ کیسے بشر تھے؟.....
- حضور اقدس کی نورانی بشریت.....
- نور مصطفیٰ.....
- قرآن میں حضور اقدس کو ”نور“ کہا گیا ہے.....
- قرآن میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ اللہ کی واضح دلیل ہیں.....
- ایک اہم سوال.....
- حضور اقدس ﷺ کی تین حیثیتیں.....
- حضور اقدس ﷺ کی کیفیت صوری بشری.....
- حضور اقدس ﷺ کی کیفیت صوری حقیقی.....
- حضور اقدس ﷺ کی کیفیت صوری ملکی.....
- حضور اقدس ﷺ کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات.....
- صورت بشری کے اعجاز و کمالات.....
- بے مثل ولادت باسعادت**
- ولادت کے وقت ہی معجزات کا ظہور.....
- جسم اقدس کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہ تھی.....
- ولادت کے وقت نور کی بارش.....
- ولادت کے وقت ہی پوری دنیا حضور کے قبضہ میں.....

- حضرت سیدنا مولیٰ علی نے بے علم و اعظ کو مسجد سے نکلوا دیا.....
- قرآن مجید کی منسوخ اور ناسخ آیتوں کے متعلق.....
- ”لکم دینکم ولی دین“ آیت منسوخ ہے اور کیوں منسوخ ہے؟.....
- منافقین زمانہ منسوخ اور متشابہ آیات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔
- کافر کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟.....
- قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر و وضاحت کے متعلق.....
- قرآن کی تفسیر.....
- تفسیر قرآن از قرآن.....
- تفسیر قرآن از احادیث.....
- تفسیر قرآن از صحابہ کرام.....
- تفسیر قرآن از تابعین.....
- دورتا بعین کے بعد کے مفسرین.....
- اللہ و رسول کا فرمان اور منافقین زمانہ کے اقوال.....
- ”انا بشر مثلکم“ کی طرح دیگر آیات قرآنیہ میں بھی منافقین زمانہ کے غلط تراجم.....
- اللہ تعالیٰ کی شان لفظ ”مکر“ کا استعمال.....
- اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”داؤ“ کا استعمال.....
- اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”دعا“ کا استعمال.....
- حضرت آدم کیلئے ”گمراہ“ اور ”نافرمانی“ کے الفاظ کا استعمال.....
- ”انا بشر مثلکم“ کے لفظی معنی کو دلیل بنا کر حضور اکرم کو اپنے جیسا ”بشر کہنے والے خود اپنی جال میں پھنستے ہیں.....
- دلیل نمبر-۱.....
- دلیل نمبر-۲.....

شکم مادر سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز.....  
 حضور اقدس ﷺ کے بعباب دہن کا اعجاز.....  
 کھاری کنواں مدینہ کا سب سے بیٹھا کنواں بن گیا.....  
 کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبووں پیدا ہو گئی.....  
 حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کی دکھتی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں.....  
 یمن کا کھاری کنواں یمن کا سب سے بیٹا کنواں بن گیا.....  
 ہاتھ کا پھوڑا فوراً دور ہو گیا.....  
 مقدس آنکھیں.....  
 جنگ موتہ کا آنکھیں دیکھا حال بیان فرما دیا.....  
 آگے پیچھے اور رات کی تاریکی میں دیکھنا.....  
 حضور اقدس کے دیگر جسمانی خصائص.....  
 حضور اقدس طبعی طور پر جماہی سے منزہ تھے.....  
 دست اقدس (ہاتھ) کا پر کیف اعجاز.....  
 ٹوٹا ہوا پاؤں دست اقدس پھیرتے ہی درست ہو گیا.....  
 زخمی آنکھ کا رخسار پر ٹانگ جانا اور دست اقدس نے درست فرما دیا.....

## قابل غور فکر حقیقت

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام حضور کے امتی ہونے کی تمنا فرمائی.....  
 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں  
 گے.....  
 منافقین زمانہ کا دعویٰ کہ عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے.....  
 حضور اقدس کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں.....

خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا.....  
 گہوارے میں سے جدھر انگلی کا اشارہ فرماتے ادھر چاند جھک جاتا۔  
 آپ مختون پیدا ہوئے.....  
 عالم شیر خواری میں گہوارہ میں کلام فرمانا.....  
 بے مثل ایام طفلی.....  
 اقوال ائمہ دین.....  
 نورانی چہرہ کا بے مثل جمال.....  
 چہرہ اقدس انوار الہیہ کا آئینہ.....  
 چہرہ انور سورج کی طرح درخشاں.....  
 چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن.....  
 آفتاب کی طرح چمکنے والا چہرہ انور.....  
 چاند سے بھی زیادہ منور چہرہ انور.....  
 چہرہ انور کی روشنی سے گم شدہ سوئی مل گئی.....  
 سب سے زیادہ حسین اور جمیل.....  
 پسینہ مبارک کی خوشبو سب سے اعلیٰ مہک.....  
 تمام خوشبوؤں سے بہتر پسینہ اطہر کی خوشبو.....  
 دہن کے لئے پسینہ اطہر کی خوشبو لگانے سے پورا شہر مہک اٹھا.....  
 حضور اقدس جس راستہ سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا.....  
 جس کے بدن کو حضور ہاتھ سے مس فرماتے، اس میں بھی خوشبو پیدا ہو  
 جاتی.....  
 مشک وغیر سے جسم اقدس کی خوشبو عمدہ اور بہتر.....  
 مقدس کان کی قوت سماعت.....  
 آسمان کی چرچراہٹ سماعت فرمانا.....

حضور اقدس ﷺ کو اپنے جیسا ”بشر“ کہنے والے دور حاضر کے منافقین اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟.....  
 حل لغات.....  
 ٹانڈوی صاحب کا ”کھدر پریم“.....  
 ٹانڈوی صاحب عالم نور میں رہتے ہیں اور خود بھی نور ہو گئے ہیں؟.....  
 دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی ہیں؟.....  
 گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہ طور سے تشبیہ دے کر ”ارنی“ یعنی تیرا جلوہ دیکھا پکارا.....  
 خدائے تعالیٰ سے پڑھ کیر تھا نوی صاحب کا ڈر؟.....  
 آیات قرآنیہ سے مسئلہ کی وضاحت.....  
 اس سلسلہ کی چند دیگر آیات  
 منافقین زمانہ کے اعتقاد اور نظریات.....  
 ماخذ اور مراجع.....

حضور اقدس صورت بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف فرما ہوئے؟.....  
 حضور اقدس کیوں صورت بشری میں دنیا میں تشریف لائے اس گفتگو کا ماحصل.....  
 حضور اقدس ”نوری بشر“ تھے لہذا آپ کے اور آپ کے امتیوں کے لئے شریعت کے احکام بھی الگ الگ تھے.....  
 کلمہ شریف کا فرق.....  
 ارکان اسلام.....  
 نماز کی فرضیت کا فرق.....  
 بیٹھ کر امامت نماز فرمانا.....  
 عصر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنا.....  
 سو جانے (نیند) سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا.....  
 بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق.....  
 صدقہ اور زکاۃ کا مال حضور پر اور حضور کی آل پر حرام ہے.....  
 امتی کی بیوہ عورت کا نکاح ثانی.....  
 امتی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جب کہ انبیائے کرام کی نہیں ہوتی.....  
 حضور اقدس ﷺ کا بول و بزار اور خون پاک اور طاہر ہے.....  
 خوشا نصیب.....  
 حضور اقدس ﷺ کو ”بشر“ کہنے والے کے لئے کیا حکم شرع ہے؟.....  
 منافقین زمانہ کی ایک بے تکی بے شعور دلیل.....

حضور اقدس کو بشر کہنے کے متعلق شرعی حکم

صحابہ کے طریقہ پر چلتا رہے گا وہی کامیاب و بامراد ہوگا۔ اس قسم کی بیشمار آیات قرآنیہ مبینہ و احادیث نبویہ شریفہ آج بھی ارباب علم و دانش سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ان اصحاب رسول نے قرآن کو خود صاحب قرآن اور درس گاہ رسالت ﷺ سے پڑھا تھا۔ بھلا ان سے زیادہ کون قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ان کی نظروں سے ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ الْاٰیة نہ گزری؟ کیا انہوں نے اس کے معانی و مطالب کو نہ سمجھا، یقیناً سمجھا اور خوب خوب سمجھا ہے۔ مگر تاریخ کے اوراق آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان جاں نثار اصحاب کرام نے کبھی ”اپنے جیسا بشر“ کہنا تو کجا کبھی گمان بھی نہیں کیا بلکہ حد کمال سے زیادہ ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت مذکورہ، مزبورہ، مرفوعہ، جوشان ارفع و اعلیٰ میں نازل ہوئی ہے اس کی منافقین زمانہ نے غلط تفسیر و توضیح کر کے عوام تو عوام اکثر خواص کو بھی اسکی زد میں لے لیا اور زد میں آنے والے دائرہ ایمان سے خارج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیگر علمائے کرام نے بہت ہی مفید انداز میں فرمائی ہے۔ چونکہ ان کی تفاسیر عربی و فارسی میں ہیں اور بہت ہی دقیق عربی پر مشتمل ہیں۔ جس سے عوام المسلمین نا آشنا ہیں۔ لہذا اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسی کتاب آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھی جائے، جو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں ہو، نیز ساتھ ہی امثال و تمثیل بھی بہت ہی آسان پیرائے میں ہو۔ استاذ گرامی و قار حضرت علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب قبلہ نے اس موضوع پر اپنا قلم اٹھایا اور اس کی کوپور فرمادیا۔ **جزاہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاء**

کتاب اپنی خصوصیت کے اعتبار سے منفرد ہے، اس میں ایک آیت کی تفسیر کیلئے بیشمار آیات قرآنیہ پیش کی گئی ہیں، نیز اقوال رسول ﷺ و اصحاب کرام کی جیتی جاگتی تصویر کو محفوظ رکھنے کیلئے منافقین زمانہ کے ذریعہ اس آیت سے غلط استدلال کر کے جو گمراہیت کی

## عرض ناشر

از:- احقر ارشد علی جیلانی ”جان“ جبل پوری

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَرْسَلَ نَبِيَّهٖ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّالصَّلٰوةَ وَّالسَّلَامَ  
عَلٰى مَنْ اُرْسِدَ النَّاسَ رُشْدًا مُّبِينًا وَّعَلٰى مَنْ اَتْبَعَ اِتْبَاعًا كَامِلًا  
مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل  
تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مردے دل

اس عالم رنگ و بو میں عشق و محبت کی نہ جانے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں، تاریخ اپنے آنغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو اپنائے ہوئے ہے، شعبہائے محبت میں عشاق کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی۔ مگر اس میں عاشقانِ مصطفیٰ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان، نمایاں حیثیت اور جدگانہ انداز لئے ہوئے ہے۔ اصحاب رسول ﷺ کی زندگی سے محبت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے ان کی لافانی محبت آج بھی تاریخ کے زرین صفحات میں طلائی حروف میں منقش ہیں۔ اس کی تابناک حقیقت کو غیر بھی سراہتے ہیں۔ ان کی زندگی عشق رسول کا ایسا مرقع ہے، جس کے سامنے غیروں کی گردنیں بھی عقیدت مندانہ انداز سے خم ہیں۔

ان اصحاب رسول ﷺ نے ہی عشق و عرفان کے ایسے ایسے گلہائے رنگارنگ کھلائے ہیں کہ آج دنیائے انسانیت اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تھی تو پروردگار عالم ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں“ اور سرکارِ دو عالم ﷺ بھی ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ **أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ** یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا: کہ ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي“ یعنی جو میرے اور میرے



ترتیب و تدوین جاری ہے امید ہے کہ جلد از جلد وہ بھی منظر عام پر آجائے گی۔  
مرکز اہل سنت برکات رضا، پور بندر جو چند عرصہ سے دینی و ملی خدمات میں ہمہ تن  
مصروف و مہذول ہے اور علمائے متقدمین و متاخرین کی نایاب و کم یاب عربی و فارسی وغیرہا  
کتب عارفہ و عارفانہ کی نشر و اشاعت کے کام میں اپنی خدمات سے بی شمار علمائے اہل حقہ سے  
داد آفریں حاصل کر چکا ہے۔ آئندہ بھی اسی طرز حسن کے ساتھ خدمات ملیہ اسلامیہ کا عزم  
مصمم ہے۔

میں بے حد شکر گزار ہوں حضرت موصوف استاذی الکریم مناظر اہل سنت علامہ  
عبدالستار ہمدانی صاحب کا کہ انہوں نے اہل سنت و الجماعت کو شدت سے محسوس کی جانے  
والی کمی سے سبکدوش فرمایا، اور مسلمانان اہل سنت کو آیت مبشرہ سے روشناس کرانے میں جو  
سچی تبلیغ کی ہے وہ کتاب کی ضخامت و طوالت سے ظاہر و باہر ہے۔ خدائے تعالیٰ اپ کی  
اس کاوش کو مقبول عام فرمائے اور حضرت کے عمر میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔  
ساتھ ہی میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نعمت، گل گلزار خاندان  
برکات، سیدی و سندی و مرشدی سرکار نجیب حیدر صاحب مد فیضوہ (نائب سجادہ نشین خانقاہ  
عالیہ قادریہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ) کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے کرم فرمایا، اور کتاب ہذا کی  
اشاعت میں اپنے زبان حق زدن سے بی شمار دعائیں عطا کی۔

اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کرم کو تادیر جاری و ساری رکھے۔ اور مسلمانان اہل سنت  
کو آپ سے مسفیض و مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

سگ دربار نوری

احقر ارشد علی جیلانی برکاتی ”جان“ جبل پوری

خادم:- مرکز اہل سنت برکات رضا پور بندر گجرات

ہوا پھیلائی گئی ہے اس کے زہریلے اثرات سے عوام کو خبر دار کیا گیا ہے۔ اور منافقین کے  
طرف سے پھیلائی گئی بدگمانیوں کا بہت ہی موثر انداز میں خاتمہ ہے۔ دور حاضر کے ڈگر ڈگر  
پھرنے والے تبلیغ کا ڈھونگ رچانے والے اس کو پڑھ کر اگر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر  
جائے تو بھی کم ہیں۔ کیونکہ آقائے کائنات ﷺ کی بے مثال نوری بشریت بی شمار آیات و  
احادیث سے اظہر من الشمس ہے۔

زیر نظر کتاب کی اہمیت و افادیت کا پتہ اس سے لگتا ہے کہ موصوف گرامی نے آیت  
مذکورہ کی تشریح میں دیگر پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے مثلاً صحابہ کرام سے منقول بارگاہ مصطفیٰ کا  
ادب و احترام، سرکار دو عالم ﷺ کی غایت درجہ عظمت و محبت، آقائے کائنات کا اور  
دوسرے انسان کی بشریت میں ظاہری فرق وغیرہا سے ایمان کی بالیدگی و پاکیزگی کو ایک نئی  
قوت ملتی ہے۔ لہذا قاری کو تشفی بخش و اطمینان قلب کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سرکار دو  
عالم ﷺ کی بشریت میں اور ہما و شما کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق  
ہے۔ نیز مساوات و ہمسری کا دعویٰ کرنے والے جاہل مبلغین کا بھی ردِ تبلیغ ہے۔

استاذی الکریم مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب کی ذات گرامی  
بھی عوام اہل سنت کیلئے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت مدظلہ نے اب تک ۱۰۴ ایک سو  
چار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو اکثر عقائد کی اصلاح اور اعلیٰ حضرت مجددین و ملت کے  
تعارف اور آپ کے کارہائے نمایاں پر مشتمل ہے۔ اور حضرت کی ایک لا جواب تصنیف  
لطیف بسبقہائے مدینہ موسمی بنام ”دھماکہ“ عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے۔ جس میں عقائد  
وہابیہ دیوبندیہ اور کارہائے لئیمہ مع اصل عبارت کتب دیوبندیہ کے پیش کی گئی ہے۔ جو کتب  
دیوبندیہ سے ماخوذ (۲۰۵۰) ساڑھے چار ہزار حوالات پر مشتمل ہے اور ہر ایک عبارت  
کے تحت بہت ہی جامع و مانع تبصرات مفیدہ بھی مرقوم ہے۔ نیز امام اہل سنت امام احمد رضا  
فاضل بریلوی کے جدید سائنسی علوم و فنون پر بنام ”امام احمد رضا اور مارڈر ٹیکنولوجی“ کی بھی

یعنی انسان اتنی بات ذہن نشیں رکھ کر اس بحث کو آگے بڑھائیں۔

اس دنیا میں جس کسی نے بھی بطور انسان جنم (پیدا ہونا) لیا ہے وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو یا پھر مرد اور عورت کے درمیان کا طبقہ یعنی خُنثیٰ یعنی مختث (بیچڑا) ہو، اس کو بشر کہا جائے گا یعنی انسان یا آدمی کہا جائے گا۔ اس دھرتی پر پیدا ہونے والا یعنی ماضی میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اور مستقبل میں تا قیامت پیدا ہونے والا ہر انسان یعنی بشر مخلوق ہی ہے، خالق نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی خالق ہے۔ وہی کائنات کا خالق اور معبود یعنی عبادت کے لائق ہے۔

نسلِ انسانی کا آغاز خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، ابوالبشر، حضور سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا آدم نوع انسانی کے والد ماجد ہونے کی وجہ سے ”ابوالبشر“ کے لقب سے ملقب کئے جاتے ہیں۔ تمام انسان آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ”آدمی“ کہے جاتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔

نوع انسانی خصوصاً دو قسم پر ہے (۱) مرد اور (۲) عورت، حالانکہ کچھ افراد ان دونوں کے درمیانی طبقہ کے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی قلیل بلکہ برائے نام ہی ہوتی ہے لہذا ان کو الگ شمار نہ کرتے ہوئے یہ مسلم اصول طے شدہ ہے کہ جس کسی نے بھی بطن انسان سے پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اُسے آدمی، انسان یا بشر کہا جائے گا۔

آدمی، انسان یا بشر کی بھی کئی قسمیں ہیں، بے شمار اقوام، ذات، گوت، گوتر قبیلے، خاندان، نسل، حسب نسب، گھرانے، فرقے وغیرہ میں انسان منقسم ہیں۔ ان تمام اقسام کا انفرادی تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو دو اقسام میں منقسم کریں یعنی (۱) مؤمن اور (۲) غیر مؤمن۔ قسم اول میں ایمان والے، موحد، مسلمان، مطہج، فرمانبردار اور اللہ ورسول کے احکام کو تسلیم کرنے والے افراد کا شمار ہوگا۔ اور قسم دوم یعنی غیر مؤمن میں کافر، مشرک، یہودی، نصاریٰ، مجوسی، غیر موحد، مرتد، منافق، اور دیگر ادیان باطل کے تابعین کا شمار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا مسئلہ شروع سے لے کر آج تک ہر دور میں زیر بحث رہا ہے۔ خصوصاً موجودہ زمانہ کے منافقین اپنے گستاخانہ جذبہ کو تسکین دینے کے لئے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی ذوات مقدّسہ کو صرف ”بشر“ یا ”اپنے مثل بشر“ کہتے ہیں اور اپنے اس فاسد نظریہ کی تائید میں قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے معنی اور مفہوم کو من گھڑت طور پر دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ بے شک تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کی بشریت اور عام انسان کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس عظیم فرق کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس کتاب کو اول تا آخر بغور مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی بشریت کا معاملہ روز روشن کی طرح صاف اور عیاں ہو جائے گا۔ اس مسئلہ کی تفہیم اور توضیح کے سلسلہ میں ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور ائمہ دین و بزرگان ملت کے اقوال و ارشادات معتبر کتابوں کے حوالوں سے ہی پیش کئے جائیں۔

## ”بشر یعنی کیا؟“

مختلف زبانوں کے لغات کا جائزہ لینے سے ”بشر“ کے لغوی معنی میں ۹ آدمی ۹ انسان ۹ مَنُش ۹ مَنُوش ۹ مَنُوش ۹ حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان ۹ پَرَانِی ۹ وَکِیْتِی ۹ Mortals ۹ Mankind ۹ شخص ۹ بنی آدم وغیرہ ہوتے ہیں۔ المختصر! بشر

ہوگا۔ المختصر! مؤمن یعنی اللہ اور رسول اور اس کی کتابوں اور احکام کو ماننے والا اور غیر مؤمن یعنی انکار کرنے والا۔

ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت اور بھلائی کے لئے انبیاء و مرسلین علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی یا رسول کے زمانہ میں مؤمن اور غیر مؤمن دو قسم کے لوگ تھے۔ مؤمن اپنے نبی کو اللہ کا رسول تسلیم کر کے ان کی ہر بات اور حکم کو مانتا تھا۔ جب کہ غیر مؤمن انکار کرتا تھا۔ ابوالبشر حضرت سیدنا آدم سے لے کر سید المرسلین، محبوب رب العالمین، رحمۃ العالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم کے زمانہ اقدس تک کم و بیش ایک لاکھ، چوبیس ہزار (1,24,000) انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے۔ ان میں کا ایک بھی نبی فرشتہ یا جتات میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ نبوت کا تاج کرامت و شرافت صرف انسان کو ہی عطا ہوا ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے سوا کوئی بھی مخلوق نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کی گئی۔ علاوہ ازیں وہ تمام مقدس انبیاء کرام ”مرد کامل“ تھے۔ کسی بھی عورت کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی تو اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ نوع انسانی میں سے صرف مردوں کو ہی نبوت ملی ہے۔ لہذا ہماری اس بحث سے نوع انسانی کی قسم ثانی یعنی عورت کو ہم مستثنیٰ کر کے اور خواتین کو پردہ میں مستور کر کے اب صرف ”مرد“ کے تعلق سے ہی گفتگو کریں گے۔ لہذا اب جہاں کہیں بھی لفظ ”انسان“ آئے گا اس سے مراد ”انسان مرد“ ہوگی۔ اس نقطہ کو محترم قارئین کرام ذہن نشین رکھیں۔

انسان چاہے جس ملک کا بھی ہو، اس کے اعضاء جسمانی کی تخلیق مساوی ہی ہوتی ہے۔ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھ، ایک ناک، ایک سر، وغیرہ وغیرہ حالانکہ ملک و مقام کے تفاوت کے اعتبار سے قد و قامت، جسامت، رنگ و روپ میں ضرور فرق ہوتا ہے لیکن اصل تخلیق میں باعتبار اعضاء جسمانی تمام انسان مساوی ہوتے ہیں۔ آج تک اس سر زمین پر کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوئے ہیں۔ انسانوں کی اس کثیر تعداد میں سے صرف چند انسان یعنی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ”مقدس انسان“ ہی بطور نبی یا رسول

10

9

اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ بحیثیت نبی یا رسول مبعوث ہونے والے مقدس حضرات انسان ہی تھے لیکن وہ تمام حضرات عام سطح کے انسانوں کی طرح نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور چنے ہوئے ”خاص انسان“ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بے شمار خصوصیات عنایت فرمائی تھیں اور سب سے بڑی خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ انہیں نبوت و رسالت کے تاج کرامت سے نوازا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمائے ہوئے ”مخصوص انسان“، یعنی انبیاء و مرسلین کا مقصد حیات لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو صرف ایک ہی اللہ واحد القہار کی پرستش و عبادت اور توحید خالص کی تعلیم و ہدایت کرنا، برائی سے روکنا اور نیکی و بھلائی کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ ہر نبی پر وحی یعنی خدا کا پیغام آتا تھا۔ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم (وحی) نازل ہوتا تھا اُسے من و عن لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس فریضہ تبلیغ میں وہ حضرات کسی قسم کی کوتاہی یا کامیابی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کامل طور سے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو احکام الہیہ کی تعمیل کی تاکید، توثیق، اور ترغیب میں حد درجہ کوشش فرما کر لوگوں کو اعمال صالحہ پر عمل پیرا فرماتے تھے۔

لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے جو انبیاء کرام تھے وہ انسان ہی تھے اور جن لوگوں (امت) تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، وہ تمام لوگ بھی انسان ہی تھے۔ یعنی اللہ کے کچھ خاص انسان اللہ کا پیغام اللہ کے عام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ ان خاص انسان اور عام انسان کے جسمانی اعضاء اور ظاہری شکل و صورت یکساں تھے حالانکہ باعتبار مراتب و درجات ان میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ عظیم فرق تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث فرمودہ ”خاص انسان“، یعنی انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اللہ کا حکم اپنی قوم (امت) تک پہنچانے میں کسی قسم کا ڈر، خوف، غم، یا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بلا خوف لومة لائم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ ان حضرات قدسیہ نے کبھی بھی یہ پروا نہیں کی کہ یہ پیغام الہی لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں؟ بلکہ انہوں نے صاف لفظوں میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیا کہ اے لوگو! اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ

اپنے ذاتی اور معاشی مفاد کی فکر لگی ہوئی تھی۔ قریب کے مستقبل میں پیش آنے والی غربت اور مالی خسارہ کا بھیا تک منظر نگاہوں کے سامنے اُبھر آیا تھا۔ اس آنے والی آفت کی روک تھام کے لئے کونسی تدبیر کارآمد ہوگی اس مسئلہ پر گہری سوچ و فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کہنے کی ہمت اور حوصلہ کسی میں نہ تھا کہ چاہے خدا کا حکم ہے مگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ ایسا کہنے سے قوم کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خدا کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرنا ممکن نہیں۔ لہذا انہوں نے ایک منفقہ تدبیر سوچ نکالی کہ قوم کو اپنے نبی کی بات ماننے سے روکنے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم قوم کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ:-

”خدا کا حکم ماننے سے ہمیں انکار نہیں۔ خدا کے حکم کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے ہی یہ حکم دیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر یہ جواب ملا کہ خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اور خدا کے نبی نے خدا کا حکم ہم کو سنایا ہے تو ہم یہ کہہ کر ان کی بات کا رد کر دیں گے کہ یہ غلط ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ ہم تک کو نبی حکم پہنچانا چاہتا تو ضرور کسی فرشتہ کو ہم تک بھیج کر اپنا حکم پہنچا دیتا۔ ان نبیوں میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ ان کے ذریعہ ہم تک اپنے احکام پہنچائے؟ کیوں کہ خدا کا حکم ہم کو سنانے والے نبی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ یہ نبی خدا کا حکم ہم کو سنانے کے بہانے ہم پر فضیلت اور فوقیت حاصل کر کے قوم کے سردار اور رہبر بننا چاہتے ہیں اور اپنا ذاتی و سماجی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔“

مذکورہ بالا تجویز و تدبیر کو اپنا آئین مقصد بنا کر قوم کے اوباش افراد نے ایک اتحادی منظم سازش کے تحت انبیاء کرام کی بات سے لوگوں کو متنفر اور منحرف کرنے کی غرض فاسد سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم کو خدا کا حکم ماننے سے قطعاً انکار و رد نہیں لیکن جو نبی ہم کو خدا کا حکم سنارہے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر (انسان) ہیں۔ ان کی بات پر ہم اعتماد اور بھروسہ کیسے کریں؟ کفار، مشرکین اور دیگر رزائل افراد کے ”غیر مؤمن“ گروہ نے انبیاء کرام کی بات تسلیم کرنے سے لوگوں کو روکنے کے لئے توہین و تنقیص انبیاء کرام کے لئے ”بشر“ ہونے کا بہانہ

فلاں کام کرو اور فلاں کام مت کرو۔ نیکی اختیار کرو اور برائی سے پرہیز کرو۔ ہدایت کا راستہ اپناؤ اور گمراہی کی راہ پر چلنے سے اجتناب کرو۔ الغرض! انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی اُمت کو نیکی، بھلائی اور اخلاقی محاسن کی ہی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ لیکن ان انبیاء کرام کے تمام اُمتوں کو ان کی اخلاقی محاسن پر مشتمل تعلیم و تربیت پسند نہ آتی۔ کیونکہ ان کی قوم کے اوباش، لوفر، فساق، فجار، جرائم پیشہ، بُت پرست، کفار، مشرک، اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو انبیاء کرام کی دعوت حق سے بڑی تکلیف ہوئی اور ان مجرمانہ اور مشرکانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو اپنا ذاتی اور مالی خسارہ نظر آیا۔ مثال کے طور پر بت پرستی کا پیشہ کرنے والے کو جب اطلاع ہوئی کہ ہماری قوم کے نبی نے بت پرستی کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ تو اس کو اپنا ذاتی مفاد خطرہ میں محسوس ہونے لگا کیونکہ بت پرستی کے پیشہ میں بتوں پر جو چڑھاوا، بھینٹ، بلی، وغیرہ رسوم کے ذریعہ جو مستقل اور کثیر آمدنی ہوتی تھی وہ یک لخت بند ہو جانے کا اندیشہ نظر آنے لگا۔ باپ دادا کے زمانہ سے ہونے والی اور چلی آتی آمدنی کا سلسلہ اب منقطع ہو جائے گا۔ اس خیال سے وہ تمللا اُٹھے۔ آرام و راحت سے بسر ہونے والی زندگی اب مشقت و پریشانیوں سے دو چار ہوگی۔ اس تصور نے انہیں مضطرب کر دیا۔ ہائے! اب کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کی پرورش اور خاندان کے لئے ذریعہ معاش کا کیا انتظام ہوگا؟ اب کونسا کاروبار کروں گا؟ کونسی تجارت شروع کروں گا؟ نہ جانے وہ تجارت نفع بخش ہوگی یا نہیں؟ عرصہ دراز سے آرام سے بیٹھ کر حرام کی روٹیاں کھائی ہیں، اب محنت و مشقت کس طرح ہو سکے گی؟ اگر قوم نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا اور بت پرستی چھوڑ دی تو میرا تو دیوالہ نکل جائے گا۔ امیری اور تو نگری کے دن رخصت ہو کر غربتی اور مفلسی کے ایام شروع ہوں گے۔ لہذا اب کچھ کرنا چاہئے۔ لوگوں کو نبی کی بات تسلیم کرنے سے روکنا چاہئے۔

صرف بُت پرستی کے پیشہ آور ہی نہیں بلکہ جو، شراب، طوائف کی دیوٹی وغیرہ جیسے قبیح اور مذموم پیشہ آور بھی اسی طرح کی ذہنی اُلجھن میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی قوم کے نبی نے پرستش اصنام کے ساتھ ساتھ زنا، شراب، جو وغیرہ جیسے قبیح افعال کی بھی ممانعت فرمادی تھی۔ لہذا قوم کے ان اوباش اور بد معاش افراد نے متحدہ محاذ کی شکل اختیار کی۔ سب کو اپنے

اس آیت میں ایسا ذکر ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنے جیسا بشر کہا۔ مزید برآں حضرت ممدوح کی شان میں تنقیص و توہین کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم کو اللہ کا پیغام سنانے کے بہانے وہ ہمارا رہبر اور سردار بننا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو ہم تک کوئی پیغام بھیجنا تھا تو اس ”بشر“ (انسان) کے بجائے کسی فرشتہ کو بھیج دیتا۔ اس آیت سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کافر تھے۔ کیونکہ آیت، میں ”قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ کے الفاظ وارد ہیں اور جس کا ترجمہ ”جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے“ ہوتا ہے۔ نبی کے لئے لفظ ”اپنے جیسا بشر“ کا استعمال کرنا زمانہ قدیم کے کافروں کا طرز عمل ہے۔

## ”حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو تو حید خالص کا پیغام دیا اور لوگوں کو اصنام پرستش یعنی بتوں کی پوجا کرنے اور بتوں کو اپنا معبود ماننے سے روکا اور صرف ایک اللہ واحد القہار کی عبادت کرنے کی نصیحت فرمائی تو ان کی قوم کے کافروں نے قوم کے لوگوں کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات تسلیم کرنے سے روکنے کے لئے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی بات مت مانو، یہ تمہاری طرح بشر ہیں۔ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ علاوہ ازیں قوم نوح اور قوم عاد کے کافروں نے بھی اپنے نبی کے متعلق یہی بات کہی تھی۔ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ وَلَئِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ“  
(پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۳۳، اور ۳۴)

ہاتھ پر دھرا اور ہر بات کا انکار کرنے کے لئے صرف ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کرنے لگے۔ المختصر! ہر نبی اور رسول کے دور میں انبیاء کرام کے دشمنوں اور گستاخوں نے ”بشر“ ہونے کا معاملہ اٹھا کر یکساں سلوک کیا ہے۔ نبی کو بشر کہنے کی ذہنیت ان کو ان کے مقتدا اور گرو گھنٹال ابلیس لعین نے دی ہے کیونکہ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا شیطان ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا بین ثبوت موجود ہے۔ جس کی تفصیلی بحث ہم انشاء اللہ اگلے صفحات میں زیور گوش سامعین اور مبصر چشم ناظرین کی غرض سے پیش کریں گے۔

قرآن مجید میں نبی و رسول کے مخالفین یعنی کفار، مشرک، مرتد، و منافق گروہ کی اس ”بشر“ والی بولی کا متعدد مقام پر تذکرہ ہے۔ جن میں سے چند آیات کریمہ پیش خدمت ہیں:-

## ”حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا“

حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو بت پرستی اور دیگر افعال زریلہ و قبیحہ سے روکتے ہوئے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور نیکی اور بھلائی کی راہ اختیار کرو۔ تب حضرت نوح کی قوم کے کافروں نے جواب دیتے ہوئے کہا:-

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً“

حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۴

ترجمہ:- تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔“  
(کنز الایمان)

## ”حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو براہیوں سے روکا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا، تو ان کی قوم نے ان کے پیغام کو جھٹلانے کے لئے ”بشر“ ہونے کا ہی بہانہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۳۱ پھر چند آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ”مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ“ (پارہ: ۱۹، سورہ الشعراء، آیت: ۱۳۱، اور آیت: ۱۵۴)

ترجمہ:- ”ثمود نے رسول کو جھٹلایا“ ۱۳۱ ”تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ، اگر سچے ہو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لئے یہ بات ہی اٹھائی کہ تم تو ہماری طرح بشر (آدمی) ہو۔ حضرت صالح کو بشر کہنے کا ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضرت صالح کو ہمارے جیسا بشر کہہ کر ان کی شان و عظمت گھٹائی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و تعظیم جمنے نہ پائے۔ حضرت صالح کو بشر کہہ کر ان کی صداقت کو بھی چیلنج کیا اور یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے نبی اور رسول ہونے کی دعوے میں سچے ہو، تو کوئی نشانی (معجزہ) پیش کرو۔

ترجمہ:- ”کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو، جب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیت میں قوم نوح، قوم ہود، اور قوم عاد کے کفار کا مقولہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ نبی تم جیسے ہی بشر ہیں اور جو تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی وہی کھاتے پیتے ہیں اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی فرمانبرداری کی تو تم ضرور گھائے یعنی نقصان میں ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد کے کافروں نے ”بشر“ ہونے کا سبب اور بہانہ جتا کر اپنی قوم کو انبیاء کرام کے خلاف درغلانے اور اُکسانے کی کوشش کی اور قوم کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد کے کافروں نے بھی اپنے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا تھا اور ان کے انسان ہونے، کھانے پینے اور بقا ضائے بشری کے افعال کو دلیل بنا کر ان کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کی سعی ناکام کی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو مؤمن نہیں ہوتا، وہی اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کرتا ہے۔ اور بشر ہونے کا بہانہ پیش کر کے نبی کا تقرب الی اللہ، نبی کا تصرف من اللہ، نبی کی وجہا بہت عند اللہ، اور نبی کے اختیارات من جانب اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر کے تنقیص و توہین انبیاء کرام کے ارتکاب کا جرم عظیم کرتا ہے۔ لیکن جو سچا مؤمن ہوتا ہے وہ ان گستاخوں کی توہین آمیز گفتگو کا قطعاً اثر نہیں لیتا بلکہ ان کی دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور نبی کی عظمت و صداقت کا صدق دل سے قائل ہوتا ہے۔

## ”قومِ ثمود اور دیگر اقوام کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا“

کفارِ قومِ ثمود نے بھی قومِ نوح اور قومِ عاد کی طرح اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کر کے لوگوں کو ان کی رسالت و نبوت کا انکار کرنے پر ابھارنے کی رزیل حرکت کی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  
وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ؕ قَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا  
تُرِيدُونَ أَن تَصَدُّونَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطٰنٍ  
مُّبِينٍ ؕ

(پارہ: ۱۳، سورۃ ابرہیم، آیت: ۹، اور ۱۰)

ترجمہ:- ”کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے بھی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے۔ بولے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو، جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو۔ یہ کلام ان کا عناد اور سرکشی سے تھا۔ اور باوجود کہ انبیاء آیات (نشانیوں) لاکچے تھے۔ معجزات دکھا چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے نئی سند مانگی اور پیش کئے ہوئے معجزات کو کالعدم قرار دیا۔

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۶۲)

## ”حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اصحابِ نیکہ نے اپنے جیسا بشر کہہ کر جھٹلایا“

حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ”اصْحَابُ النَّيْكَةِ“ یعنی ”بن والوں“ نے اپنے جیسا بشر کہہ کر جھٹلایا۔ یہ بن (صحرا) مدین کے قریب واقع تھا۔ جس میں کثیر تعداد میں درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جیسا کہ اہل مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۷۳) اصحابِ مدین اور بن والوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اور کم تولتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ رہزنی یعنی لوٹ مار اور ڈکیتی کا پیشہ کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کی کھیتیاں تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اللہ کا ڈر سنایا اور ان افعالِ رزیدہ و قبیحہ سے باز آنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رُشد و ہدایت پر مشتمل باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا لہذا انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے لوگوں کو روکنے کے لئے وہی ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ؕ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا  
وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ؕ

(پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۸۵ و ۱۸۶)

ترجمہ:- ”بولے تم پر جادو ہوا ہے ؕ تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور بیشک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔“ (کنز الایمان)

ترجمہ:- ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔“  
(کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی نبوت اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے۔“  
(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۴۶۲)

اس آیت میں انبیاء کرام کے جواب کا بیان ہوا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی قوم کے انبیاء کافروں کو جواب دیا ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی تحقیر اور تذلیل کرتے تھے۔ انبیاء کرام نے ان بشر کہنے والوں کو ایسا جامع اور مانع جواب مرحمت فرمایا ہے کہ اگر ان کافروں میں ذرہ برابر بھی فہم و عقل ہوتی تو وہ انبیاء کرام کے صرف ایک جملے پر مشتمل جواب سے اپنے زعم باطل اور اعتقاد فاسد کا ردِ بلیغ اور دندان شکن جواب محسوس کرتے۔ انبیاء کرام نے نبی کو بشر کہنے والے کافروں کو جو جواب دیا ہے اس کے جملے پر قارئین کرام خاص توجہ فرمائیں۔ کافروں نے کہا کہ انبیاء ہماری طرح بشر ہیں۔ انبیاء کرام نے کافروں کو جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمہارے جیسے بشر لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کافرو! ہم صرف ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہیں لیکن ظاہری صورت کی مساوات سے دھوکہ کھا کر ہم کو اپنے جیسا قیاس مت کرو کیونکہ ”وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ یعنی ”اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما کر ہمیں نبوت و رسالت کا تاج کرامت عنایت فرما کر ہمیں تم سے افضل اور برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور ہم کو نبوت و رسالت کا جو منصب عطا فرمایا اس منصب عالی کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان باعتبار مراتب فرق عظیم ہے۔ ہم تمہاری مثل نہیں اور نہ تم ہماری مثل ہو اور نہ ہو سکتے ہو۔

اس آیت میں صاف بیان ہے کہ قوم شمود، قوم نوح، قوم عاد اور بعد کی دیگر اقوام کے کافروں نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کھلم کھلا کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، تو اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کوئی روشن دلیل پیش کرو۔ تاکہ تمہارا نبوت کا دعویٰ سچ ثابت ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن انبیاء کرام سے ان کی نبوت کے ثبوت میں کافروں نے دلیل طلب کی تھی۔ ان انبیاء کرام نے بہت سی روشن دلیلیں پیش فرمادی تھیں لیکن ان کی قوم نے بغض، عناد، سرکشی اور ہٹ دھرمی کی بنا پر جدید دلیل طلب کی تھی اور اب تک کے پیش کردہ معجزات کا انکار کر دیا تھا۔ الحاصل! ان کافروں نے انبیاء کرام کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے بشر ہونے کا بہانہ پیش کیا تھا۔

”نبی کو بشر کہنے والے کافروں کو انبیاء کرام نے کیا جواب دیا تھا؟“

جب قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، شمود اور دیگر اقوام کے کافروں نے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی شان اور عظمت گھٹا کر ان کے منصب تبلیغ اور پیغام توحید کی وقعت و اہمیت کم کر کے لوگوں کو ان کی بات ماننے سے روکنے کی کوشش کی اور بشر ہونے کا مسئلہ زور و شور سے چھیڑا اور نبی کی رشد و ہدایت پر مشتمل باتیں کاٹنے کے لئے ہر بات میں بشر، بشر اور بشر کی راگنی آلا اپنی شروع کی، تب ان کو جواب دیتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

”قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“

(پارہ: ۱۳، سورہ ابراہیم آیت: ۱۱)



معاملہ اٹھایا تھا۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور فرعون اور اس کے درباریوں کو ”دعوتِ حق“ دی، تو فرعون اور اس کے ہمنواؤں نے جو جواب دیا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝  
الَّذِي فَذَعُونَ وَمَلَآئِئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ۝  
فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا“

(پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۴۵، تا ۴۷)

ترجمہ:- ”پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سندوں کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر۔“ (کنز الایمان)

## ”حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو حواری کو کافروں اور مشرکوں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دو حواری (صحابی) کو ملک شام (Syria) کے دارالسلطنت انطاکیہ (Antioch) بھیجا تاکہ وہ وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی طرف بلائیں اور ان کو شرک و کفر سے باز رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے جن صحابہ کو ملک شام دعوتِ حق کا فریضہ انجام دینے کے لئے ارسال فرمایا تھا، ان کے اسمائے گرامی صادق اور مصدق ہیں۔ ایک روایت میں ان کے نام یوحنا اور

## ”فرعون اور فرعونوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے جیسا بشر کہا“

کافروں، مشرکوں، منافقوں اور مرتدوں نے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم افضل الصلوٰۃ والسلام کو ”اپنے جیسا بشر“ کہنے کا سلسلہ ہر دور میں جاری رکھا۔ انبیاء کرام کی رشد و ہدایت پر مشتمل باتوں اور ان کے اظہار من الشمس معجزات کا جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تب انہوں نے دلیل کے میدان سے راہ فرار اختیار کر کے ذاتیات پر حملہ (Personall Attack) کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ انبیاء کرام کی مذہبی، سماجی، شرتی، اقتصادی، روایاتی، ازواجی، معاشرتی، اخلاقی بلکہ ذاتی اور نجی زندگی کے ہر پہلو کو ٹوٹا لگا کر شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس کو تختہ مشق بنا کر ان کے دامن عصمت پر کچھڑا چھالا جائے لیکن ان کو ناکامیابی اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ”محفوظ و محفوظ“ بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ جن سے کسی قسم کے گناہ، بد تہذیبی، یا باعث تنفر کسی فعل کے صدور کا امکان ہی نہ تھا۔ بلکہ وہ تمام حضرات علم و عمل، حلم و حکمت، رشد و ہدایت، نیکی و بھلائی، تواضع و انکساری، ہمدردی و نمکساری، تقویٰ و پرہیزگاری، صبر و بردباری، جو دو سخا، ہر اعتبار سے اخلاقی محاسن کے پیکر جمیل تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے اور لوگوں کو ان سے منحرف کرنے کے لئے ایسی کوئی بات دستیاب نہ ہوئی۔ جس کو پیش کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم چلائی جائے۔ البتہ! لے دے کر ان کے پاس صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ہتھیار باقی تھا اور وہ بشریت کا ہتھیار تھا۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم والصلوٰۃ والسلام کے خلاف ہر دور کے کافروں نے ”بشر“ ہونے کا رونا رو کر اپنا سینہ پیٹا ہے۔ زمانہ ماضی کے کفار کے نقش قدم پر چل کر فرعون لعین نے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے خلاف بھی بشر ہونے کا

## ”اولوالعزم انبیاء کرام کو بشر کہا گیا“

”وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَا فَقْدَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُو بِهَا بِكْفِيرِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ ط قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ط إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشَرًا مِنْ شَيْءٍ ۝

(پارہ: ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۸۴ تا ۹۱)

ترجمہ:- اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کئے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیوکاروں کو ۝ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں ۝ اور اسمعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی ۝ اور کچھ

بولس وارد ہیں۔ بہر حال حضرت عیسیٰ کے دونوں صحابہ بنی اسرائیل کے اولیاء عظام میں سے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ خرق عادت تصرفات اور کرامات سے نوازا تھا۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرستادہ مذکورہ بنی اسرائیل کے اولیاء عظام جب ملک شام کے شہر انطاکیہ گئے اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے لوگوں کو مسخر کر کے ان کو ضلالت اور گمراہیت کی راہ سے موڑ کر رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے لگے اور بت پرستی اور دیگر افعال رزیلہ اور عقائد باطلہ و فاسدہ سے تائب کرا کر توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی تعلیم دینے لگے، تو ملک شام کے کافروں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواریوں کے متعلق کہا کہ:-

”قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ۝

(پارہ: ۲۲، سورۃ یس، آیت: ۱۵)

ترجمہ:- ”بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا۔ تم نرے جھوٹے ہو۔ (کنز الایمان)

اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ نے انبیاء کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے ان کو ”اپنے جیسا بشر“ کہا۔ اسی طرح اولیاء عظام کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے اولیاء کو بھی اپنے جیسا بشر کہا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو مقدس حواری (صحابی) یعنی حضرت صادق اور مصدق یا بروایت دیگر حضرت یوحنا اور حضرت بولس اجلہ اولیاء بنی اسرائیل سے تھے۔ ان کے متعلق بھی سرکشوں نے یہی کہا کہ ”مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا“ یعنی ”تم ہمارے جیسے آدمی ہو“ ان سرکشوں کے نقش قدم پر چل کر درحاضر کے منافقین بھی انبیاء اور اولیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے اور لکھتے ہیں۔

- ان نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
- وہ ہمارے قرب کے لائق ہیں۔
- ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔
- ہم نے انہیں چُن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔
- ہم نے ان کو کتاب دی۔
- ہم نے ان کو حکم دیا۔
- ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔
- ہم نے ان کی ہدایت فرمائی۔

انبیاء کرام کے مندرجہ بالا فضائل و خصائص قرآن مجید میں اس لئے بیان فرمائے گئے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انبیاء کرام اور دیگر عباد صالحین اللہ کے پیدا کئے ہوئے انسان اور اللہ کے بندے ہونے کے باوجود کثیر فضیلتوں اور خصوصیتوں کے حامل ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری طرح عام انسان نہیں ہیں یعنی ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ نہیں ہیں۔ ظاہری صورت بشری سے دھوکہ کھا کر ان کو اپنے جیسا قیاس مت کرنا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”وَاجْتَبَيْنَاهُمْ“ یعنی ”ہم نے انہیں چُن لیا ہے“، یعنی یہ حضرات عام انسانوں کی طرح اور تمہاری مثل نہیں بلکہ ہمارے خاص اور چُنے ہوئے بندے ہیں۔ ان کی عظمت اور شانِ رفعت کا ہم ہمارے مقدس کلام یعنی قرآن مجید میں بیان فرما کر تمہیں آگاہ و متنبہ کرتے ہیں کہ خبردار! ان حضرات کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا بلکہ ان کے جن اوصاف کا ہمارے مقدس کلام میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان اوصاف کو ہمہ وقت ملحوظ خاطر رکھ کر ان کے عظمت و رفعت کے مقرر اور معترف رہنا۔ لیکن! سرکشوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم عالی کو بھی لا اُبالی پُن اور بے اعتنائی سے پس پشت ڈال دیا اور بغض و عناد کے جذبہ کے تحت عداً اور قصداً انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہا اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام اور حکم کی بے قدری اور بے وقعتی کرنے کا جرم عظیم کیا۔ جس کا بیان بھی مندرجہ بالا آیات میں ہے کہ:-

”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ یعنی ”اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی۔“

ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے انہیں چُن لیا اور سیدھی راہ دکھائی ○ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا ○ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں، تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے، جو انکار والی نہیں ○ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، تو تم انہیں کی راہ چلو، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اُجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کو ○ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اُتارا ○“ (کنز الایمان شریف)

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور عظیم المرتبت انبیاء و مرسلین کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں جن انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت اسحاق (۲) حضرت یعقوب (۳) حضرت نوح (۴) حضرت داؤد (۵) حضرت سلیمان (۶) حضرت ایوب (۷) حضرت یوسف (۸) حضرت موسیٰ (۹) حضرت ہارون (۱۰) حضرت زکریا (۱۱) حضرت یحییٰ (۱۲) حضرت عیسیٰ (۱۳) حضرت الیاس (۱۴) حضرت اسمعیل (۱۵) حضرت یسع (۱۶) حضرت یونس اور (۱۷) حضرت لوط (علی نبینا وعلیہم افضل الصلوة والسلام)

مذکورہ مقدس انبیاء کرام کے علاوہ ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ حضرات کا ضمناً اور اشارہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر ۸۷ میں ہے کہ ”وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ“ یعنی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے۔

مذکورہ نفوس قدسیہ کا مذکورہ آیات میں ذکر فرما کر ان کی شانِ عظمت اور فضیلت کا اظہار فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

○ ہم نے ان کو راہ دکھائی

## ”اگلی امتوں کے کفار انبیاء کرام

### کو بشر کہہ کر کافر ہوئے“

قرآن مجید میں ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ:

”الْمَ يَأْتِكُمْ نَبْوًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَمَا قَبَلُ مَا أَقْبَلُ وَمَا أَقْبَلُ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا“

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۶۵)

ترجمہ:- ”کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور  
اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ۝ یہ اس  
لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو بولے کیا آدمی  
ہمیں راہ بتائیں گے۔ تو کافر ہوئے اور پھر گئے۔“ (کنز الایمان)  
تفسیر:- ”یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔“  
عقلی اور نا فہمی ہے، بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔“  
(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۰۱)

اس آیت کریمہ کے الفاظ اور ترجمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ  
متعدد مرتبہ اس کی تلاوت فرمائیں اور بنظر عمیق غور و فکر کریں تو آپ کی فہم سلیم میں یہ حقیقت  
پتھر کی لکیر کی مانند منقش ہو جائے گی کہ:-

اگلی امتوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور دردناک عذاب کے مستحق ہوئے ان  
کافروں کے کفر کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو بشر کہا تھا۔ اس آیت شریف

اللہ تعالیٰ ان منکرین عظمت انبیاء کی خوئے بد اور نصلتِ نافرمانی کا ذکر فرماتے ہوئے  
ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے  
ارشاد اور فرمان کی قدر نہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور چُنے ہوئے بندے یعنی انبیاء  
کرام اور عباد صالحین کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اُس کے وقت میں فضیلت دی، ان کو  
ہمارے قرب کے لائق بنایا وغیرہ وغیرہ لیکن سرکشوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ مانا اور  
فرمانِ الہی کی قدر نہ جانی اور کیا کہا؟

”اِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِنْ شَيْءٍ“ یعنی ”جب بولے اللہ نے کسی  
آدمی پر کچھ نہیں اتارا“ یعنی انبیاء کرام کو بشر کہا، اور بشر کہنے کی آڑ اور پردہ میں ایمان لانے  
کا انکار کیا۔

ثابت ہوا کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں، وہی نبی اور رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔  
علاوہ ازیں نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ارتکاب جرم تو ہیں  
انبیاء کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ:-

◎ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مقدس بندے انبیاء کرام نیکو کار ہیں، ہدایت  
یافتہ ہیں، ہمارے قرب کے لائق ہیں، ہم نے ان کو فضیلت دی، ہم نے  
ان کو چن لیا، ہم نے ان کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرما کر برگزیدہ کیا۔  
لیکن.....!!!

◎ سرکش لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ فرمانِ الہی کے متضاد  
بولی بول کر سخت اور قبیح جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

گمراہی اور ضلالت کی تاریکی سے نکل کر ہدایت و نور کی روشنی سے فیضیاب ہو رہے تھے اور اسلام کا پرچم آب و تاب سے لہرانے لگا تو کفار، مشرکین، یہود اور نصاریٰ کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے اور لوگوں کو گروہ درگروہ اور جوق در جوق داخل اسلام ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے چنگاریاں اُڑنے لگیں۔ اسلام کے اُمنڈتے اور بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لئے انہوں نے کئی حربے آزمائے اور ان میں کا ایک حربہ وہی گھسا گھسایا اور پرانا حربہ، جو ان کے آباء و اجداد بلکہ ماضی کے کفار و مشرکین سے وراثت میں ملا تھا اور وہ حربہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ماضی کے انبیاء کرام کی طرح ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی شوکت کے پھریرا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ بشری تقاضوں کے تحت ان سے جو افعال صادر ہوتے ہیں مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، وغیرہ کو پیش کر کے ان کو اپنے جیسا بشر کہہ کر لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکا جائے۔ اس منصوبہ کے تحت کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ نے متحدہ و منظم سازش شروع کی اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت و رفعت گھٹانے کے فاسد ارادہ سے ”بشر“ ہونے کا شور اور واویلا مچانا شروع کیا اور لوگوں کو بہکانے کے لئے کہنے لگے کہ ان کی بات مت مانو، ان پر ایمان مت لاؤ، ان کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تمہاری مثل ایک ”بشر“ ہی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

منکرین رسالت کی ”بشر والی بولی“ کا قرآن مجید میں متعدد مقام پر تذکرہ ہے چند آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں:-

○ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُجُ فِي

الْأَسْوَاقِ ط لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا“

(پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت ۷)

ترجمہ:- ”اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں

چلتا ہے۔ کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ

ڈر سنا تا۔“ (کنز الایمان)

کے جملہ کے الفاظ کی ترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ ان کافروں نے کہا کہ یہ بشر کیا ہمیں راہ بتائیں گے؟ ان کا یہ مقولہ نقل فرمانے کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے کہ ”فَكَفَرُوا“ یعنی ”تو کافر ہوئے“ ثابت ہوا کہ نبی کی شان گھٹانے کے لئے نبی کو صرف ”بشر“ کہنے والے کو قرآن کافر کہہ رہا ہے تو جو لوگ نبی کو صرف ”بشر“ نہیں بلکہ ”اپنے جیسا بشر“ اور ”عاجز بندہ“ کہتے ہیں، ان کے لئے کیا حکم نافذ ہوگا؟ اس کا فیصلہ اور فتویٰ قارئین کرام اپنے دل سے ہی طلب فرمائیں۔

”حضور اقدس ﷺ کو بھی کفار، مشرکین،

منافقین، یہود اور نصاریٰ نے اپنے

جیسا بشر کہنے کی گستاخی کی تھی“

کفار اور مشرکین نے زمانہ قدیم سے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو انبیاء کرام پر ایمان لانے سے روکنے کا سب سے سہل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تم جن کو نبی یا رسول مان کر، ان پر ایمان لا کر، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو وہ تم جیسے ہی بشر ہیں۔ جب یہ تمہاری طرح بشر ہیں تو ان میں کوئی خصوصیت نہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا عقل و دانش سے بعید ہے۔ کفار اور مشرکین نے ہر دور میں یہی ہتھکنڈا آزما یا اور ہر دور کے نبی اور رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کی۔

اوراق سابقہ میں انبیاء سابقین کو ان کے دور کے منکروں نے اپنے جیسا بشر کہنے کی جو رزیل حرکتیں کیں تھیں اس کا تفصیلی بیان آیات قرآنی کی روشنی میں گوش گزار کیا گیا۔

قرناً بعد قرن جب سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا اور آفتاب رسالت و ماہتاب نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”نور حق“ کی ضیا باری سے عالم کائنات درخشاں اور تاباں ہو رہا تھا اور بنی آدم

اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ زمانہ اقدس کے کفار اور مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے تمہارے جیسے بشر کہنے کی جو ہم چلائی تھی اس کا منشا اور مقصد صرف یہی تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم ہو جائے اور لوگ آپ پر ایمان لانے سے باز رہیں۔ علاوہ ازیں مذکورہ آیت کے مقدس الفاظ ”وَاسْرُوا النَّجْوَى“ یعنی ”اپس میں خفیہ مشورت کی“ سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی پالیسی کفار اور مشرکین کی ”خفیہ مشورت“ (Concealed Policy) تھی اور اس خفیہ مشورت کا مقصد اصلی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرادی جائے کہ جس رسول کی محبت کا تم دم بھرتے ہو وہ رسول تمہاری طرح بشر ہیں۔

زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے طرز عمل کو مشعل راہ بنا کر دور حاضر کے منافقین بھی انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر عوام المسلمین کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم کرنے کی سازش کرتے ہیں اور اس سازش کو ایک منظم جماعتی حیثیت سے رائج کرتے ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں کیونکہ اپنے اس فاسد اعتقاد کو زیور طباعت سے آراستہ کر کے شائع کرتے ہیں۔ ماضی کے کفار اور دور حاضر کے منافقین کا نبی کو بشر کہنے کا نظریہ یکساں ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ ماضی کے کفار اپنا یہ فاسد نظریہ خفیہ طور پر پھیلاتے تھے لیکن دور حاضر کے منافقین زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین سے دو نہیں بلکہ چار قدم آگے ہیں۔ کیونکہ جو بات علی الاعلان کہتے ہوئے ماضی کے کفار و مشرکین جھکتے تھے اور چھپ چھپ کر خفیہ طور پر جو بات کہتے تھے، وہی بات دور حاضر کے منافقین علانیہ طور پر کہہ کر اپنی بیباکی، بے حیائی، بے شرمی، شقاوت قلبی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

المختصر! حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت کو گھٹانے کی غرض سے زمانہ اقدس کے کفار و مشرکین نے ”بشر“ ہونے کے معاملہ کو غلو کی حد تک اچھالا اور اُبھارا اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ جہاں دیکھو وہاں ”بشر“ والا معاملہ زیر بحث تھا۔ انکار نبوت کے

اس آیت میں منکرین رسالت کا مقولہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لئے حضور اقدس کو بشر ثابت کرنے کے لئے لوگوں سے کہا کہ دیکھو دیکھو، تم جس کو اللہ کا رسول سمجھ کر ان کے لئے ہوئے دین میں داخل ہو رہے ہو۔ وہ رسول تو ہماری تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ہم کو اللہ کا حکم سنا کر ڈراتا لیکن ان کے ساتھ نہ تو کوئی فرشتہ ہے علاوہ ازیں وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں لہذا وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ ثابت ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے ہی ”بشر والی بولی“ کا استعمال کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نضر بن حارث نام کے سردار کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ (بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۴۸)

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

①

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلُوبُهُمْ طَ وَاسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

(پارہ: ۱۷، سورۃ الانبیاء، آیت ۳:)

ترجمہ:- ”ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں؟ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔“

(کنز الایمان)

تفسیر:- ”یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضور کے زمانہ کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا لیکن آج کل کے بعض بیباک یہ کلمہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور نہیں شرماتے۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۷۹)

آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت اور قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس کا انداز بیان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ ”قل“ یعنی ”اے محبوب! تم فرماؤ“۔ آیت میں سب سے پہلا لفظ ”قل“ وارد ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ ہم اگلے صفحات میں آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ“ (الضح کے ضمن میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنی بات ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ منکرین بارگاہ رسالت کو جو جواب مرحمت فرما رہا ہے وہ اپنے محبوب کی زبانی مرحمت فرما رہا ہے لیکن وہ جواب مرحمت فرمانے سے پہلے اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ کافروں نے تم کو اپنے جیسا بشر کہا ہے۔ ان کا جواب دینے سے پہلے تم ہماری پاکی بیان کرو اور فرماؤ کہ ”سُبْحَانَ رَبِّي“ یعنی ”پاکی ہے میرے رب کو“۔ کافروں کو جواب دینے سے قبل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں کیا حکمت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔

”پاکی ہے میرے رب کو“ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کی قدرت و حکمت غیر متناہی اور ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کے اسرار و رموز ہر عیب و نقص سے پاک ہیں۔ میرا رب ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کی تمام صفات میں عیب و نقصان کا وہم و گمان و امکان ہی نہیں ہو سکتا بلکہ مکمل ”سبحان اور سبحان“ یعنی پاکی اور ”پاکی“ کے جلوے ہی ہیں۔ اس رب سبحان عظیم نے اپنے پیدا کئے ہوئے بے شمار انسانوں میں سے چند مخصوص اور چنے ہوئے انسانوں کو نبوت و رسالت کے منصب عالی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس پاک رب قدر نے انسانوں ہی میں سے اپنے مخصوص بندوں کو جب نبی اور رسول کی حیثیت سے چنا ہے تو رب قدر کا یہ چنا اور پسند فرمانا بھی عیب و نقص سے پاک ہے۔ ان انبیاء و مرسلین کا انسان ہونا کوئی عیب یا نقص نہیں بلکہ رب سبحان عظیم کی حکمت کاملہ کے اسرار و رموز کا مخزن ہے۔ لہذا اے نا فہمو! اے بے عقلو! اگر تمہارے زعم و خیال میں نبی و رسول کا انسان ہونا عیب ہے تو تم رب کی قدرت اور اس کی شان سبحان عظیم میں عیب جوئی کرتے ہو۔ اگر نبی اور رسول کا انسان ہونا عیب یا نقص ہوتا تو وہ پاک رب اپنے مخصوص بندوں کو یعنی نبوت

لئے ان کفار کے پاس صرف ”بشر“ کا معاملہ ہی سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اس معاملہ کے ضمن میں انہوں نے شور و غل اور واویلا مچا رکھا تھا۔ کفار و مشرکین کے اس ہنگامہ کا رد بلیغ اور مسکت جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ:-

”قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۗ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۗ“

(پارہ: ۱۵، سورہ: بنی اسرائیل، آیت: ۹۳ و ۹۴)

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔“  
(کنز الایمان)

تفسیر:- ”رسول کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقرر اور معترف نہ ہوئے۔ یہی ان کے کفر کی اصل تھی اور اسی لئے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔“  
(تفسیر خزائن، العرفان، ص: ۵۲۶)

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ”بشر“ ہونے کا غوغا مچایا اور ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کر کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کی تحریک کو فروغ دیا اور معاملہ حد سے بڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ”قل“ یعنی ”اے محبوب! تم فرماؤ“ کیا فرمادو؟ ”سُبْحَانَ رَبِّي“ یعنی ”پاکی ہے میرے رب کو“۔ قارئین کرام خاص توجہ دیں اور اس آیت کریمہ کے انداز بیان کی خوبیوں سے لطف اندوز ہوں اور بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں اپنے رُوف و رحیم

اس بحث کو مزید طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت، تصرفات و کمالات، خصوصیات و صفات، فضائل و کمالات اور دیگر محاسن طیبہ عالیہ کا اقرار و اعتراف نہ کیا اور آپ کو صرف بشر ہی جانتے رہے اور یہی بات ان کے کفر کی اصل تھی۔ نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کافر کے کافر ہی رہے۔

ایک اہم نکتہ کی طرف بھی قارئین کرام کی توجہات ملتفت کرنا ضروری ہے کہ اس آیت میں ”بَشَرًا رَّسُولًا“ کا جو جملہ ہے وہ جملہ حضور اقدس کی زبانی ادا کیا گیا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا“ یعنی ”میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔“ حضور اقدس نے خود اپنی زبان مقدس سے اپنے لئے ”بَشَرًا رَّسُولًا“ کا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لئے نہیں کہا کہ میرا محبوب ”بَشَرًا رَّسُولًا“ ہے بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب! ”قُلْ“ تم کہہ دو! اس میں کیا حکمت و راز ہے اس کی تفصیلی وضاحت بھی آئندہ صفحات میں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الرُّوحُ“ آیت کے ضمن میں کی گئی مفصل بحث میں ملاحظہ فرمائیں۔

## ”سب سے پہلے ابلیس نے نبی کو بشر کہا ہے“

یہاں تک کی تمہیدی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے زمانہ کے کافروں اور مشرکوں نے ان کو ”بشر“ اور ”اپنے جیسا بشر“ کہا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے لیکن ہم نے یہاں صرف اکتیس (۳۱) آیات تلاوت کیں ہیں۔ ان ۳۱ آیات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے زمانہ کے کفار و مشرکین نے اپنے جیسا بشر کہا تھا۔

ورسالت کے عالی منصب پر فائز ہونے والے مقدس حضرات انبیاء کو بشریت کے عیب و نقص سے مُنْقِصَت نہ کرتا۔

اب وہ جواب ملاحظہ فرمائیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے کے مطابق کفار و مشرکین کو سنایا ”هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا“ یعنی ”میں کون ہوں، مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔“ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہا تھا۔ آپ کو بشر کہنا ان کی عقل کا فتور و فساد تھا۔ ان کی نا فہمی اور بے عقلی کا ہی نتیجہ تھا کہ اپنے پر قیاس کر کے یہ نازیبا بات کہی تھی۔ لہذا ان کی عقلوں کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا گیا کہ تم میرے متعلق بشر ہونے کی بات پھیلاتے ہو، اور میرے بشر ہونے کے معاملہ کو اہمیت دیتے ہو، تو اب مجھ سے سنو، ہاں! ہاں! میں بشر (آدمی) ہی ہوں لیکن صرف بشر ہی نہیں بلکہ ”بَشَرًا رَّسُولًا“ یعنی ”اللہ کا بھیجا ہوا آدمی (بشر) ہوں۔ میں تمہاری طرح عام سطح کا انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا مخصوص، چنا ہوا اور منصب رسالت سے سرفراز رسول ہوں۔ مجھے صرف بشریت سمجھو۔ اپنی بشریت پر میری بشریت کو قیاس مت کرو، کیونکہ میں ”بَشَرًا رَّسُولًا“ ہوں۔ تمہارا مجھے بشر کہنا تمہاری گمراہی و ضلالت کا سبب ہے۔ جو تمہیں ایمان لانے سے روکتا ہے۔ ”وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا“ یعنی ”اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر یہ کہ بولے اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟“ یعنی میں تمہارے پاس رُشد و ہدایت کا پیغام تو حید لے کر آیا ہوں۔ تاکہ تمہیں کفر و شرک کی ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی دولت سے مالا مال کروں لیکن تم میرے بشر ہونے کے معاملہ کو اٹھاتے ہو اور دولت ایمان سے محروم رہتے ہو اور میرے رسول ہونے میں شک کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تم میرا بشر ہونا ہی دیکھتے ہو لیکن میرے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ کمالات نہیں دیکھتے۔ ہاں! ہاں! سن لو! میں بشر ہوں تو کیا ہوا؟ میرا بشر ہونا تمہاری طرح نہیں۔ میں ”بَشَرًا رَّسُولًا“ ہوں۔ مجھے عام بشر کی مانند گمان کر کے ایمان سے کیوں محروم رہتے ہو؟



- حضرت ابراہیم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے دو ہزار، تین سو (۲۳۰۰) سال پہلے ہے۔
- حضرت سیدنا نوح اور حضرت عیسیٰ کے درمیان چار ہزار ایک سو (۴۱۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- حضرت زکریا کا زمانہ حضرت یعقوب کے زمانہ سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال بعد میں ہے۔
- حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک ہزار نو سو (۱۹۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- حضرت یعقوب اور حضرت داؤد کے درمیان تقریباً بارہ سو (۱۲۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- حضرت ہارون اور حضرت الیاس کے درمیان تقریباً چھ سو (۶۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- حضرت عیسیٰ اور حضور اقدس کے درمیان تقریباً پانچ سو (۵۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔ (علی نبینا وعلیہم والصلوة والسلام)

لیکن تمام انبیاء کرام کے زمانہ کے کفار و مشرکین نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ ”بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمِثْلُكُمْ“ یعنی ”ہمارے اور تمہارے جیسے بشر“ زمانہ بدلتا گیا، انبیاء کرام کی بدلیاں ہوتی رہیں، انبیاء کرام کے دشمن بھی تبدیل ہوتے رہے لیکن تمام انبیاء کرام کے خلاف ہر زمانہ میں صرف ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا کہ یہ تو ہمارے اور تمہارے جیسے بشر ہیں۔ کسی بھی نبی کے خلاف اس کی عمر، تجارت، صنعت، پیشہ، خاندان، حسب و نسب، منصب، قومیت، وغیرہ وجوہات کی بناء پر علم بغاوت بلند نہیں کیا گیا۔ بلکہ ہر نبی کے خلاف ہر دور میں ”بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمِثْلُكُمْ“ یعنی ”ہمارے اور تمہارے جیسے بشر“ کا نعرہ ہی بلند کیا گیا۔ کفار و مشرکین کو ”بشر“ ہونے کے علاوہ اور کوئی بہانہ ہی نہ ملتا تھا حالانکہ وہ بہت سے معاملات کو وجہ و سبب بنا کر مخالفت کر سکتے تھے۔ مثلاً:-

- حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۴
  - حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۳۳ و ۳۴
  - حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۴۵ و ۱۴۶
  - حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۸۵ و ۱۸۶
  - حضرت نوح، حضرت ہود وغیرہ علیہم الصلاۃ والسلام = حوالہ: پارہ: ۱۳، سورۃ ابراہیم، آیت ۹ و ۱۰
  - حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۵ تا ۲۸
  - حضرت عیسیٰ کے دو حواری صادق و صدوق = حوالہ:- پارہ: ۲۲، سورۃ یونس، آیت: ۱۵
  - حضرت اسحاق، ابراہیم، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ الیاس، اسمعیل، یسع، یونس، اور لوط علی نبینا وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۸۴ تا ۹۱
  - عظیم المرتبت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۵ و ۶
  - حضور اقدس سید المرسلین ﷺ = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۷
  - حضور اقدس سید المرسلین ﷺ = حوالہ:- پارہ: ۷، سورۃ الانبیاء، آیت: ۳
  - حضور اقدس سید المرسلین ﷺ = حوالہ:- پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۹۳ و ۹۴
- المختصر! ہر نبی کے دور کے کفار و مشرکین نے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ کہا۔ اور اپنے اس کہنے سے نبی کی شان میں توہین و تنقیص ہی مراد لی تھی۔
- اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا مذکور انبیاء کرام کے زمانہ میں طویل فاصلہ تھا۔ بہت کم انبیاء کرام ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا زمانہ کسی دوسرے نبی کے زمانہ سے ملحق ہو۔ بلکہ اکثریت یہی پائی جاتی ہے کہ ایک نبی کا زمانہ دوسرے نبی کے زمانہ سے بہت بعد میں تھا۔ مثلاً
- حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً اٹھارہ سو (۱۸۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔

ایک ہی قوم، ایک ہی خاندان یا ایک ہی ملک کے نہ تھے۔ حاصل کلام یہ کہ کسی بھی نبی کے حسب، نسب، خاندان، شہر، ملک، زبان، قومیت، تجارت، پیشہ، حکومت، عمر شریف وغیرہ کسی بھی معاملہ پر کفار و مشرکین نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن ہر نبی پر صرف ”بَشَرٌ وَمِثْلُنَا وَمِثْلَكُم“ یعنی ”ہمارے اور تمہارے بشر“ کا اعتراض ہر زمانہ میں ہوا ہے۔

حضرت سیدنا آدم سے حضور اقدس رحمت عالم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تک تقریباً دس ہزار (۱۰,۰۰۰) برس کا زمانہ گزرا ہے۔ دس ہزار برس کا فاصلہ کوئی قلیل فاصلہ نہیں بلکہ بہت ہی طویل فاصلہ ہے۔ اور اس دس ہزار سال کے فاصلہ کے درمیان بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، جدید ایجادیں ہوئیں، پرانے طرز عمل کے بجائے نئے نئے طور و طریقے آئے۔ لیکن انبیاء کرام کی شان و عظمت گھٹانے کا کفار و مشرکین کا جو طریقہ تھا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں ایک ہی مساوی نعرہ تھا۔ اور وہ ہے یعنی ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کا نعرہ۔ اس نعرہ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی و ترمیم نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں یہ نعرہ اپنے اصلی حال پر رہا۔ زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین ہوں، یہود و نصاریٰ ہوں یا پھر دور حاضر کے منافقین ہوں، تمام اسلام دشمن عناصر انبیاء کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے ہمیشہ ہمارے اور تمہارے جیسے بشر والا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو کیا ہر دور کے منافقین، مشرکین، کفار، یہود و نصاریٰ کی ایک ہی پالیسی (Policy) و روش کسی مخصوص سربراہ و لیڈر کی ذہنیت کا ہی نتیجہ تھا؟ زمانہ قدیم میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبریں آسانی سے نہیں پہنچتی تھیں کیونکہ اس زمانہ میں اخبار و اطلاعات کی نشر و اشاعت کے کوئی وسائل و ذرائع مہیا نہ تھے۔ لہذا ایک مقام کی خبریں زمانہ دراز تک دوسرے مقام تک ارسال نہ ہوتی تھیں لیکن نبی کو ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کا ”نعرہ“ ایک مقام سے دوسرے مقام تک فوراً پہنچ جاتا تھا بلکہ وہ نعرہ ہر مقام اور ہر زمانہ میں ”مساوی نعرہ“ (Equal Clamour) کی حیثیت سے کفار و مشرکین کے مابین عام و رائج تھا۔ ہر زمانہ اور ہر مقام کے کفار و مشرکین اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی ہدایت و نصیحت قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مقام کے کفار و مشرکین کو نبی کو اپنے جیسا بشر

عمر کا معاملہ:- انبیاء کرام کی ظاہری حیات کی عمریں متفرق ہوئی ہیں:-

- حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف ساڑھے نو سو (۹۵۰) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو پچھتر (۱۷۵) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو اسی (۱۸۰) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو ستالیس (۱۴۷) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو بیس (۱۲۰) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف صرف تینتیس (۳۳) سال ہوئی ہے۔
  - حضرت اقدس علیہ السلام کی عمر شریف صرف ترستھ (۶۳) سال ہوئی ہے۔
- حالانکہ کفار و مشرکین عمر کے فرق پر اعتراض کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عمر کے فرق پر کوئی اعتراض نہ کیا اور صرف ”بشر“ ہونے کا ہی اعتراض کیا۔

پیشہ و تجارت کا معاملہ:- انبیاء کرام نے مختلف پیشے اختیار کئے تھے۔ مثلاً:-

- حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کاشت کاری (کھیتی) کرتے تھے۔
- حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کپڑے سیتے تھے۔
- حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام لوہے کی زر ہیں اور ہتھیار بناتے تھے۔
- حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بکریاں چراتے تھے اور ایک عرصہ دراز تک ملازمت بھی کی ہے۔
- حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے۔
- حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ملازمت اور مصر کی بادشاہت بھی فرمائی ہے۔
- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، ملک شام کا تجارتی سفر بھی فرمایا ہے۔

الختصر! ہر نبی نے اپنے دور میں ضرورت کے پیش نظر جائز کاروبار کر کے ذریعہ معاش و کسب حلال کے لئے محنت و مشقت فرمائی ہے۔ ملازمت کی ہے۔ تجارت کی ہے، مزدوری کی ہے، درزی اور لوہار کا کام کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ علاوہ ازیں تمام انبیاء کرام صرف

فرشتے۔ عزازیل کو جنات کی سرکوبی کی خدمت انجام دینے کے انعام میں زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی گئی اور جنات کے خزانے بھی عنایت کئے گئے۔ عزازیل (ابلیس) کبھی زمین میں، کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں مقبول بارگاہ رب العزت کی حیثیت سے آمد و رفت اور عبادت کرتا رہتا تھا۔ (بحوالہ: تفسیر نعیمی، جلد: ۱، ص: ۲۳۸، ۲۳۹)

عزازیل (ابلیس) جو زبردست عالم و عابد تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ ذرہ برابر کوتاہی نہ کرتا تھا۔ جنات کو زمین سے نکلنے کی مہم میں اس نے نمایاں خدمت انجام دی تھی۔ اور حکم الہی کی بجا آوری میں قابل تحسین رول ادا کیا تھا۔ اس عزازیل کو کیا ہو گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک سجدہ کرنے سے باز رہا اور مردود ہو گیا۔ ایک ذرا معاملہ تھا کہ اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر لے کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لئے جھکنا تھا لیکن وہ نہ جھکا بلکہ اکڑا اور بارگاہ الہی سے مردود ہو کر نکلا۔

قرآن شریف میں ہے کہ:-

”فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ  
سُجْدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ ط  
أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝“ (پارہ ۱، سورۃ الحجر، آیت ۲۹)

ترجمہ:- ”تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا ۝ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدہ میں گر پڑے ۝ سوا ابلیس، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا۔“ (کنز الایمان)

یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ کیا لیکن شیطان اکڑا اور اس نے سجدہ کرنے میں فرشتوں کا ساتھ نہ دیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب کہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ ابلیس جس نے لاکھوں سال عبادت کر کے کروڑوں کھربوں سے

کہنے کی ذہنیت کس نے سکھائی؟ جواب صاف ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ اب یہ جانچ کریں کہ نبی کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ اس سوال کا جواب ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام یعنی قرآن مجید سے حاصل کریں۔

شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کس وجہ سے سجدہ نہ کیا؟

قرآن مجید میں کئی مقام پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول انسان، ابوالبشر، حضرت سیدنا آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا۔ اور سجدہ نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں اس کی لاکھوں برس کی عبادت و ریاضت اکارت و برباد ہو گئی اور وہ اللہ کے مقرب بندہ کے عہدہ سے معزول ہو کر مردود اور معلون بن گیا۔

ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کا نام ”عزازیل“ تھا۔ عزازیل بہت ہی بڑا عابد اور عالم تھا۔ علم اور عبادت میں تمام فرشتوں سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ یہاں تک کہ وہ معلم المملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ تھا۔ عزازیل نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام بھی انجام دیئے تھے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے ساٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسائے اور آباد کئے تھے۔ زمین میں آباد ہونے کے سات ہزار سال کے بعد جنات میں آپسی اختلافات کی ابتداء ہوئی۔ یہ اختلافات رفتہ رفتہ بغض و حسد اور سخت عداوت کی حد تک پہنچ گئے اور نتیجتاً جنات میں آپس میں جنگ و جدال اور خونریزی تک نوبت پہنچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل (ابلیس) کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں میں آباد کرو۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے عزازیل نے یہ خدمت بخوبی انجام دی اور جنات کو پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیئے۔ عزازیل نے اپنے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیئے۔ تب سے فرشتوں کے دو حصے ہوئے۔ زمین والے فرشتے اور آسمان والے

اس نے بیباکی سے یہ جواب دیا کہ ”لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدْ لِبَشَرٍ“ یعنی ”مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں۔“ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بشر کہا اور بشر ہونے کی وجہ سے ہی تعظیم کرنے یعنی تعظیم کا سجدہ کرنے سے صاف انکار کیا۔ ثابت ہوا کہ بیت تو بین نبی کو بشر کہنے والا سب سے پہلا فرد شیخ نجدی یعنی ابلیس تھا۔ بشر ہونے کی وجہ سے نبی کی تعظیم نہیں کرنی چاہئے یہ نظریہ سب سے پہلے ابلیس نے قائم کیا ہے اور ابلیس کے نقش قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کفار و مشرکین نے اور دورِ حاضر کے منافقین نے انبیاء کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لئے ابلیس کی بولی بولنا اختیار کیا اور نبی و رسول کو بشر کہا۔ بلکہ ابلیس سے بھی دو قدم آگے سبقت لے گئے کیونکہ ابلیس نے تو حضرت آدم علیہ السلام والصلوٰۃ کو صرف ”بشر“ ہی کہا تھا لیکن کفار، مشرکین اور منافقین نے انبیاء کرام کو ”بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمِثْلَكُمُ“ یعنی ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کہہ کر توہین و تنقیص انبیاء میں ابلیس سے بھی بڑھ گئے۔

اب اس آیت کے اہم نکات کی طرف توجہ دیں:-

① شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا، تو سجدہ نہ کرنے پر فوراً نہیں نکالا گیا بلکہ اس سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت کیا گیا اور اس نے جو سبب بتایا اس سبب کی وجہ سے ہی اسے مردود بنا کر نکالا گیا اور وہ سبب تھا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیر جان کر انہیں ”بشر“ کہا۔ اللہ کے مقدس نبی کو ”بشر“ کہنا اتنا بڑا جرم ثابت ہوا کہ اس کی لاکھوں برس کی عبادت اکارت ہو گئی اور اس کے تمام مناصب و درجات سلب کر لئے گئے۔ ثابت ہوا کہ سجدہ نہ کرنے کا جو سبب تھا یعنی حضرت آدم کو بشر کہنا وہ سبب ہی اس کے لئے مہلک ثابت ہوا اور جب اس نے سجدہ نہ کرنے کا سبب ظاہر کر دیا تو فوراً اس پر عتاب نازل ہوا کہ ”قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ“ یعنی ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔“ اللہ کے مقدس نبی کو بشر کہنے کے جرم کی سزا میں ابلیس کو مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت کا باشندہ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر جنت سے باہر نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لئے مردود اور لعنت کا حقدار ہو گیا۔ تو جنہوں نے دنیا میں رہ کر نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جنت کا داخلہ حاصل

بھی زیادہ سجدے کئے تھے، اُسے صرف ایک سجدہ کرنے سے کیا اعتراض تھا؟ اور اعتراض و انکار بھی اس سجدہ سے کیا، جس سجدہ کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جب فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرنے گرے تو شیطان حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ فوراً اس کی صورت مسخ ہو گئی۔ حالانکہ شیطان شکل و صورت میں بہت ہی خوبصورت تھا لیکن سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا جسم خنزیر کا اور چہرہ بندر کا ہو گیا۔ (بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد ۱: ۲۷۴)

اب ہم ہماری گفتگو کے مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ نہ کیا۔ اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ دیکھیں:-  
قرآن مجید میں ہے کہ:-

”قَالَ يَا ابْنِ آدَمَ اسْجُدْ لِصَلَاتِهِ مِنْ صُلْصَالٍ مِّنْ حَمَامٍ سُنُونَ ۖ قَالَ لَا سَجْدٌ لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَامٍ سُنُونَ ۖ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ“  
(پارہ: ۱۴، سورۃ الحجر، آیت ۳۲ تا ۳۵)

ترجمہ:- ”فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی؟ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے؟ اور بیشک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔“ (کنز الایمان)

قارئین کرام! اس آیت کو اور اس کے ترجمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید نے صاف فیصلہ فرما کر یہ بات ظاہر فرمادی کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”بشر“ ہونے کی وجہ سے ہی سجدہ نہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو

دریافت نہ فرماتا اور اپنے علم میں اس کی وجہ ہونے کی وجہ سے اسے مردود و لعین بنا کر نکال دیتا تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت تک ہونے والوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا کہ شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کر سجدہ نہ کیا، اس لئے وہ مردود ہو گیا اور یہ راز کسی پر نہ کھلتا کہ شیطان نے اللہ کے برگزیدہ بنی کی تعظیم سے انکار کرتے ہوئے اور انہیں حقیر جانتے ہوئے انہیں ”بشر“ کہنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا ہے۔

شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ قیامت تک ہونے والے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہہ کر اور جان کر سجدہ سے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان ”کافر“ ہوا ہے۔ شیطان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہنے کی ابتداء شیطان نے کی ہے اور اللہ کے نبی کو بشر کہنا شیطان کا طریقہ ہے۔

کیا ہے بلکہ جنت کی ہو اتک بھی انہیں نہیں لگی۔ وہ دور حاضر کے منافقین شیخ نجدی ابلیس لعین کے نقش قدم پر چل کر انبیاء کرام کو صرف بشر نہیں بلکہ اپنے جیسا بشر کہہ کر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ ابلیس لعین کہ جو جنت میں تھا وہ نبی کو بشر کہنے کی بے وقوفی کی وجہ سے جنت سے باہر پھینک دیا گیا اور ابلیس کے چیلے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر جنت میں جانے کی تمنا کر کے کتنی بڑی بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

② شیطان نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ ”قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّجِدِيْنَ“ ترجمہ: فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس سوال کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم نہ تھی؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”وَلِيْمِحْصَ مَا فِي قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ مِّ بَدَاٰتِ الصُّدُوْرِ“  
(پارہ: ۴، سورۃ ال عمران، آیت: ۱۵۴)  
ترجمہ:- ”اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اُسے کھول دے اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے بلکہ دل میں جو خیال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شیطان نے حضرت آدم کو کیوں اور کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی تو پھر شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

کے ایمان چھین کر ان کو گمراہیت کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا۔ حضرت آدم کو تعظیم کا سجدہ نہ کر کے میں دوزخ اور عذاب کا مستحق ہوا ہوں، لہذا اس سزا کا بدلہ لیتے ہوئے حضرت آدم کی اولاد کے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔

تمام انسان کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور تمام انسان حضرت آدم کی ذریت یعنی اولاد ہیں۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم سے انتقام لینے کی آگ شعلہ زن ہے لہذا وہ بنی آدم (انسان) کو اپنے ہتھکنڈوں سے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میری تباہی اور بربادی کا سبب حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کرنا اور ان کو بشار کہنا ہے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ ہی حضرت آدم کو بشار کہا تو میری لاکھوں برس کی عبادت اور ساتھ میں میرا ایمان بھی ضائع و برباد ہو گیا۔ تو اگر میں اولاد آدم یعنی انسانوں کو بھی نبی کو بشار کہنے کی ذہنیت دے دوں، تو ان کی عبادت کی بساط کتنی ہے؟ یہی سو، پچاس یا پانچ سو برس کی عبادت ہوگی۔ میں نے تو اللہ کے نبی کو صرف ایک مرتبہ صرف ”بشر“ کہا ہے۔ آدم کی اولاد کو نبی کو بشار کہنے کی تسبیح پڑھا دوں۔ بلکہ ”اپنے جیسا بشر“ کہلوادوں۔ صرف کہلوادوں کو ہی دم نہ لوں بلکہ ان سے کتابیں لکھوادوں تاکہ پل بھر میں ان کے ایمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ ہر زمانہ اور ہر مقام کے لوگوں کو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ذہنیت دے دوں اور ان کے ایمان چھین کر ان کو جہنم میں دھکیل کر اپنا بدلہ لے لوں۔

چنانچہ ہر زمانہ اور ہر مقام کے لوگوں کو شیطان نے انبیاء کرام کو ۷ بشر ۷ اپنے جیسا بشر ۷ تمہارے جیسا بشر ۷ عاجز بندے ۷ ہمارے بڑے بھائی وغیرہ کہنے کی ذہنیت دی اور ان کو گمراہ کیا، ان کے ایمان چھینے، ان کے عمل برباد کیئے، ان کو جنت سے محروم کیا اور جہنم کے حقدار بنا دیئے۔

## ”انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کو شیطان نے ہی یہ ذہنیت دی ہے“

جب شیطان تعظیم نبی کا منکر ہو کر مردود ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے جو کہا اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا“

(پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۶۲)

ترجمہ:- ”بولادیکھتو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ مگر تھوڑا۔“  
(کنز الایمان)

یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ! تو نے حضرت آدم کو مجھ سے معزز یعنی زیادہ عزت والا بنایا اور اس کو سجدہ کرا کر مجھ پر فضیلت دی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو میں آدم کی اولاد کو گمراہیت کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا۔ شیطان کو معلوم ہو چکا تھا کہ میری لاکھوں سال کی عبادت کا اُکارت وضائع ہونا، جنت کے خزانے، زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت کا مجھ سے چھینا جانا، میرا جنت سے نکالا جانا، میرا مردود بننا، قیامت تک کے لئے میری گردن میں لعنت کا طوق پڑنا، یہ سب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری اس بربادی اور تباہی کا سبب حضرت آدم ہیں۔ لہذا میں بھی انتقام لے کر رہوں گا۔ حضرت آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے، ان

مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ط وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ“

(پارہ: ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۳۰)

ترجمہ:- ”اور اے محبوب! یاد کرو، جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے۔ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔“  
(کنز الایمان)

اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ:-

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار قریش دارالندوہ (کمپنی گھر) میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا ہوں۔ مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔

ابوالبحتری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو اور دروازہ بند کر دو۔ صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا۔ بہت ناخوش ہوا اور کہا کہ نہایت ناقص رائے ہے۔ یہ خبر مشہور ہوگی اور ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔

## ”انبیاء کرام کے خلاف کی جانے والی ہر سازش میں شیطان شریک ہوتا ہے“

اوراق سابقہ میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ۳ ”لَا هِيَّةَ قُلُوبُهُمْ ط وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ”ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کی کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت شریف میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کفار اور مشرکین خفیہ مشورہ کرتے ہیں یعنی Secrate Meeting کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی شان و عظمت گھٹانے کی سازش کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے اور میٹنگ میں شریک ہونے والے نمائندوں کو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ترغیب اور ذہنیت دیتا ہے۔

شیطان لعین کے ہتھکنڈے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے اس کے دام فریب میں پھنس کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً انبیاء کرام کی عظمت گھٹانے اور ان کی توہین و تنقیص کے معاملہ میں شیطان ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور اپنے مشورے دیتا ہے۔ جیسا کہ:-

### دارالندوہ کی میٹنگ میں شیطان بصورت شیخ نجدی حاضر تھا:-

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے کفار مکہ نے ”دارالندوہ“ نام کے کمپنی گھر میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور کفار قریش کے ہر قبیلہ کے سردار اور دانشمند برائے مشورہ جمع ہوئے تھے۔ جس کا ذکر قرآن

خبر تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مرد اپنی شہوت کسی مرد کے ساتھ بد فعلی کر کے پوری کرے۔ دنیا میں لواطت کی ابتداء قوم لوط نے کی ہے۔ قوم لوط سے پہلے کسی نے بھی لواطت کی بد فعلی نہیں کی تھی۔

قرآن مجید میں ہے کہ:-

”وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ“

(پارہ: ۸، سورۃ الاعراف، آیت: ۸۰ و ۸۱)

ترجمہ:- ”اور لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو، جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ۝ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔“  
(کنز الایمان)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ لواطت کی بے حیائی قوم لوط سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ لواطت کی ابتداء قوم لوط نے کی ہے۔ اور قوم لوط کو لواطت کرنا شیطان نے سکھایا ہے۔ شیطان نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو لواطت کس طرح سکھائی؟ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

”حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بن ہاران بن تاریخ رشتہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے تھے۔ یہ حضرات ”عراق“ (Iraq) کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے ہجرت فرما کر ”فلسطین“ (Palastine) تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام (Syria) کے شہر ”اردن“ (Jordan) میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ”سندوم“ والوں کی ہدایت کے لئے بھیجا۔

پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو (یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو) اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو۔ پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کوئی ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیئے ہیں اور تمہارے دانشمندیوں کو حیران بنا دیا ہے اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو؟ تم نے اس کی شیریں زبانی اور سیف کلامی اور دکشی نہیں دیکھی ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب کو تسخیر کر کے ان لوگوں کو ساتھ لے کر تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس پر اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔

اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے اپنی رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دیں جائیں۔ وہ سب یکبارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ غایت یہ ہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے گا وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنی خواب گاہ میں شب کو نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ (حوالہ تفسیر خزائن العرفان: ۳۲۵)

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف کی جانے والی سازش میں ابلیس لعین ضرور شریک ہوتا ہے اور اپنے مشورے پیش کرتا ہے اور لوگوں کے ایمان برباد کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی قوم کو اخلاق سے گھرے ہوئے افعال فتنج میں ملوث کر دیتا ہے۔ مثلاً:-

قوم لوط کو لواطت کا فعل فتنج شیطان نے سکھایا ہے:-

لواطت (Homo Sex) کی قباحت اور نحوست سے دنیا کے تمام انسان انجان و بے



لواطت کا فعل قبیح سمکھایا اور رفتہ رفتہ بستی والے اس بے حیائی کے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔“

حوالہ: - (۱) تفسیر روح البیان، جلد: ۳، ص: ۱۹۷

(۲) تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۸۹

(۳) صاوی، جلد: ۲، ص: ۱۷۵ اور

(۴) عجائب القرآن، ص: ۱۲۷

شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد یعنی نوع انسانی کے ایمان اور اخلاق تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی بلکہ ان کو ذاتی اور مالی مفاد کی طمع اور لالچ میں لپیٹ کر گمراہیت اور ضلالت کی گہری ندی میں غرق کر دیا۔ المختصر! شیطان ناصح اور ہمدرد کی صورت اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایسے ایسے مضر اور مہلک مشورے دے کر ان کو کفری ذہنیت سکھاتا ہے۔ اور نبی کو بشر کہنے کی ذہنیت بھی ابلیس کا اختراع ہے۔ کفار، مشرکین اور منافقین کو انبیاء کرام سے منحرف کرنے کے لئے اس نے ان کو یہ ذہنیت دی کہ یہ تو ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ ہیں۔ شیطان کے اس دام فریب کا شکار بن کر ہر دور کے کفار اور مشرکین نے اپنے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔

لہذا ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ:-

- شیطان کے بہکاوے میں آ کر کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں نے ہی نبی کو ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے۔
- کسی بھی نبی کے کسی بھی مومن امتی نے اپنے نبی کو اپنے جیسا ”بشر“ نہیں کہا۔ صرف کفار امتی نے ہی اپنے نبی کو ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے۔

- سب سے پہلے نبی کو بشر کہہ کر کافر ہونے والا ابلیس لعین تھا اور ابلیس لعین کے نقش قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کافروں نے اپنے نبی کو ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے۔

شہر سندوم نہایت ہی آباد، سرسبز و آباد تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ نیز وہاں کی آب و ہوا بھی فرحت بخش تھی۔ شہر سندوم کی خوشحالی اور زرخیزی کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ وہاں سیر و تفریح کے لئے گاہے گاہے آیا کرتے تھے اور اپنے پیچان کے لوگوں یا رشتہ داروں کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرتے تھے۔ ہر گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ شہر کے لوگوں کو بحیثیت میزبان مہمانوں کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا اور مہمانوں کی خدمت میں ان کا کافی مال اور وقت صرف ہوتا تھا۔ روز بروز مہمانوں کی آمد اور ان کی مہمان نوازی سے لوگ کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے لیکن مہمانوں کی بکثرت آمد کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اخلاقی طور و اطوار اور سماجی مراسم کا لحاظ کرتے ہوئے بادل ناخواستہ بھی وہ مہمانوں کو ”خوش آمدید“ کہہ کر حتی الامکان اور حسب استطاعت ان کی خاطر داری کرتے تھے۔

ایک عرصہ دراز تک مہمانوں کی خاطر داری کرتے کرتے شہر سندوم کے باشندے اکتا گئے تھے اور اب مہمانوں کو آنے سے روکنے کی کوئی تدبیر اور صورت تلاش کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں شیخ نجدی یعنی ابلیس لعین شہر سندوم میں ایک بوڑھے شخص کی صورت میں نمودار ہوا اور مہمانوں سے تنگ آئے ہوئے میزبان لوگوں کو جمع کر کے ان کو مشورہ دیا کہ اگر واقعی تم مہمانوں کی آمد سے پریشان ہو اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو ایک آسان تدبیر بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آ کر ٹھہرے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بد فعلی کرو۔ ایک مرتبہ تمہاری اس حرکت کا تجربہ کرنے والا پھر کبھی تمہارے یہاں آنے کی جرأت و ہمت نہیں کرے گا۔ اور رفتہ رفتہ یہ بات پھیل جائے گی کہ تمہاری بستی میں آنے والے مہمان کی جبراً ”عصمت دری“ ہوتی ہے۔ تو پھر لوگ تمہارے یہاں آتے ہوئے جھجھک محسوس کریں گے بلکہ اپنی مردانہ عصمت لوٹ جانے کے خوف سے تمہاری بستی میں پاؤں تک نہیں رکھیں گے۔

چنانچہ ابلیس لعین سب سے پہلے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر شہر سندوم کی بستی میں آیا اور بستی والوں سے خوب خوب بد فعلی کرائی۔ خود مفعول بن کر بستی والوں کو

◎ جنہوں نے نبی کو بطور توہین ”بشر“ کہا ہے وہ ایمان و ہدایت سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔

## ”قرآن شریف میں حضور اقدس ﷺ کے لئے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا ارشاد خداوندی کیوں نازل ہوا ہے؟“

زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چل کر دورِ حاضر کے منافقین بھی حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہتے اور لکھتے ہیں۔ شانِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں توہین و تنقیص کی فاسد غرض واردہ سے ان کو ”بشر“ ہی نہیں بلکہ اپنے جیسا بشر کہہ کر ”بڑا بھائی“ اور ”عاجز بندہ“ کہنے تک کی جرأت و دلیری کرتے ہیں اور اپنے اس دعویٰ کو مناسب و راست ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ قرآن کی اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو حکم فرمایا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور حضور اقدس نے خود اپنے کو ہمارے جیسا بشر کہا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی و تعلیم سے کہتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی آیت کے جملے نقل کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی توہین نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔

دورِ حاضر کے منافقین کی مندرجہ بالا وضاحت کے دام فریب میں بھولے بھالے مؤمن پھنس جاتے ہیں اور ان کی ”ہاں“ میں ”ہاں“ ملا کر ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بے سمجھے بوجھے ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی صحیح تفہیم حاصل کرنے کی سعی و کوشش کریں۔

اب ہم ہماری گفتگو کے اہم مقام پر آ پہنچے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔“ اس آیت کو دلیل بنا کر دورِ حاضر کے منافقین نے ایک عظیم فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ لہذا اس آیت کے ضمن میں دورِ حاضر کے منافقین کے اقوال، نظریات، اعتقاد وغیرہ کا جائزہ لے کر ان کے عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ کا ردِ بلخ، اس آیت کریمہ کی صحیح ترجمانی و تفسیر، اس آیت کے ہر لفظ کی وضاحت، اس آیت میں پوشیدہ اسرار، رموز و حکمت کا انکشاف، عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نازل شدہ اس آیت کی صحیح تفہیم اور دورِ حاضر کے منافقین اس آیت سے غلط مفہوم استدلال کر کے من گھڑت معنی اخذ کر کے جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے قرآن و احادیث کے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے اگلے صفحات میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ یک سوئی سے ان اوراق کا بنظر عمیق مطالعہ فرمائیں۔

(۷) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں کیا فرق ہے؟

(۸) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بشر تھے؟ اور آپ کی بشریت کیسی تھی؟ ان تمام سوالات کے مدلل اور اطمینان بخش جوابات ہم قرآن و حدیث سے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کریں گے۔ اُمید ہے کہ قارئین کرام انشاء اللہ ضرور مطمئن ہوں گے۔

### انبیائے سابقین کو بشر کہنے والوں نے انبیائے کرام

سے معجزات طلب کیے تھے:

دور حاضر کے منافقین اور زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے عقائد و نظریات میں یکسانیت اور یکجہتی ہے۔ اس حقیقت کے ثبوت میں قرآن کی روشن آیات شاہد عادل ہیں۔ مضمون و عنوان کا ربط و تسلسل برقرار رکھنے کے لئے قارئین کرام اور اوراق سابقہ میں تلاوت کردہ سورہ ابراہیم کی آیات نمبر ۱، ۱۱ اور ۱۱ کی طرف پھر ایک مرتبہ رجوع فرمائیں۔

سورہ ابراہیم میں ہے کہ:-

”قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تَرِيدُونَ اَنْ تَصَدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ“

(پارہ: ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت: ۱۰)

ترجمہ:- ”بولے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اُس سے باز رکھو جو

ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے

آؤ۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ جب انبیاء سابقین نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے کفر اور شرک کی باتوں سے روکا۔ تو قوم کے سرکشوں نے انبیاء کرام کی بات کو جھٹلانے کے ارادہ سے انہیں بشر کہا اور مزید یہ کہا کہ ”فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ“ یعنی ”اب

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ“

(۱) پارہ: ۲۴، سورہ تم سجده، آیت: ۶

(۲) پارہ: ۱۶، سورہ الکھف، آیت: ۱۱۰

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر دور حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں اور حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر کہہ کر:-

علم غیب نبی کا انکار کرتے ہیں۔

حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر، عاجز بندہ، بڑے بھائی، وغیرہ کہتے ہیں۔

مر کے مٹی میں مل گئے اور ہماری فریاد و پکار نہیں سن سکتے۔

ان کو کسی قسم کا تصرف و اختیار نہیں۔ وغیرہ

الغرض! اس قسم کے نازیبا اور توہین آمیز کلمات کہنے کے لئے قرآن مجید کی مرقوم آیت کریمہ کے غلط مفہام اخذ کرتے ہیں اور گمراہیت و بے دینی پھیلاتے ہیں۔

اب ہم اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنی بحث کا آغاز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ:-

(۱) اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کیوں کہا گیا ہے؟

(۲) حضور اقدس کو بشر کہنے میں کیا راز اور حکمت ہے؟

(۳) اس آیت میں ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا خطاب کن سے ہے؟ یعنی مخاطب کون ہیں؟

(۴) اس آیت کے الفاظ، جملہ کی بندش، کلام کی فصاحت و بلاغت وغیرہ سے کیا مطلب

اخذ کیا جاسکتا ہے؟

(۵) اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا عظمت ظاہر فرمائی گئی ہے؟

(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے؟

فضیلت اور معجزات و تصرفات کے اختیارات سے سرفراز فرما کر انہیں عام انسانوں سے ممتاز بناتا ہے۔

انبیائے کرام کا یہ جواب ایسا جامع و مانع تھا کہ مخالفین کے ”بَشَرٌ مِّثْلُنَا“ کے اعتراض کا ردِ بلیغ اور مُسکِت جواب تھا۔ اور اشارہ و کنایہ میں فرما دیا تھا کہ تم ہم سے معجزہ طلب کرتے ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم معجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت تمہارے کہنے پر معجزہ دکھانا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ البتہ جب ضرورت محسوس ہوگی تب ہم معجزات دکھائیں گے اور حسبِ وعدہ انبیائے کرام سے عظیم معجزات صادر ہوئے مثلاً:-

○ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ کی چٹان کی طرف اشارہ کر کے چٹان سے زندہ اونٹنی نمودار کر دی، جو نہایت خوبصورت، بلند قامت اور حسین تھی۔

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۸، سورۃ الاعراف: آیت ۷۳، ۷۴ تا ۷۹)

○ حضرت حزقیل (ذوالکفل) علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے ستر ہزار مردہ آدمی پھر زندہ ہو کر اپنی بستی میں آ کر آباد ہو گئے۔

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۲، سورۃ البقرہ: آیت ۲۴۳)

○ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چار پرندے ذبح کر کے اس کا قیمہ بنا کر آپس میں ملا دیا پھر ان پرندوں کو پکارا تو وہ تمام پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ (تفصیل کے لئے: پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۰)

○ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہ کر پھر زندہ باہر تشریف لائے۔ (تفصیل کے لئے: پارہ: ۲۳، سورۃ الصَّفَّٰتِ، آیت: ۱۳۹ تا ۱۴۶)

○ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کی لکڑی (لاٹھی) سانپ بن جاتی تھی، نیز آپ کا ہاتھ (دست مبارک) سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۱۸ تا ۲۴)

○ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سخت لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔

کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔“ یعنی ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کفار و مشرکین نے انبیاء کرام کو معجزہ دکھانے کا جو چیلنج (Challenge) دیا تھا وہ بغض و عناد کے جذبہ کے تحت جھگڑا کرنے اور تماشاکھڑا کرنے کے انداز میں دیا تھا۔ انبیائے کرام نے ایسے اوباش لوگوں سے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور ”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“ پر عمل کرتے ہوئے بات کو طول نہ دیا۔ اور ان کے سوال کے انداز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ:-

”قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (پارہ: ۱۳، سورۃ ابراہیم آیت: ۱۱)

ترجمہ:- ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔“ (کنز الایمان)

انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت عطا فرمایا تھا۔ یعنی علم دانائی عطا فرمایا تھا۔ علم و دانش میں وہ حضرات اپنی مثال آپ تھے۔ حالات کی سنگینی، وقت کا تقاضا، مخاطب کی صلاحیت، عوام کی عقلی بساط، لوگوں کی قوتِ تحمل، مخالفین کے تیور، موافقین کی تائید، وغیرہ امور میں وہ دُور رس نگاہ رکھتے تھے۔ مخالفین نے انبیائے کرام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان سے معجزہ طلب کیا، تو انبیائے کرام نے ان کی فہمائش پر مشتعل ہوئے بغیر ضبط و تحمل سے کام لیا۔ جاہلانہ طرزِ عمل اختیار کر کے آستینیں نہ چڑھائیں کہ ارے! ہم سے کوئی سند یعنی معجزہ مانگتے ہو، ہم ابھی معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ بلکہ حکمتِ عملی سے کام لیا۔ کفار و مشرکین کو ایسا جواب دیا کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی فہم و دانش ہوتی، تو سمجھ جاتے کہ ہم کو دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان سرکشوں نے انبیائے کرام سے یہ کہا تھا کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔ انبیائے کرام نے ان کو ان کی عقل کی بساط کے مطابق جواب مرحمت فرمایا کہ اے لوگو! تم ہم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں! ہاں! ”إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان“ لیکن ہماری ظاہری صورت کی مساوات سے دھوکہ کھا کر ہمیں حقیقت میں اپنے جیسا گمان مت کرو کیونکہ ”وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ یعنی ”مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نبوت کی

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۳، سورہ: ال عمران، آیت: ۴۹)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے کہ:-

”أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ“

(پارہ: ۳، سورہ: ال عمران، آیت: ۴۹)

ترجمہ:- ”میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔“ (کنز الایمان)

حضرت عزیر بن شریخا علیہ الصلاۃ والسلام:-

حضرت عزیر بن شریخا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے تقریباً چھ سو سال پہلے تھا۔

جب قوم بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ سخت نَصْرِ بابلی نام کے ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا۔ ایک لاکھ آدمیوں کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور ایک لاکھ آدمیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بھی انہیں قیدیوں میں تھے۔ بخت نصر بابلی بادشاہ نے بیت المقدس شہر کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور پورے شہر کو ویرانہ بنا کر ایک لاکھ قیدیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا گیا۔

حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کسی طرح سے بخت نصر بادشاہ کی قید سے رہا ہو کر

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۱۹، سورہ: النمل، آیت: ۱۵)

حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جانوروں اور پرندوں کی بولی کا علم تھا۔ علاوہ ازیں آپ کی حکومت انسانوں اور جناتوں پر تھی۔ نیز ہوا آپ کے زیر تصرف تھی۔

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۱۹، سورہ: النمل، آیت: ۱۵ تا ۱۷)

حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عصمت کی گواہی دینے کے لئے چار مہینے کے بچے کو بولتا کیا۔ (تفصیل کے لئے: پارہ: ۱۳، سورہ: یوسف، آیت: ۲۶)

مذکورہ ان معجزات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیائے کرام نے بیشمار معجزات کا اظہار فرمایا ہے۔ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم نے چند معجزات کی طرف صرف اشارہ کر دیا ہے لیکن ناظرین کی طبع خاطر کے لئے اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ رسول کے معجزات کو قدرے تفصیل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات:-

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کثیر تعداد میں معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ جن میں سے چند معجزات حسب ذیل ہیں:-

حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عالم شیرخواری میں کلام کیا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ (تفصیل کے لئے: پارہ: ۱۶، سورہ: مریم، آیت: ۳۰)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے پرند کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ واقعی زندہ پرند ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے مریضوں کو پل بھر میں بینا اور اچھا کر دیتے تھے۔ صرف ہاتھ پھیر دینے سے روزانہ ہزاروں مریض شفا یاب ہوتے تھے۔

(تفصیل کے لئے: پارہ: ۷، سورہ: المائدہ، آیت: ۱۱۰)

آپ مردوں کو ”قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ“ کہہ کر زندہ فرمادیتے تھے علاوہ ازیں لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے تھے اور جمع کرتے تھے وہ آپ بتا دیتے تھے۔

پھر وحی ہوئی کہ اے عزیر! اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرا اپنے گدھے کو دیکھ کہ اس کی ہڈیاں بھی سڑگل کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔

حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا مر کر اور سڑ کر اس کی سفید سفید ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں لیکن توشہ دان میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل تر و تازہ ہے اور اس میں کسی قسم کی خرابی یا بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل سیاہ تھے۔ اور آپ کی عمر شریف بھی وہی چالیس (۴۰) برس کی اب بھی تھی۔ جب آپ سوئے تھے تب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی تھی۔

پھر آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے عزیر! اب تم دیکھو کہ ہم کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم میں تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچہ پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر ہنہانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا کہ ”أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یعنی ”میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

قرآن مجید میں اس واقعہ کا بیان اس طرح ہے کہ:-

”أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

بھاگ نکلے اور اپنے دراز گوش (گدھے) پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے۔ شہر میں داخل ہو کر آپ نے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھی تو آپ کا دل بھرا آیا اور آپ رونے لگے۔ اس وقت شہر کی حالت یہ تھی کہ عالی شان مکان ویران پڑے ہوئے ہیں، درختوں پر خوب کثرت سے پھل آئے ہوئے ہیں، جو پک چکے ہیں لیکن ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ آپ نے پورے شہر کا گشت فرمایا لیکن آپ کو کسی انسان کی صورت نظر نہ آئی۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ ”أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا“ یعنی اسے کیوں کر جلانے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔“

پھر آپ نے کچھ کھجوریں اور انگور تناول فرمائے اور انگور کا شیرہ نوش فرمایا اور اپنے توشہ دان میں انگور کا شیرہ بھر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ درخت کے نیچے سو گئے اور نیند کی حالت ہی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے ستر (۷۰) سال کے بعد ملک فارس (Iran) کا ایک بادشاہ بیت المقدس آیا اور اس نے بیت المقدس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق اور آباد بنایا۔ جو بنی اسرائیل اطراف کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں بلا بلا کر بیت المقدس میں بسائے اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں اور باغات لگا کر شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اس طرح تیس برس کا مزید عرصہ گزر رہا یعنی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو پورے ایک سو (۱۰۰) سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب آپ کی وفات کو پورے ایک سو سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ کی آنکھوں میں سب سے پہلے جان آئی اور باقی جسم مردہ تھا۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں جان بڑی اور آپ زندہ ہو گئے۔ اس وقت آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے عزیر! تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ جب سوئے تھے تب صبح کا وقت تھا اور جب زندہ ہوئے تب شام کا وقت تھا لہذا آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس دن میں سویا ہوں۔ لہذا آپ نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم ایک سو برس ٹھہرے ہو۔

مستجاب الدعوات تھے کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر بن شریخیا ہیں تو میرے حق میں دعا فرماؤ تا کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فاجح دور ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا فرمائی تو وہ بوڑھیا فوراً نکھیری ہو گئی اور اس کا فاجح کا مرض دور ہو گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ پھر اُس بوڑھیا نے حضرت عزیر کو بغور دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر ہی ہیں۔

پھر وہ بوڑھیا حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ جس کی عمر ایک سو اٹھارہ (۱۱۸) سال کی تھی اور اسی مجلس میں آپ کے چند پوتے بھی تھے۔ جن میں سے ایک پوتے کی عمر نوے (۹۰) سال کی تھی۔ بڑھیا نے مجلس میں جا کر اعلان کیا کہ اس وقت میرے ساتھ جو صاحب ہیں وہ حضرت عزیر بن شریخیا ہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں لیکن کسی نے بھی بوڑھیا کی بات پر اعتماد نہ کیا۔ اتنے میں حضرت عزیر کے صاحبزادے نے کہا کہ میرے والد محترم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتہ اتار کر دکھایا تو مسہ موجود تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو تردّد ہوا اور کہا کہ یہ اتفاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عزیر کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ ان کو توریت شریف زبانی یاد تھی۔ اگر یہ واقعی عزیر بن شریخیا ہیں تو توریت شریف زبانی پڑھ کر سنادیں۔ لوگوں کی اس فرمائش و درخواست پر حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا کسی جھجک فوراً پوری توریت شریف زبانی پڑھ کر سنادی۔

اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو توریت شریف پڑھ کر سنائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بخت نصر بادشاہ نے ایک سو (۱۰۰) سال پہلے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تب اس نے چالیس ہزار توریت کے عالموں کو چُن چُن کر قتل کر دیا تھا۔ اور توریت شریف کی تمام جلدیں جلادی تھیں اور توریت کی ایک بھی جلد باقی نہ رکھی تھی۔ لہذا اب یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ حضرت عزیر نے جو توریت شریف زبانی تلاوت فرمائی تھی اس کے صحیح ہونے کے ثبوت میں لکھی ہوئی توریت سے تقابل کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس وقت

(پارہ ۳، سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۵۹)

ترجمہ:- ”یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھسی (مسما رہوئی) پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ بولا اسے کیوں کر جلانے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو (۱۰۰) برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے پانی اور کھانے کو دیکھ کہ اب تک بُو نہ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“  
(کنز الایمان)

الختصر! حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس محلے میں گئے جہاں پہلے آپ کا مکان تھا۔ آپ اپنے مکان پر گئے تو ایک اندھی اور اپنا بچ بوڑھی عورت مکان کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچین میں دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا یہ مکان حضرت عزیر بن شریخیا کا ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا کہ ہاں لیکن تم کو عزیر بن شریخیا سے کیا واسطہ ہے؟ ان کا زمانہ تو ایک سو (۱۰۰) سال پہلے تھا۔ پھر وہ بوڑھیا حضرت عزیر کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضرت عزیر نے اس بوڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر بن شریخیا ہوں۔ آپ کی بات سن کر بوڑھیا کو بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو لاپتہ ہوئے ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ حضرت عزیر نے بوڑھیا سے فرمایا کہ اے مائی! میری بات کا بھروسہ کرو۔ واقعی میں عزیر بن شریخیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سو (۱۰۰) برس مردہ رکھا۔ پھر زندہ فرمایا ہے اور اب میں اپنے گھر آیا ہوں۔ بوڑھیا نے کہا کہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عزیر بن شریخیا ایسے باکمال اور

## ”یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا“

حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہما الصلاۃ والسلام کے مذکورہ بالا معجزات دیکھ کر لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ ایسا ماننے لگے کہ انہوں نے جو کام کر دکھائے ہیں وہ کام کر دکھانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسی طاقت، قدرت، قوت، تصرف اور اختیار کسی انسان کے لئے ممکن نہیں بلکہ کسی بھی انسان سے ایسے افعال و کمالات کا صادر ہونا محال و قطعاً ناممکن ہے۔ یہ کام خدائی طاقت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے رشتہ دار ہوں اور خدا کے رشتہ دار یا ذریت ہونے کی وجہ سے ان میں ایسی طاقت و قدرت ہو۔ اس زعم باطل اور خیال فاسد کی بناء پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا اور ماننا شروع کر دیا۔ یہود و نصاریٰ کے اس باطل عقیدہ کا قرآن مجید میں ردّ بلیغ فرمایا گیا ہے:-

”وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ  
ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ“

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۳۰)

ترجمہ:- ”اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ اگلے کافروں کی سی بات بتاتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔“  
(کنز الایمان)

توریت شریف کا ایک بھی نسخہ دستیاب نہ تھا۔

اس گفتگو کے دوران ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا۔ اُس دن میں نے فلاں ویرانہ میں انگور کی فلاں جگہ والی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ تم سب میرے ساتھ چلو، ہم اس جگہ کو کھود لیتے ہیں اور اگر توریت شریف کی جلد صحیح و سالم برآمد ہوئی تو ہم اس سے تقابل کر لیں گے اور حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے کو مستند قرار دے دیں گے لہذا چند حضرات اس مقام پر گئے اور توریت شریف کھود کر نکالی اور اس نسخہ سے حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے کو ملایا تو وہ حرف بہ حرف توریت شریف کے مطابق تھا۔

یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بیشک یہی حضرت عزیر بن شریخا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور بعض لوگوں نے حضرت عزیر کی عقیدت و محبت میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ حضرت عزیر بن شریخا یقیناً خدا کے بیٹے ہیں۔ (معاذ اللہ)

چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں۔

حوالہ:- (۱) تفسیر جمل علی الجلائین، جلد: ۱، ص: ۲۱۲ تا ۲۱۵

(۲) تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۹

(۳) عجائب القرآن، ص: ۲۹

نوٹ:- حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو مدت نیند یعنی ایک سو (۱۰۰) سال تک

اللہ تعالیٰ نے درند، چرند، پرند، انسان اور جنات کی آنکھوں سے اوچھل

کر دیا تھا کہ اس مدت کے دوران آپ کو کوئی بھی دیکھ نہ سکا۔

اب ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ضمن میں ہماری

بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام

کے عظیم الشان معجزات کا تفصیلی تذکرہ اس لئے کیا ہے کہ:-



## ”حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو لکارا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دکھا“

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں نمرود بن کنعان نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ نمرود بن کنعان کی بادشاہت وسیع پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ بلکہ تفسیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ”تمام زمین کی سلطنت اسے عطا ہوئی تھی۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۷)

نمرود کو اپنی عظیم سلطنت کے غرور کا ایسا نشہ چڑھا کہ اس نے ”خدائی کا دعویٰ“ کر دیا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو نصیحت و ہدایت فرماتے ہوئے کہا کہ اے نمرود! خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کر اور رب واحد کی عبادت کر۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ”رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ“ یعنی ”میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جواب کی اہمیت گھٹانے اور اپنی کمال جہالت و سفاہت کا اظہار کرتے ہوئے نمرود نے دو شخصوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا یا قتل کر کے مار ڈالنا میرے اختیار و قدرت میں ہے۔“ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب مردہ میں جان ڈال کر جلاتا ہے اور اس کو قدرتی طور پر موت دیتا ہے لیکن نمرود نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے جلانے سے مراد گرفتار کر کے چھوڑ دینا اور

اس آیت میں حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے یہودی گمراہیت اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے نصاریٰ کی گمراہیت کا ذکر ہے۔ جب حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر یہود و نصاریٰ ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے تو اللہ کے محبوب اعظم، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ سے بھی عظیم معجزات ظاہر ہونے والے تھے۔ تو جس طرح یہود و نصاریٰ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور کھلم کھلا ارتکاب شرک کر کے اللہ کی توحید میں شرک کی آمیزش کرنے لگے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات دیکھ کر ان کو بھی کوئی خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک کہہ کر شرک کی قباحت سے ملوث نہ ہو جائے اس لئے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے ہی عظیم معجزات صادر ہوں پھر بھی وہ خدا کے بیٹے یا خدا کے شریک ہرگز نہیں بلکہ خدا کے بندے اور رسول ہی ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب! تم فرما دو کہ انسان ہونے میں یعنی بندہ ہونے میں اور اللہ کا شریک نہ ہونے میں تو میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ یہ حکم میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں اور یہ حکم کیوں فرمایا گیا؟ اس کی بحث قارئین کرام کی خدمت میں بالتفصیل پیش کرنے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ایک واقعہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کے تعلق سے ہے۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے لیکن ہم اس واقعہ کو اختصاراً پیش خدمت کرتے ہیں:-

طاقت و قوت نہیں بلکہ کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کیونکہ سورج کو طلوع و غروب کرنے کی قدرت صرف اللہ رب العزت کی ہی قدرت میں ہے۔ لہذا نمرود ساقط و مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔

ایک اہم نکتہ کی جانب قارئین کرام کی توجہ ملتفت کرنا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود سے جو فرمایا کہ اگر تو اپنے خدائی کے دعویٰ میں سچا ہے تو آفتاب کو مغرب سے طلوع کر دکھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر نمرود نے بالفرض آفتاب کو مغرب سے طلوع کر دکھایا ہوتا تو آپ اس کو خدا تسلیم کر لیتے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یقین کے درجہ میں علم تھا کہ نمرود بن کنعان اپنے خدائی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور نمرود کا جھوٹ ظاہر کرنے اور اسے ذلیل و خوار کرنے کے لئے ہی آپ نے نمرود کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا تھا تاکہ نمرود کو بھی اس حقیقت کا احساس ہو جائے کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کرانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ میرے جیسے جھوٹے دعویدار میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے۔

سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دکھانے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت مبارزت میں نمرود کو شکست فاش ہوئی اور اس کے خدائی کے جھوٹے دعویٰ کی قلعی کھل گئی اور اس مناظرہ کی روداد کی اطلاع دور دراز تک پھیلی بلکہ ہر زمانہ میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہوئے مناظرہ کی روداد عوام و خواص میں عنوان سخن کی حیثیت سے مشہور ہوئی۔ بلکہ زمانہ اقدس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک لوگوں میں اس مناظرہ کا بڑے ہی زور و شور سے چرچا رہا اور اس مناظرہ سے لوگوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر دکھانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر قدرت ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو چکی تھی۔ کہ آفتاب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرا سکتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کر دکھانے کی طاقت کو خدا ہونے کی دلیل ہونے کی حد تک تسلیم کر رکھا تھا۔

موت دینے سے مراد گرفتار شخص کو قتل کرنا لیا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کی اس جاہلانہ اور وحشیانہ حرکت پر مناظرانہ طرز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ ”فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“ یعنی ”اللہ سورج کو مشرق (پورب) سے لاتا ہے۔ تو اس کو مغرب (پچھم) سے لے آ“ حضرت ابراہیم کی اس چیلنج کو نمرود کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح ہے کہ:-

”الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ الْكَفَرُ“

(پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۵۸)

ترجمہ:- ”اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اُسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جب کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تو سورج کو لاتا ہے پورب (مشرق) سے تو اس کو پچھم (مغرب) سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے“

(کنز الایمان)

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو لکارتے ہوئے چیلنج دی کہ اگر تو خدائی کے دعویٰ میں سچا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دکھا۔ اس پر نمرود کی حالت خراب ہو گئی اور اس کے اوسان خطا کر گئے اور وہ اس فکر میں غرق ہو گیا کہ میرے سامنے سورج کو مغرب سے طلوع کر دکھانے کی چنوتی پیش کی گئی ہے اور مجھ سے ایسا کام کر دکھانے کا کہا گیا ہے کہ جس کام کے کر دکھانے کی مجھ میں

دامن مضبوطی سے تھامے رہنا کیونکہ ”إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ“ یعنی ”تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“ یعنی پرستش اور عبادت کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق ہے۔ مجھ سے چاہے عظیم معجزات صادر ہوں لیکن میں ”إِلَهٌ“ یعنی ”معبود“ نہیں بلکہ ”عَبْدٌ“ یعنی ”بندہ“ ہوں۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورہ تم سجدہ کی آیت ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ“ الخ کی تفصیلی وضاحت ارقام کرنے کے قبل مناسب ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیشمار معجزات میں سے کچھ عظیم معجزات اور وہ معجزات کن حالات میں وقوع پذیر ہوئے اس پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں۔

جس کام کو لوگوں نے خدا ہونے کی دلیل مان لیا تھا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم اور رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔

”جنگ خیبر سے واپسی پر مقام صہبا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولیٰ علی مشکلی کشارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر اپنا سر مبارک رکھ کر محو خواب و استراحت فرما ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن جان ایمان و جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پہنچے اس نیک ارادہ سے اسی حالت میں بیٹھے رہے اور ان کو نماز پڑھنے کا موقعہ میسر نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آفتاب غروب ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی سمت اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہو کر بلند ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی اور پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔“ (حوالہ مدارج النبوة، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی

قدس سرہ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۰)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر مسلمان بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود و نصاریٰ کی طرح اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک نہ مان لیں اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک کہہ کر جس طرح یہود و نصاریٰ گمراہ ہوئے ہیں اس طرح قوم مسلم بھی گمراہ نہ ہو جائے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم خداوندی یہ فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اور اس فرمان عالی کا مقصد یہی تھا کہ اے لوگوں! میرے عظیم معجزات دیکھ کر یہود و نصاریٰ کی طرح گمراہ ہو کر مجھے خدا کا شریک مت مان لینا۔ بلکہ توحید کا

تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ ”تیری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ابو جہل کے ہاتھ میں بند کنکریوں کی جانب ملتفت ہوئیں اور ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ ابو جہل کے ہاتھ کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے ”کلمہ شہادت“ کی دلکش صدائیں بلند ہونی شروع ہوئیں۔ پہلے تو ابو جہل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن تھوڑی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ کلمہ شہادت کی آواز تو میری مٹھی سے آرہی ہے۔ تحقیق کرنے کی غرض سے اس نے اپنی مٹھی اپنے کان کے قریب دھری تو حیران رہ گیا کیونکہ اس کی مٹھی سے کلمہ شہادت کی تسبیح کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ بے جان و روح پتھر کی کنکریوں سے کلمہ شہادت کی صدا بلند ہوتی دیکھ کر بوکھلا گیا اور غصہ سے بھوت ہو کر کنکریاں پھینک کر بھاگ نکلا۔“

ایسے تو کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر اور مان کر کئی مرتبہ ایسی نازیبا حرکتیں کہیں اور ہر مرتبہ ان کی ایسی غیر مہذبانہ جاہلانہ، احمقانہ، متکبرانہ حرکتوں کا منہ توڑ جواب بشکل معجزہ عنایت فرمایا گیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام معجزات کا تفصیلاً ذکر خیر کیا جائے لہذا چند معجزات کا اختصار بیان کیا جاتا ہے۔

### مردہ لڑکی کو قبر میں زندہ فرمائی:-

امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں اور امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب مصری قسطلانی نے اپنی کتاب ”المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ“ میں روایت فرمایا ہے کہ:

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک آپ میری انتقال شدہ لڑکی کو دوبارہ زندہ نہیں فرمائیں گے وہاں تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور اقدس نے اس شخص سے فرمایا کہ مجھے تیری بیٹی کی قبر دکھا۔ وہ شخص حضور اقدس کو اپنی بیٹی کی قبر کے پاس

## ”حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند عظیم الشان معجزات“

حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت و رسالت نے پورے عالم کو منور فرمادیا۔ آفتاب نبوت و ماہتاب رسالت کی ضیاء باریاں اپنی تاب و توانائی کے ساتھ درختاں تھیں۔ نور ہدایت ہر سمت پھیل رہا تھا۔ کفر و شرک، جہالت و ظلمت، ظلم و ستم کی سیاہ اور بھیا نک بدلیاں آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھیں اور ان کے بکھرنے سے تاریک اندھیرا اب چمکدار اُجالے میں متبدل ہو رہا تھا۔ مکہ معظمہ کے صاحب اقتدار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اسلام کا پیغام توحید لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو رہا تھا۔ لوگ گمراہیت کی راہ ترک کر کے رُشد و ہدایت کی ”صراط مستقیم“ پر گامزن ہو رہے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی سرعت کے ساتھ ہورہی نشر و اشاعت سے کفار اور مشرکین بغض و حسد کی آگ میں جل اُٹھے۔ مخالفت و عداوت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اسلام کے ”نور حق“ کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کے لئے وہ ہر وقت متحرک و مستعد تھے لیکن ”وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَّلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بے مثل و مثال خصائص کبریٰ اور معجزات عظیمہ کے سامنے اسلام دشمن عناصر کی ہر تحریک و کوشش ناکام میاب و نامراد ہو کر رہ جاتی تھی۔ اور دشمنانِ دین کا ہر حربہ ہاتھ گھسانا ثابت ہوتا تھا۔ نتیجتاً وہ ہاتھ کی پیڑھ دانتوں سے کاٹا کرتے تھے۔ مثلاً:-

”ایک مرتبہ دشمن لعین ابو جہل اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لئے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ بتا دو۔ غیب جاننے والے اور مختار کل نبی اکرم صلی اللہ

وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ بکری کا بچہ ذبح کر کے اسے صاف کر کے اسے پکانے کے لئے گھر میں دے دیا۔ حضرت جابر کی بیوی بکری کے بچہ کا گوشت پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلوائے اور باہر والے کمرہ میں بٹھایا۔ باہر والے کمرہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے علم و عرفان کی باتیں سماعت کرنے میں حضرت جابر ہمہ تن و ہوش مشغول ہو گئے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بکری کا بچہ ذبح کیا تھا تب حضرت جابر کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ اور انہوں نے اپنے والد کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر کے مکان پر تشریف لے آئے اور حضرت جابر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہم کلامی کی سعادت میں اور حضرت جابر کی بیوی باورچی خانہ میں گوشت پکانے میں مصروف تھیں۔ تب حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے والد نے بکری کا بچہ کس طرح ذبح کیا۔ اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اچانک حضرت جابر کی بیوی کی نظر اپنے بڑے بیٹے کی حرکت پر پڑی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آئیں۔ بڑے بیٹے نے اپنی والدہ کو اپنی طرف دوڑتی ہوئی آتی دیکھا تو وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت جابر کی بیوی اس کے تعاقب میں مکان کی چھت پر گئیں لیکن اس نے اس خوف سے کہ والدہ مار پیٹ کریں گی، چھت پر سے زمین پر چھلانگ لگا دی اور چھت سے زمین پر گرتے ہی وہ بھی واصل بحق ہو گیا۔

ایک ساتھ دو دو بیٹوں کی موت کے حادثہ نے حضرت جابر کی بیوی کا کلیجہ شق کر دیا لیکن اس صابرہ عورت نے صرف اس خیال سے کہ حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر شاق نہ گزرے قطعاً رونا اور چیخنا نہ کیا بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو بھی اس حادثہ کی اطلاع نہ دی یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی مطلع نہیں کیا۔ وہ معززہ و صابرہ خاتون اپنے سینہ پر پتھر رکھ کر حضور اقدس

لے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کو پکارا۔ اس مردہ لڑکی نے جواب دیا ”لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ“ یعنی ”میں حاضر ہوں اور آپ کی فرمانبرداری ہوں۔“ بعدہ حضور اقدس نے اس لڑکی سے دریافت فرمایا کہ کیا تو دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ”نہیں، یا رسول اللہ! میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔“

(حوالہ: ”مدارج النبوة“، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۵۹)

### پکائی ہوئی بکری پھر زندہ ہو گئی:-

حضرت ابو یعیم بن عبد اللہ اصفہانی (المتوفی ۴۳۰ھ) اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں روایت فرماتے ہیں:-

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کر کے اسے سالم دم بخت طریقہ سے پکائی اور اسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت خدمت اقدس میں جو حضرات حاضر تھے ان تمام نے اسے کھایا۔ کھانے والوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ تم سب اسے کھاؤ لیکن اس کی ہڈیاں مت توڑنا۔ چنانچہ حاضرین نے اسی طریقہ سے کھایا۔ اس کے بعد حضور اقدس نے تمام ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا اور جمع شدہ ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنے کان ہلانے لگی۔“ (حوالہ: ”مدارج النبوة“، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۶۱)

### حضرت جابر بن عبد اللہ کے دو مردہ بیٹوں کو زندہ فرمایا:-

ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ

کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہوتے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ حضور اقدس نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں نے چاند کو اس حالت میں دیکھا کہ کوہِ حراء (حراء نام کا پہاڑ) چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا ہے یعنی چاند کا ایک ٹکڑا کوہِ حراء کی دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا بائیں طرف نظر آتا تھا۔“

(حوالہ: ”مدارج النبوة، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۸)

**حضور اقدس کو پتھر، درخت، چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے:-**

کتب احادیث میں ثقہ راویوں سے ایسی بہت سی صحیح روایات منقول ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمادات و نباتات بھی پہچانتے تھے اور آپ کی خدمت عالی میں ہدیہ سلام پیش کرتے تھے۔ یہاں ان تمام روایات کا ذکر ممکن نہیں۔ ناظرین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ذیل میں چند واقعات ارقام کئے ہیں۔

(۱) طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت سیدنا مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم

سے روایت کی انہوں نے فرمایا:-

”ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک روز آپ نے مکہ معظمہ کے نواحی (اردگرد) علاقہ میں تشریف لے گئے۔ راہ میں جو بھی چٹان، پتھر اور درخت ہم کو قریب راہ ملتا وہ آپ سے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ کہتا۔“ (خصائص کبریٰ، از: علامہ جلال الدین عبد الرحمن

بن کمال بن ابی بکر سیوطی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۲۳۱)

(۲) طیالسی، ترمذی اور بیہقی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کی کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے۔ جس رات میں مبعوث ہوا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا اور بیشک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔“

کی مہمان نوازی میں مصروف ہو گئیں۔ جب دسترخوان پر کھانا آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی شریک طعام کریں۔ حضرت جابر گھر میں گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بات ٹالنے کے لئے بہانہ بنا دیا کہ ادھر ادھر کہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت جابر نے جب اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور اقدس کا حکم ہے کہ ان کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانے کے لئے لے آؤ، تب ان کی بیوی نے روتے ہوئے پورا ماجرہ بیان کیا۔ اور قریب والے کمرہ میں لے جا کر بچوں کی لاشوں سے کپڑا ہٹا دیا۔

دونوں میاں بیوی روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور روتے ہوئے سارا واقعہ عرض خدمت کیا۔ حضرت جابر کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ عین اس وقت حضرت جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”یا رسول اللہ! آپ ان بچوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور اقدس مکان کے اندر تشریف لے گئے اور بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ فوراً وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔“

(حوالہ: ”شواہد النبوة، مصنف:- علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی بن احمد بن محمد ایرانی، المتوفی ۸۹ھ، اردو ترجمہ، ص: ۱۵۶)

**چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے:-**

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ اس روایت کو صحابہ کرام کی جماعت کثیرہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفارِ قریش نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے ہوئے

پہو نچائے۔ حضور اقدس نے فرمایا میرا کوئی خوف نہ کرو۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے آئے تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور آپ کو دیکھتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر حضور نے اونٹ کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کام میں لگا دیا۔

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ: جلد: ۱، ص: ۳۴۲)

(۲) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۰

(۲) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے احادیث کثیرہ میں اور قاضی ابوالفضل،

عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۳ھ) نے اپنی کتاب ”الشفاہ

بتعریف حقوق المصطفیٰ“ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق

اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محفل

اقدس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک قوم بنی سلیم کا ایک بدوی شخص سومار (گوہ)

کا شکار کر کے محفل اقدس میں آیا۔ اس بدوی نے گوہ کو اپنی آستین میں چھپا رکھا

تھا اور گھر جا کر اسے بھون کر کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب اس نے ایک

جماعت کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ شخص کون

ہیں؟ صحابہ کرام نے بدوی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس بدوی نے گوہ کو اپنی آستین

سے نکالا اور کہنے لگا کہ قسم ہے لات اور عزیٰ کی! میں اُس وقت تک ہرگز ایمان

نہ لاؤں گا۔ جب تک یہ گوہ آپ کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ یہ کہہ کر اس نے

گوہ کو حضور کے سامنے ڈال دیا۔ حضور اقدس، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے گوہ کو آواز دی کہ اے گوہ! گوہ نے سنجیدہ زبان میں جواب دیا کہ ”لَبَّيْكَ

وَسَعَدَيْكَ“ یعنی حاضر ہوں اور فرمانبردار ہوں۔“ گوہ کا یہ کلام تمام حاضرین

جماعت نے سنا۔

پھر حضور اقدس نے فرمایا اے گوہ! قیامت میں کون آئے گا؟ گوہ نے جواب دیا

(حوالہ خصائص کبریٰ جلد: ۱، ص: ۲۳۰)

(۳) بزاز اور ابو نعیم نے اُم المؤمنین، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل

فرمائی تو میں جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتا اس سے آواز آتی کہ

”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (حوالہ: ایضاً ص: ۲۳۱)

(۴) بیہقی نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ:-

”جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرامت و نبوت سے

سرفراز فرمایا، تو آپ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا۔ آپ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلیٰ کلمات سلامتی سماعت فرما کر ہر طرف دیکھتے مگر وہاں کوئی

بھی نہ ہوتا۔ وہ پتھر اور درخت منصب نبوت کو خطاب کے ساتھ اس طرح تجت

پیش کرتے کہ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (حوالہ:- ایضاً، ص: ۲۲۰)

جانوروں نے رسالت کی گواہی دی اور سجدہ تعظیم کیا:-

(۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے سب خاندان

اونٹوں کو پالتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارا ایک اونٹ ہے جس پر ہم پانی لا کر لاتے

ہیں لیکن اب وہ اونٹ سرکشی اور سختی کرنے لگا ہے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لادنے نہیں

دیتا۔ لہذا اس وجہ سے ہمارے نخلستان اور باغات سب پیا سے ہیں۔ انصار کی اس

گزارش پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے اور اونٹ

کی جانب تشریف لے چلے۔ جب باغ میں پہنچے تو اونٹ باغ کے ایک گوشہ میں

بیٹھا ہوا تھا۔ انصار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! یہ وہی اونٹ ہے جو کتوں کی طرح

کاٹتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر حضور اس کے نزدیک گئے تو کہیں وہ حضور کو ایذا نہ

انگلستان مبارک سے دریا کی طرف پانی کے چشمے رواں ہو کر بہہ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان چشموں سے پانی پیا، وضو اور غسل کیا اور اپنے مشکیزوں و برتنوں میں ذخیرہ کر لیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ بالاستعاب تمام واقعات ارقام کئے جائیں۔ صرف دو واقعات قارئین کرام کے گوش گزار کئے جاتے ہیں:-

(۱) حضرت ابو نعیم نے قاسم بن عبداللہ ابورافع سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے ابورافع کے جد امجد سے اس طرح روایت فرمایا ہے کہ:-

”وہ جناب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر اسلام میں تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس وقت لشکر میں پانی کی سخت قلت تھی بلکہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی کے پاس بھی پانی ہو، وہ پانی لے کر حاضر ہو۔ لشکر میں تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ صرف ایک شخص کے پاس مشکیزہ میں تھوڑا پانی ہے بقیہ تمام لوگوں کے مشکیزے خالی ہیں جس شخص کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا وہ خدمت اقدس میں لایا گیا حضور اکرم نے مشکیزہ کا پانی ایک کھلے منہ والے برتن میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ پھر حضور اقدس نے پانی سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈبویا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی مقدس انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مارتا ہوا نکلنے لگا اور انگشتان اقدس سے پانی اُبل اُبل کر بڑے برتن میں جمع ہونے لگا۔ تمام لشکر نے اس برتن سے سیراب ہو کر پانی پیا۔ پھر آپ نے برتن سے ہاتھ مبارک نکال لیا۔ تو برتن میں اتنا ہی پانی باقی تھا جتنا کہ مشکیزہ سے اس میں ڈالا گیا تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد ۲: ص: ۱۰۸)

(۲) حضرت حارث بن اُسامہ نے اپنی مسند میں اور بیہقی و ابو نعیم نے حضرت زید بن حارث سدرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ:-

کہ ساری مخلوق آئے گی۔ پھر فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جواب دیا کہ اس خدائے پاک کی جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں ہے۔ اور جس کا دریاؤں پر غلبہ ہے۔ اور جنت میں اس کی رحمت اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا آپ رسول اللہ، رسول رب العالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ“ یعنی یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور نامراد ہے وہ جس نے آپ کی تکذیب کی۔“ گوہ کی زبان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت کی گواہی سن کر قوم بنی سلیم کا وہ بدوی شخص فوراً اسلام لے آیا۔“

(۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ میں ایک بکری تھی۔ اس بکری نے حضور کو سجدہ کیا۔“

(حوالہ:- (۱) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۱: ص: ۲۲۲)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۱: ص: ۳۴۳)

مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے:-

احادیث کبریہ کی معتبر و مستند کتب میں ایسے کئی واقعات درج ہیں کہ لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا یا کوئی قافلہ سفر میں ہے اور اثنائے راہ پانی ختم ہو گیا اور کہیں بھی پانی نہیں یا پانی کے دستیاب ہونے کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ پانی کے فقدان کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کی مقدس



پھیلی ہوئی جڑوں کو نکالا۔ پھر زمین کو چیرتا ہوا اور اپنی جڑوں کو اپنے ساتھ ہی گھسیٹتا ہوا آیا اور حضور اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا ”السَّلَامُ عَلَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس نے اس درخت کو اپنی جگہ واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ کر اپنی جگہ چلا گیا اور اس کے رگ وریش بھی زمین میں پیوست ہو گئے اور زمین بھی مثل سابق ہموار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس بدوی نے عرض کیا کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے دست اقدس اور مبارک قدم شریف کو بوسہ دینے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضور اقدس نے اس کی اجازت عنایت فرمائی۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۴۹)

”ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت حضور اقدس نے مجھ سے فرمایا کہ اے سدا کے بھائی! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی ہے جو آپ کے لئے کافی نہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ، میں اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر خدمت اقدس میں حاضر آیا۔ حضور اقدس نے اس برتن میں اپنا دست اقدس ڈال دیا۔ دفعۃً میں نے دیکھا کہ آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے اُبل رہے ہیں۔ پھر حضور اقدس نے مجھے حکم دیا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ اور انہیں خبر دو کہ جس کو بھی پانی کی ضرورت ہو وہ یہاں آ کر لے جائے۔ چنانچہ پورے قافلہ کے لوگ وہاں اُمنڈ پڑے اور جس جس کو پانی کی ضرورت تھی ان سب نے حسب ضرورت پانی لے لیا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۱۰۶)

بقول امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی علیہ الرحمہ:-

انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ!

درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا:-

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:-

”ایک بدوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ حضور اقدس نے اس بدوی سے فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے اُسے جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ بلا تے ہیں۔ بدوی نے جا کر درخت سے حسب ارشاد پیغام سنایا۔ دفعۃً اس درخت نے ادھر ادھر اور آگے پیچھے جنبش کی اور زمین میں سے اپنی

صداقت کے ثبوت کے طور پر سورج کو پچھم سے طلوع کر دکھانے کی چیلنج (Challenge) دی تھی اور نمرود اپنے خدائی دعویٰ میں سراسر جھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی چیلنج کے لاکار کے سامنے خائب و خاسر ہو کر رہ گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرفات، قدرت اور اختیارات پر مشتمل معجزات کا یہ عالم تھا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کی انگشتان مبارک کے ایک اشارہ پر مطیع و فرمانبردار ہو کر نوری کھلونا کی حیثیت سے حکم کی تعمیل و بجا آوری کرتے تھے۔ انگشت مبارک کا اشارہ پاتے ہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج مغرب سے پھر طلوع ہوا۔

لہذا! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات کی بناء پر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہیں لوگ آپ کو ”رسول خدا“ کے بجائے ”شریک خدا“ نہ بنا دیں اور لوگ شرک کی قباحت و گندگی میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لئے قیامت تک کے ہونے والے انسانوں کو اس حقیقت سے واقف کیا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا و نبینا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”خدا“ یا ”خدا کے بیٹے“ یا ”شریک خدا“ نہیں بلکہ ”انسان“ اور اللہ کے بندے ہیں۔ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اس طرح لوگوں کو پیشگی تنبیہ اور مقدم تاکید کے ذریعہ خبردار اور متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تاکہ لوگ محبت کے جذبات میں احتیاط و شعور سے کام لیتے ہوئے غلو و مبالغہ سے باز رہیں اور شرک کی بدی میں غرق ہونے سے محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کا تذکرہ صرف اسی نقطہ نظر سے کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے عظیم معجزات دیکھ کر غلط فہمی اور گمان فاسد کی وجہ سے آپ کو ”خدا“ یا ”خدا کا شریک“ نہ کہہ بیٹھے۔ الحاصل! قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ فرما کر ہمیشہ کے لئے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔

## ”لمحہ فکر یہ!!!“

مذکورہ بالا معجزات کے علاوہ ایسے بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ تمام معجزات ایسے عظیم المرتبت تھے کہ بچن کو دیکھ کر لوگ یقین کے درجہ میں کہنے لگے کہ ایسے معجزات دکھانا کسی عام انسان سے ممکن ہی نہیں۔ یہ سب خدائی قدرت کے ہی کرشمے ہیں لہذا کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کے جذبات و اعتقاد کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ اور غلو کی حد میں داخل ہو کر آپ کو سجدہ کرنے کے متمنی اور آرزو مند ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جذبات اور عقیدت غلو کی اعلیٰ منزل اختیار کرنے کا اندیشہ تھا۔ اور محبت میں بہک کر شرک کے ارتکاب کا خطرہ تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا عزیز علیہما الصلاۃ والسلام کے چند معجزات دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے اندھی محبت کے جوش اور ولولہ میں ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور الوہیت الہی و توحید خالص کی خلاف ورزی کر کے گمراہ ہوئے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو لوگوں نے ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں خرق عادت عظیم معجزات دیکھے تھے۔ ان معجزات میں سے کچھ معجزات تو ایسے عظیم الشان تھے کہ ماضی قریب یا ماضی بعید میں کبھی بھی، کہیں بھی، کسی طرح بھی، کسی نبی و رسول سے ایسے معجزات کا ظہور و صدور نہیں ہوا تھا۔ مثلاً ① چاند کے دو ٹکڑے ہونا ② غروب ہو چکنے والے آفتاب کا دوبارہ مغرب سے طلوع ہونا ③ جمادات اور نباتات کا کلام کرنا اور آپ کی رسالت کی گواہی دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ مغرب سے آفتاب کو طلوع کر دکھانے کو لوگ خدا ہونے کی دلیل کے طور پر مانتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود بن کنعان کو اپنے خدائی کے دعوے کی

وصلاحیت حاصل کر سکیں گے۔

آئیے! پھر ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں:-

◎ ” قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ“

ترجمہ:- (۱) تو فرماؤ، ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“

(ترجمہ: از:- کنز الایمان، پارہ: ۱۶، سورۃ الکہف، آیت: ۱۱۰)

(۲) تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“

(ترجمہ: از:- کنز الایمان، پارہ: ۲۴، سورۃ تم سجدہ، آیت: ۶)

اس آیت کی ابتدا میں لفظ ”قُلْ“ وارد ہے۔ جس کا مطلب ہوتا ہے ”کہہ دو“ اس آیت

کی ابتدا میں ”کہہ دو“ کا جو ارشاد ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ ”اے محبوب!

تم کہہ دو“ کیا کہہ دو؟ یہی کہ اے لوگو! انسان ہونے کے ناطے یعنی ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا انسان ہوں۔ یعنی تمہارے جسمانی اعضاء اور میرے جسمانی اعضاء برابر نظر آتے

ہیں۔ صرف اتنا کہنے پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اتنا کہہ لینے کے فوراً بعد ارشاد ہے کہ ”یُوحَىٰ إِلَيَّ“ یعنی ”میری طرف وحی آتی ہے۔“ قرآن مجید کے عالی شان انداز بیان کو

ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے پہلے حصہ میں بشری مساوات ہونے کا اقرار و اعتراف کرنے کے فوراً بعد ہی ”خیر البشر“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام بشر کے زمرے سے مستثنیٰ (Separate)

کیا جا رہا ہے۔ یعنی دوسرے حصہ میں ”مجھے وحی آتی ہے“ کی خصوصیت کا اضافہ فرما کر مساوات مراتب کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ:-

◎ میں ایسا بشر ہوں کہ جس کی طرف وحی آتی ہے۔

◎ تم ایسے بشر ہو کہ جن کی طرف وحی نہیں آتی۔

قارئین کرام! آیت شریف کے ہر لفظ اور ان الفاظ کے ورود پر اور جملہ کی نفیس

## ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت قرآن کا مطلب و معنی اور اس کی صحیح تفہیم

کچھ ناعاقبت اندیش اور سفاک لوگ اس غلط وہم و گمان میں ہیں، قرآن مجید کی سورۃ کہف اور سورۃ تم سجدہ میں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت دوم مرتبہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو بشر کہا ہے اور ان کی شان و عظمت گھٹائی گئی ہے۔ اس خیالی خواب کے نشے میں بہک کر اس آیت کریمہ کا صحیح معنی و مطلب اور ان کا مقصد سمجھے بغیر جاہلانہ تاویل و تفسیر کرتے ہوئے یہاں تک کے نازیبا جملے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کی جان حب رسول و تعظیم رسول کی نگاہ سے اس آیت پر غور و فکر کیا جائے تو اس آیت کے ذریعہ حضور اقدس کی شان و عظمت ہرگز گھٹائی نہیں گئی بلکہ رفعت و بلندی شان زیادہ ارفع و اعلیٰ طور پر ظاہر کی گئی ہے۔ اس آیت شریف کے ہر لفظ بلکہ ہر حرف سے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلندی شان کا پرچم لہرا رہا ہے۔

محترم قارئین کرام سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اب ہم قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ہی اہم اور ضروری گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا اس مضمون کو بنظر عمیق اور یکسوئی سے مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ اور تمام اعتراضات کا شافی، وافی اور کافی حل و جواب حاصل ہوگا۔ نیز اس آیت کریمہ کا من گھڑت ترجمہ اور من بھاتی تفسیر و تاویل کر کے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات بولنے والے دور حاضر کے منافقین کے جال فریب میں پھنسنے سے بال بال بچ سکیں گے۔ بلکہ ان منافقین کے گستاخانہ کلمات کا دندان شکن جواب دینے کی استعداد

## ”آیت کے شروع میں وارد لفظ ”قل“ کے استعمال میں کیا حکمتِ خداوندی ہے؟“

آیت کی ابتداء میں لفظ ”قل“ کا استعمال فرما کر بارگاہ رسالت کے گستاخوں کی زبانوں میں قفل لگا دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے علم صرف و نحو کے اعتبار سے لفظ ”قل“ صیغۂ امر ہے۔ یعنی حکم کرنے کا کلمہ ہے۔ اس کا مصدر ”قَوْلٌ“، یعنی ”کہنا“ ہے۔ لہذا صیغۂ امر ”قل“ کا معنی ہوا ”تم کہہ دو“، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ”اے محبوب! تم کہہ دو کہ میں ظاہر صورت بشری یا آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔“ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے لوگو! میرا محبوب تمہارے جیسا بشر ہے بلکہ اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب! لوگوں سے یہ بات تم اپنی زبان مبارک سے فرما دو۔

اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کو عام لوگوں کی طرح بشر کہا ہوتا تو قرآن کی آیت اس طرح ہوتی کہ ”أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلَهُمْ“، یعنی ”تم ان لوگوں جیسے آدمی ہو۔“ یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ ”قُولُوا إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا“، یعنی ”اے لوگو! تم کہو کہ نبی ہماری طرح انسان ہیں۔“ یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ ”إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“، یعنی ”بے شک! وہ نبی تمہاری طرح بشر ہیں۔“ لیکن قرآن مجید میں آیت کریمہ اس طرح ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“، یعنی تم فرماؤ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ”يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ“، یعنی ”اے بشر“ کہہ کر خطاب نہیں فرمایا البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معزز و معظم القاب سے کئی جگہ خطاب فرمایا ہے اور عزت اور عظمت بھرے القاب سے ملقب فرمایا ہے۔ مثلاً:-

○ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ یعنی اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، ○ ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ“

بندش و ترتیب و ربط کو بغور ملاحظہ فرمائیں کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے فوراً بعد علی الاتصال ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ وارد ہے۔ جس کا صاف مطلب و مفہوم یہ ہے کہ تم ایسے بشر ہو جن پر وحی نہیں آتی یعنی تم اُمّتی ہو اور میں ایسا بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے۔ یعنی میں نبی و رسول ہوں۔ نبی اور اُمّتی کے درمیان کا فرق واضح طور پر ظاہر فرما کر اس حقیقت کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ:-

○ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ میں بیان شدہ مساوات و ہمسری صرف جسمانی

ظاہری مساوات اور دکھاوے تک ہی محدود ہے۔

○ ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ کے ذریعہ درجات و مراتب کی ہمسری کی نفی فرمائی گئی

ہے۔ یعنی میں نبی و رسول ہوں اور تم اُمّتی ہو اور نبی و اُمّتی کا درجہ و مرتبہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔

## قرآن میں ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کہنے کی کیا وجہ ہے؟

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں تو پھر قرآن مجید میں ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا جملہ کیوں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اس جملہ کا صحیح مطلب و مفہوم کیا ہے؟ جو اباً عرض ہے کہ اس آیت میں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں۔“ کا جو جملہ ہے وہ علم ادب کی اصطلاح میں مبتدا ہے اور ”يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ“ یعنی ”مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے“ یہ جملہ اس کی خبر ہے۔ یعنی دوسرے جملہ کی حقیقت روشناس اور باور کرانے کے لئے پہلا جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس آیت کریمہ کو حسب ذیل چار حصص میں تقسیم کریں:-

- (۱) ”قُلْ“ = تم فرماؤ
- (۲) ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ = آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں
- (۳) ”يُوحِي إِلَيَّ“ = مجھے وحی آتی ہے کہ
- (۴) ”إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ“ = تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

مندرجہ بالا چار حصوں میں آپس میں تطبیق و موافقت ہے۔ چاروں جملوں میں ایسا ربط اور میل ہے کہ ہر حصہ اپنے بعد والے حصہ سے خود بخود دل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے حصہ کا خلاصہ دوسرے حصہ میں، دوسرے کا تیسرے میں اور تیسرے کا چوتھے میں ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے وہی اپنے اگلے تینوں حصوں کا خلاصہ، نیچوڑ اور لب لباب ہے۔ یعنی اے لوگو! میں تم کو انسان ہونے کے ناطے کہتا ہوں اور رسول ہونے کے ناطے مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی:-

☆ ”خدا نہ ہونے کے معاملہ میں میں تم جیسا ہوں“

یعنی ”اے رسول“ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾ یعنی ”اے جھرمٹ مارنے والے“ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ یعنی ”اے بالاپوش اوڑھنے والے“ ﴿شَاهِدًا﴾ یعنی ”حاضر و ناظر (گواہ)“ ﴿مُبَشِّرًا﴾ یعنی ”خوشخبری دینے والے“ ﴿نَذِيرًا﴾ یعنی ”ڈرسانے والے“ ﴿سِرَاجًا مُنِيرًا﴾ یعنی ”چمکادینے والا آفتاب“ ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ یعنی ”سارے جہان کے لئے رحمت“ ﴿خَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ یعنی ”سب نبیوں کے پیچھے“ ﴿بِرَهْمَانٍ﴾ یعنی ”دلیل“ ﴿نُورٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ یعنی ”اللہ کی طرف سے نور“۔

الحاصل! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے معزز و معظم القاب سے ہی خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام مجید میں کہیں بھی اپنے محبوب کو ”يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ“ سے خطاب نہیں فرمایا۔ ہماری یہاں تک کی گفتگو سے کوئی صاحب یہ غلط استدلال نہ کرے کہ معاذ اللہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار ہے اور ہم حضور اقدس کو ”غیر بشر“ مانتے ہیں۔ بیشک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر یعنی انسان تھے۔ جنات یا فرشتوں میں سے نہ تھے۔ لیکن آپ کے بشر ہونے میں اور ہمارے تمہارے بشر ہونے میں عظیم فرق ہے۔ آپ کی بشریت نورانی ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر ہونے کے باوجود ”صرف بشر“ یا ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کہنا گستاخی ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ”نبی کا بشر ہونا اور نبی کو بشر کہنا“ اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن میں متحضر رکھتے ہوئے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس حقیقت کی تفصیلی وضاحت آئندہ اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش خدمت قارئین کریں گے کہ:-

◎ جو مؤمن ہوتا ہے وہ حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”نوری بشر“ مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ بقول حضرت رضا:-

”ان سانہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ“

◎ جو منافق ہوتا ہے وہ حضور اقدس خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام، عاجز اور مجبور بشر مانتا ہے۔

کا وارد ہونا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ یہ دونوں حصوں میں کہی ہوئی بات اہم اور ضروری ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے چار حصوں کو ترتیب وار رکھنے کے بجائے نمبر: ۱ کے ساتھ نمبر: ۳، اور نمبر: ۲، کے ساتھ نمبر: ۴، رکھتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ:-

(۱) تم فرماؤ (۳) میری طرف وحی آتی ہے۔ کیا وحی آتی ہے؟

(۲) ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں (۴) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

مذکورہ چار حصوں میں سے حصہ نمبر: ۲، اور ۴ کو اہمیت دیتے ہوئے دونوں کے شروع میں

”إِنَّ“ اور ”أَنَّ“ کو ”ما“ کی اضافت کے ساتھ ارشاد فرمانے کا ما حاصل یہ ہے کہ:-

☆ ”میں تمہارا معبود نہیں اس معنی میں میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔“

کیونکہ! اُس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایسے خرق عادت اور غیر ممکن کمالات جو انسان کے لئے محال ہیں، آپ انسان نہیں بلکہ خدا، یا خدا کے بیٹے یا خدا کے شریک ہیں۔ لوگوں کو اس وہم و گمان کے نتیجے میں شرک کی مہلک بدی میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لئے اس آیت کریمہ کے ذریعہ اس حقیقت کو باور کرایا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عظیم معجزات ظہور پذیر ہونے کے باوجود بھی آپ انسان ہیں، بندہ ہیں، مخلوق ہیں۔ آپ الٰہ نہیں، معبود نہیں اور خالق نہیں۔

اس آیت کریمہ کے مندرجہ بالا چار حصوں کی طرف پھر ایک مرتبہ التفات فرمائیں۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصہ کی ابتدا میں لفظ ”إِنَّمَا“ اور چوتھے حصہ کے شروع میں ”أَنَّمَا“ لفظ وارد ہے۔ ”إِنَّمَا“ اور ”أَنَّمَا“ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ دونوں لفظوں کی ترکیب (Composition) حسب ذیل ہے:-

☆ إِنَّ + مَا = إِنَّمَا

☆ أَنَّ + مَا = أَنَّمَا

لفظ ”إِنَّ“ اور ”أَنَّ“ دونوں کلمہ تاکید ہیں اور دونوں میں حرف ”ما“ کی اضافت کی گئی ہے لہذا ”إِنَّ“ سے ”إِنَّمَا“ بنا اور ”أَنَّ“ سے ”أَنَّمَا“ بنا۔ علم نحو کی اصطلاح میں حرف ”ما“ کو ”حرف زیادت“ کہتے ہیں۔ یعنی کہ زیادتی یا اضافہ کا حرف۔

علم نحو کی اصطلاح میں کل آٹھ حروف حرف زیادت ہیں (۱) اِن (۲) اَنَّ (۳) مَّا (۴) لَّا (۵) مِّن (۶) ك (۷) ب اور (۸) ل۔ (حوالہ:- علم النحو ص: ۶۴)

علم نحو کی اصطلاح کے مطابق جب کسی جملہ کی ابتدا میں ”إِنَّ“ یا ”أَنَّ“ آتا ہے تو وہ جملہ ”مؤكد“ یعنی تاکید کیا ہوا ہو جاتا ہے۔ اور اس جملہ میں کہی ہوئی بات کی اہمیت ظاہر کی جاتی ہے۔ اور ”إِنَّ“ و ”أَنَّ“ میں ”ما“ کی اضافت علم عروض کی اصطلاح میں کلام کی فصاحت و بلاغت یا جملہ کی بندش میں الفاظ کے اوزان کے اعتدال کے لئے کیا جاتا ہے۔ الحاصل!

آیت کریمہ کے چار حصوں میں سے حصہ نمبر: ۲، اور حصہ نمبر: ۴، کے شروع میں ”إِنَّمَا“ اور ”أَنَّمَا“

⊙ اشتباہ = مشابہ ہونا، دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہو جائے، گمان،

شبہ، شک، Ambiguity, doubt

(حوالہ: (۱) فیروز اللغات، ص: ۹۶)

(۲) دی نیوریل پریشین انگلش ڈکشنری از: - ایس، سی، پال، ص: ۲۳۳)

اب ہم آیات محکمات اور آیات متشابہات کو مندرجہ ذیل تقسیم سے سمجھیں:-

### آیات محکمات:-

(۱) جن کا معنی اور مراد واضح ہو۔ اور جن میں ایک ہی معنی کا احتمال ہو۔

(۲) جن کی معرفت و وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو کسی قسم کا توقف یا

تاویل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

(۳) جن میں کسی قسم کا کوئی احتمال اور شک نہ ہو۔ یعنی اس کے معنی اور مراد میں

کوئی تردید نہ ہو۔

(۴) احکام شریعت، عقائد، ایمان، وغیرہ میں ان کی طرف رجوع کیا جائے

گا۔ کیونکہ یہ قرآن کی اصل ہیں۔

(۵) حلال و حرام کے معاملہ میں ان آیات پر عمل کیا جائے گا۔

متعدد کتب تفاسیر میں آیات محکمات کے جو اصول و ضوابط متعین کئے گئے ہیں ان کا

ماحصل ہم نے مندرجہ بالا پانچ اصولوں میں منحصر کر دیا ہے۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھنے کے

لئے ذیل میں پیش کردہ چند مثالیں ذہن نشین کر لیں۔

⊙ مثال نمبر ۱:- ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ“

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۸)

ترجمہ:- ”نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نمازوں کی۔“ (کنز الایمان)

⊙ مثال نمبر ۲:- ”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“

(پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۴۳)

## ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ“

### آیت کا خلاصہ اور اس کی ضروری وضاحت

قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ تمام آیات ایک ہی قسم کی نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات کے بہت اقسام ہیں مثلاً ⊙ آیات محکمات ⊙ آیات متشابہات ⊙ آیات مقطعات ⊙ آیات مہمات ⊙ آیات ناسخہ ⊙ آیات منسوخہ ⊙ آیات مقدمات ⊙ آیات موخرات۔

قرآن مجید کی آیات کے تمام اقسام کی تفصیلی بحث یہاں ممکن نہیں۔ لہذا ہمارے عنوان کا جن سے تعلق ہے، وہ دو اقسام یعنی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے متعلق ہم قرآن، حدیث اور تفسیر کی روشنی میں اختصاراً گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ:

”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“

(پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۷)

ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی و مطلب واضح طور پر صاف ظاہر ہوں۔ اس قسم کی آیتوں کو ”آیات محکمات“ کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی و مطلب اور مراد واضح طور پر صاف ظاہر نہ ہوں بلکہ اس کے معنی و مراد میں ”اشتباہ“ ہو۔

میں ان کی طرف بلا کسی تاویل یا توقف کے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

○ مثال نمبر ۵:- ”وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً“

(پارہ: ۱۵، سورہ: بنی اسرائیل، آیت: ۳۴)

ترجمہ:- ”اور بدکاری (زنا) کے پاس نہ جاؤ، بیشک وہ بے حیائی ہے۔“ (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۶:- ”حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ“ (الح)

(پارہ: ۶، سورہ المائدہ: آیت: ۲)

ترجمہ:- ”تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت“ (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۷:- ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ“

(پارہ: ۷، سورہ المائدہ، آیت: ۹۰)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی

کام۔ تو ان سے بچتے رہنا۔“ (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۸:- ”وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“

(پارہ: ۳، سورہ البقرہ، آیت ۲۷۵)

ترجمہ:- ”اور حلال کیا اللہ نے بیع کو اور حرام کیا سود کو۔“

مثال نمبر ۵ تا ۸ میں پیش کردہ قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مراد ایسے صاف اور واضح

ہیں کہ ○ زنا ○ مردار ○ خون ○ سور کا گوشت ○ شراب ○ جو ○ بت ○ پانسے اور ○

سود کے حرام ہونے کا حکم اور بیع یعنی تجارت کے حلال ہونے کا حکم ان آیات سے بآسانی اخذ کیا

جاسکتا ہے۔ ان آیات کو بطور دلیل پیش کر کے زنا، جو، شراب وغیرہ کے حرام ہونے اور تجارت

کے حلال ہونے کا ثبوت پیش کرنے والے کو آیت کی تاویل یا توقف کرنے کی قطعاً ضرورت

نہیں۔ کیونکہ ان آیات میں وارد تمام الفاظ کے معنی صاف اور مراد واضح ہیں۔ لہذا یہ تمام کی

تمام آیات محکمات ہونے کی وجہ حلال و حرام کے معاملات میں ان آیات پر عمل کیا جائے گا۔

ترجمہ:- ”اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔“ (کنز الایمان)

ان دونوں آیتوں کے معنی اور مراد صاف ظاہر اور ان دونوں آیتوں سے نماز اور زکوٰۃ

کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ وارد نہیں کہ جس کی تاویل کرنا ضروری ہو۔

○ مثال نمبر ۳:- ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“

ترجمہ:- ”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُترا۔“ (کنز الایمان)

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ:-

”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“

(پارہ: ۲، سورہ البقرہ، آیت: ۱۸۵)

ترجمہ:- ”تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن شریف نازل ہونے کا تذکرہ

فرمانے کے بعد یہ حکم نافذ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان المبارک

کے مہینہ بھر کے روزے رکھے۔ یعنی اس آیت کے ذریعہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی

فرضیت نافذ ہوئی۔

○ مثال نمبر ۴:- ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“

(پارہ: ۴، سورہ آل عمران، آیت: ۹۷)

ترجمہ:- ”اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں صاحب استطاعت پر حج فرض ہونے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔

یہاں تک ہم نے کل چار مثالیں پیش کی ہیں۔ ان مثالوں میں پیش کردہ آیات قرآنیہ

کے معنی اور مراد ایسے واضح طور پر صاف ہیں کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کے احکام ان

آیات سے بآسانی اخذ کیئے جاسکتے ہیں اور ان آیات کو بطور دلیل پیش کر کے نماز کی، زکوٰۃ کی

اور صاحب استطاعت کے لئے حج کی فرضیت ثابت کرنے والے کو آیت کے کسی بھی لفظ کی

تاویل یا کسی قسم کے توقف کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ کیونکہ آیات میں وارد تمام الفاظ کے

معنی اور مراد صاف و واضح ہیں۔ لہذا یہ تمام آیات محکمات میں سے ہونے کی وجہ سے احکام



عمیق کے غور و خوض کے ثمرات نافعہ کی حیثیت سے کچھ مفید و نفع بخش ضوابط و اصول متعین ہوئے ہیں۔ مثلاً:-

(الف) جن آیات کا کچھ بھی معنی معلوم نہیں یعنی چند سورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف پوری آیت کی صورت میں وارد ہیں۔ مثلاً المّ یا الذرّ وغیرہ۔ جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جن کے معنی و مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ وہ تمام آیات کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ ان تمام آیات کا شمار آیات متشابہات میں ہوگا۔ پورے قرآن مجید میں حروف مقطعات پر مشتمل آیات متشابہات کی تعداد انیس (۲۹) ہے اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

- المّ = سورۃ البقرہ، ال عمران، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ میں کل:- ۶ مرتبہ
- حمّ = سورۃ مؤمن، حمّ سجدہ، زخرف، دخان، جاثیہ، اور احقاف میں کل:- ۶ مرتبہ
- الرا = سورۃ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، اور حجر میں کل:- ۵ مرتبہ
- طسّم = سورۃ شعراء اور قصص میں کل:- ۲ مرتبہ
- المصّ = سورۃ اعراف میں ○ کھلی حصّ = سورۃ مریم میں کل:- ۲ مرتبہ
- المر = سورۃ رعد میں ○ طسّ = سورۃ نمل میں کل:- ۲ مرتبہ
- نّ = سورۃ قلم میں ○ حمّ عسقّ = سورۃ الشوریٰ میں کل:- ۲ مرتبہ
- صّ ○ قّ ○ طهّ ○ یسّ اپنے اپنے نام کی سورتوں میں کل:- ۴ مرتبہ

میزان ← کل:- ۲۹ مرتبہ

ان حروف مقطعات کے معنی اور مراد کا علم اللہ و رسول کو ہی ہے۔ سورۃ مریم کی تفسیر میں مرقوم ہے کہ جب آیت کریمہ کھنی حصّ نازل ہوئی اور طائر سدرہ نشین، حضرت جبرئیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام وحی لے کر حاضر بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو کر عرض کی کہ ”ک“ تو حضور اقدس نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر عرض کی ”ھا“ اس پر سرکارِ دو عالم نے فرمایا میں نے جان لیا۔ پھر حضرت جبرئیل نے عرض کی ”ئی“ واقف رموز و اسرار الہیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

## آیات متشابہات:-

- (۱) جن کے معنی صاف اور مراد واضح نہ ہو۔ اور جن میں چند معنوں کے احتمالات ہوں۔
- (۲) جن کی معرفت و وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو بھی توقف یا تاویل کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔
- (۳) جن کے معنی اور مراد میں اشتباہ ہو۔ جو تاویل کے بغیر دور نہ ہو۔
- (۴) جن کے معنی ظاہر نہ ہوں اور جو ظاہر ہوں وہ مراد نہ ہوں بلکہ معنی و مراد دونوں مشتبہ ہوں۔
- (۵) ایمان، عقائد اور احکام وغیرہ امور ضروریات دین میں ان آیات کے ظاہر معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ علماء راہنہ کی تاویل کردہ وضاحت کو مشعل راہ بنانا لازمی ہے۔
- (۶) حلال اور حرام کے معاملہ میں ان آیات کے ظاہر معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
- (۷) یہ آیات لوگوں کے ایمان و عمل کی آزمائش کے لئے ہیں۔
- (۸) ان آیات میں چند وجوہ کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی ان آیات کی صحیح مراد بآسانی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان آیات میں وارد الفاظ کا کس معنی و مراد میں استعمال ہوا ہے۔ ان کی صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرمائے۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۰)

## آیات متشابہات کے متعلق مزید وضاحت:-

قرآن مجید کی کون کون سی آیات متشابہات میں سے ہیں یہ طے کرنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، مفسرین کرام اور علمائے راہنہ نے اس معاملہ میں عرق ریزی کر کے کافی حد تک کامیاب کوششیں فرمائی ہیں اور ان کی دور رس اور خورد بین نگاہ

**نوٹ:-** وَجْهٌ کے معنی چہرہ، رُخ، منہ وغیرہ ہیں۔ اس آیت میں ”وَجْهَ اللَّهِ“ کا کلمہ وارد ہے۔ اس کے ظاہری معنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا رُخ ہرگز نہیں اخذ کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں وَجْهَ اللَّهِ سے مراد اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا مراد لیا جائے گا۔ اور آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ”تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔“ (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۳:- ”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“  
(پارہ: ۲۷، سورۃ الطور، آیت: ۲۸)

ترجمہ:- اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بیشک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔“ (کنز الایمان)

**نوٹ:-** آیت میں ”أَعْيُنِنَا“ کا لفظ وارد ہے جس کے لفظی معنی ”ہماری آنکھیں“ ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کی آنکھیں ایسا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تاویل کر کے ہماری آنکھوں سے مراد ہماری نگہداشت لی جائے گی۔ جیسا کہ کنز الایمان کے ترجمہ میں ہے۔

○ مثال نمبر ۴:- ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“  
(پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۵)

ترجمہ:- ”وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔“ (کنز الایمان)

**نوٹ:-** اس آیت میں ”استوی“ کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے ظاہری معنی میں اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ”استوی“ کے معنی ہیں ”بیٹھنا“ یا ”جلوس کرنا“ اگر صرف ظاہری معنی پر اکتفا کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ یہ ہوگا۔ ”رحمن نے عرش پر جلوس فرمایا“ یا ”رحمن عرش پر بیٹھا“ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیٹھنے سے اور مقام سے پاک ہے لہذا ظاہری معنی سے انحراف دروگردانی کرتے ہوئے، اس لفظ کی مناسب تاویل کی جائے گی اور وہی ترجمہ صحیح ہے جو ہم نے کنز الایمان

نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا۔ حضرت جبرئیل نے عرض کی ”ع“ اس پر عالم ماکان وما یکون نے فرمایا میں نے جان لیا۔ پھر حضرت جبرئیل نے عرض کی ”ص“ اس پر حضور اکرم نے فرمایا سمجھ گیا۔ الغرض آیت کریمہ ”كَهَيْعَصَ“ کے ہر حرف پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معلوم کر لیا یا میں نے جان لیا۔ اس ارشاد پر حضرت جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ! لیکن میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ تو جب وحی لانے کی عظیم خدمت انجام دینے والے حضرت جبرئیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی حرف مقطعات کے معنی و مراد سے آگاہ نہیں ہو سکے تو لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ان کا مطلب و مراد ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ“ ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ ”وہ اسرار الہی اور مشابہات سے ہیں۔ ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۹۲)

(ب) جن آیات کا لفظی ظاہر معنی تو معلوم ہو مگر اس معنی کا اطلاق کرنا اسلامی عقائد اور نظریات کی بنا پر غیر مناسب اور خلاف شان الوہیت ہو، اُن آیات کا شمار بھی تشابہات میں ہوگا۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، اعضاء جسم سے، جہت و سمت سے، مکان و مقام سے، اور محدود و منتهی ہونے سے پاک و منزہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کئی آیتوں میں وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نظر، اللہ کا رخ، اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وغیرہ ذیل میں بطور مثال چند آیات پیش خدمت ہیں:-

○ مثال نمبر ۱:- ”يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“  
(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“ (کنز الایمان)

**نوٹ:-** یہاں ہاتھ سے مراد جسمانی عضو ہاتھ نہیں لیا جائے گا بلکہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد، پشت پناہی، اللہ کا کرم، اللہ کی نصرت وغیرہ مراد لی جائے گی۔

○ مثال نمبر ۲:- ”فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ“  
(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۱۵)

ترجمہ:- ”تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے۔“ (کنز الایمان)

شریف سے نقل کیا ہے۔

○ مثال نمبر ۵:- ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“

(پارہ: ۲۶، سورہ ق، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- ”اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔“

**نوٹ :-** اس آیت میں لفظ ”أَقْرَبُ“ وارد ہے۔ جس کا ظاہری اور لفظی ترجمہ

”زیادہ قریب“ یا ”زیادہ نزدیک“ ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ان الفاظ کی نسبت و اضافت ناروا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک

و بے نیاز ہے لہذا ان الفاظ کی معنوی تاویل کرنی لازمی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:- ”یہ رگ گردن میں ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ

انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردہ میں ہیں اور اللہ کے لئے کوئی پردہ نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۳۴)

یہاں تک پیش کی گئی مثالوں اور دیگر آیات قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ○ يَدُ

یعنی ہاتھ ○ وَجْهٌ یعنی چہرہ ○ عَيْنٌ یعنی آنکھ ○ اسْتَوَاءٌ یعنی بیٹھنا ○ فَوْقُ یعنی اوپر

○ أَقْرَبُ یعنی بہت قریب اور ○ جَاءَ یعنی آیا کے الفاظ وارد ہیں۔ ان الفاظ کے ظاہری اور

لفظی معنوں کا ترجمہ کر کے اس کی نسبت و اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے لئے

نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے لہذا ان

الفاظ کی مناسب معنوی تاویل کرنی ہوگی اور جب آیت کے الفاظ کی معنوی تاویل کی ضرورت

پیش آئی تو اب وہ آیات محکمات سے نہ رہیں بلکہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی۔

(ف) وہ آیات جن کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنی کو دلیل بنا کر کسی کو نبوت و رسالت

کے اعلیٰ منصب کی تعظیم و توقیر کے خلاف معنی اخذ کر کے تنقیص و توہین کرنے کی

جرات ہو بلکہ آیت کے الفاظ کے ظاہری لفظی معنی کسی بھی نبی و رسول کے علو مرتبت

کے منافی معلوم ہوتے ہوں، وہ تمام آیت کا بھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ ان

آیتوں کی ایسی مناسب تاویل کرنی ہوگی کہ تاویل کرنے پر آیت کا ترجمہ لغت کے

خلاف نہ ہو اور اس ترجمہ سے عصمت انبیاء کرام پر حرف بھی نہ آئے۔ مثلاً:-

○ ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ (پارہ: ۲۶، سورہ الفتح، آیت: ۲)

○ ”وَمَا أَبْرَأِي نَفْسِي“ (پارہ: ۱۳، سورہ یوسف، آیت: ۵۳)

○ ”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۲۱)

○ ”وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“ (پارہ: ۲۶، سورہ محمد، آیت: ۱۹)

○ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“ (پارہ: ۳۰، سورہ الضحیٰ، آیت: ۷)

○ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (۱) پارہ: ۱۶، سورہ الکہف، آیت: ۱۱۰

(۲) پارہ: ۲۴، سورہ حم سجدہ، آیت: ۶)

مندرجہ بالا تمام آیات کا شمار آیات متشابہات میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان آیات کے

ظاہری اور لفظی معنی کو دلیل بنا کر مخالفین و منافقین کو تنقیص و توہین رسالت و نبوت کی جرات

ہوتی ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ شاہد ہے کہ دور حاضر کے منافقین ان آیات کو پیش کر کے بارگاہ

رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں توہین و گستاخی کرتے ہیں۔

انشاء اللہ مندرجہ بالا آیات کی وضاحت اور اس کی صحیح تفہیم ہم اگلے صفحات میں زیور

گوش سامعین اور بَرَدَاتِ عیون ناظرین کرنے کی سعی بلیغ کریں گے۔

یہاں تک کی ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکمات اور بعض

آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنوں سے آیت کے معنی

اور مراد دونوں ظاہر ہوتے ہیں اور جن کے سمجھنے میں تاویلات کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی

لہذا ان آیات سے ایمان و عقائد، عبادت و معاملات اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام نکالے

اور طے کیئے جاسکتے ہیں۔ لیکن آیات متشابہات کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنوں سے

آیت کے معنی اور مراد دونوں صاف اور واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اس میں اشتباہ ہوتا

ہے اور جن کو سمجھنے کے لئے لغت کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب تاویلات کرنا ضروری

ہوتا ہے۔ لہذا ان آیات سے ایمان و عقائد، عبادت و معاملات اور حلال و حرام وغیرہ کے

احکام اس کے لفظی معنوں سے اخذ نہیں کیئے جاسکتے۔

## ”منافقین آیات متشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں“

آیات متشابہات کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلانے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ

ہے کہ:-

<p>”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ“</p>
<p>⊙ = پارہ: ۳، سورہ ال عمران، آیت: ۷ = ⊙</p>
<p>ترجمہ:- ”وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔“ (کنز الایمان)</p>
<p>تفسیر:- ”یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ ہوائے نفسانی کے پابند ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا تاویل باطل کرتے ہیں اور یہ نیک نیتی سے نہیں بلکہ شک و شبہ میں ڈالنے اپنی خواہش کے مطابق، باوجودیکہ وہ تاویل کے اہل نہیں“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۱)</p>

⊙ حل لغت:- کجی = ترچھاپن، ٹیڑھا پن (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۹۹۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی (Crookedness) یعنی ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہی لوگ اشتباہ والی آیتوں یعنی آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور گمراہی پھیلانے کے فاسد ارادے سے ان آیات کے اپنی خواہش کے مطابق من بھاتے

آیات محکمات اور آیات متشابہات دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ دونوں حق ہیں۔ جو مؤمن ہوتا ہے وہ آیات محکمات پر تسلیم خم کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور آیات متشابہات میں اپنی رائے زنی سے باز رہتا ہے لیکن جو منافقین ہوتے ہیں، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایسی متشابہات آیات چُن چُن کر نکالیں گے۔ ان آیات کے ظاہر پر حکم کریں گے اور گمراہی پھیلانے کے فاسد ارادے سے اس کی باطل و مفسد تاویلیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

ترجمہ:- ”جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی پیروی کر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ وہ وہی ہیں جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی ہے۔ تم ان لوگوں سے بچتے رہنا۔“

## ”ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ“

علامہ امام عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل دارمی سمرقندی (المتوفی ۲۵۵ھ) اپنی ”مسند“ میں حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ:-

”امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ”صبیغ“ نامی ایک شخص مدینہ منورہ میں وارد ہوا اور جن جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس قرآنی ذخائر یا قرآنی جزء موجود تھے ان کی خدمات میں آمد و رفت شروع کی اور ان حضرات صحابہ کی مدد سے ان ذخائر اور اجزاء میں سے آیات متشابہات کو تاویلات فاسدہ کی غرض سے علیحدہ کرنا شروع کیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ آپ نے ”صبیغ“ کو دربار خلافت میں طلب فرمایا اور کھجور کے درخت کی شاخیں منگوائیں۔ جب صبیغ دربار خلافت میں حاضر ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا ”تمہارا نام کیا ہے؟“ اس نے کہا میرا نام تو عبداللہ بن صبیغ ہے مگر میں صبیغ کے نام سے مشہور ہوں۔“

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو معتمد اطلاعات فراہم کیں تھیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے صبیغ کو کھجور کی شاخوں سے پیٹنا شروع کیا۔ آپ نے اسے خوب پیٹا یہاں تک کہ کھجور کی کٹی شاخیں ٹوٹ گئیں مگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پیٹتے رہے یہاں تک کہ اس

تراجم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں تفسیر میں وارد ہے کہ ایسا کرنے والے ”ہوائے نفسانی کے پابند ہیں“ یعنی نفس کی خواہش و لالچ کے پابند ہیں۔ ایسے لوگ تخیلات فاسدہ (Sinful thoughts) کے عادی ہوتے ہیں اور لوگوں کو شک و شبہ کے ذریعہ فتنہ میں مبتلا کرنے کی غرض سے آیات متشابہات کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے احادیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

**حدیث :-** ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَدَايِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

ترجمہ:- ”جو شخص قرآن شریف میں اپنی رائے کے مطابق معنی بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“ (حوالہ:- مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۵)

**حدیث :-** ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

ترجمہ:- ”جو شخص بے علم قرآن کی تفسیر بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔“ (حوالہ:- فتاویٰ رضویہ، جلد: ۹، جز اول، ص: ۹۶)

**حدیث :-** بخاری شریف و مسلم شریف وغیرہما میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ“ (الح: پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ:-

”فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَاخَذَرَهُمْ“

رسالت میں گستاخی اور توہین کرنے کی غرض سے ہمیشہ آیات متشابہات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور قرآن کے نام پر اور قرآن ہی کے ذریعہ امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔  
دورِ حاضر کے منافقین نے ماحول ایسا پرانگندہ بنا دیا ہے کہ جاہل ملاؤں کی تبلیغی ٹولی کے ساتھ دہلی یا مدراس کا ایک چلہ کر آنے والا ”اجہل مبلغ“ اپنے آپ کو مولانا، مولوی، مفتی، محدث یا مفسر سے کم نہیں سمجھتا، جن جہلاء کو استنجا، طہارت اور نماز کے مسائل کی بھی معلومات نہیں ہوتی ان کو چالیس دن کے چلہ کے درمیان دو-چار آیات متشابہات رٹا دی جاتی ہیں اور وہ جہلا ان آیات متشابہات کے لفظی معنوں کو بطور دلیل پیش کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی گھنونی حرکت و جرأت کرتے ہیں۔

تجب کی بات تو یہ ہے کہ دورِ حاضر کے منافقین کی بے راہ روی اور علمی بے مائگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیات کے ◉ محکم ◉ متشابہ ◉ مقدمہ ◉ مؤخرہ ◉ عامہ ◉ خاصہ ◉ مجملہ ◉ مبینہ ◉ ناسخہ ◉ منسوخہ ◉ مطلقہ ◉ منطوقہ ◉ مہیمہ ◉ مفہومہ کے احوال کا جنہیں ضروری اور لازمی علم نہیں اور جو قرآن مجید کے انداز بیان کے اہم شعبے مثلاً ◉ حقیقت ◉ مجاز ◉ تشبیہ ◉ استعارات ◉ مقفی ◉ ربط ◉ تعریض ◉ کنایات ◉ ایجاز ◉ اطناب ◉ حصر ◉ اختصار ◉ مبتدا ◉ خبر ◉ انشاء وغیرہ سے مکمل بے خبر اور جاہل بلکہ اجہل ہوتے ہیں وہ قرآنی تعلیم، قرآن فہمی اور تفہیم کے مبلغ اعظم اور مفسر اجل بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ تبلیغ دین کے نام پر وہ ضال و مضل کی تحریک چلاتے ہیں۔

### سیدنا عمر فاروق اعظم کا ارشاد گرامی :-

عالم الغیب والشہادہ، رب تبارک و تعالیٰ کے غیب جاننے والے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب داں جلیل القدر صحابی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے آج کے دور کے منافقین کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ:-

”وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِمَشَاهِدَاتِ الْقُرْآنِ - فَخَذُوا هُمْ بِالسَّنَنِ

کے سر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے اور اس کی تہ بند بھی خراب ہو گئی۔ پھر آپ نے پیٹنا موقوف فرمایا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ جب صلیغ قید خانہ میں چند دنوں رہنے پر صحت یاب ہو گیا تو امیر المؤمنین نے اسے دوبارہ دربار خلافت میں طلب فرمایا۔ مگر صلیغ نے اپنی کروتوت سے باز آنے کا انکار کیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین نے اسے دوبارہ پیٹنا شروع فرمایا اور جب صلیغ پیٹتے پیٹتے خون سے تر بتر ہو گیا تو امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا ”اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟“ صلیغ نے اڑیل اور سرکش ہوتے ہوئے کہا کہ ”اگر آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہے تو مجھے بے شک قتل کر دیجئے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اپنے کام سے باز نہیں آنے والا“

امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ”اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے قتل کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ جس دروازہ کو تم نے کھولا ہے وہ بند ہونے والا نہیں۔“ لہذا مدینہ منورہ کو اپنے وجود سے آج ہی پاک کر دو اور جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔“ عبداللہ بن صلیغ نے اسی وقت ملک شام کا راستہ اختیار کیا اور ملک شام (Syria) چلا گیا۔

امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ارسال فرمایا اور یہ حکم تحریر فرمایا کہ عبداللہ بن صلیغ کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی بھی مسلمان اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرے۔“

(بحوالہ:- قرآنی علوم، ص: ۱۴)

اس واقعہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی کہ ”اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے قتل کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا۔“ قابل غور و توجہ ہے کہ یہ فتنہ صرف عبداللہ بن صلیغ کی شخصیت تک ہی منحصر اور محدود نہ تھا بلکہ بقول حضرت فاروق اعظم ”میں جانتا ہوں کہ جس دروازہ کو تم نے کھولا ہے وہ بند ہونے والا نہیں۔“ ۱۹ھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی ہوئی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہے کیونکہ خلافت فاروقی کے زمانہ سے لے کر آج تک یعنی کہ اُس پیشین گوئی کے چودہ سو سال بعد تک یہ فتنہ جاری ہے بلکہ دورِ حاضر میں یہ فتنہ اپنے شباب پر ہے کیونکہ دورِ حاضر کے منافقین بارگاہ

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے تھے کہ اپنی جوانی ہی میں پختہ عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو واضح البیان اور دل کو عظیم دانش کدہ بنایا ہے۔

○ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر تھے۔ نو جوانی کے عالم میں تھے۔ جوانی کے شباب کی بہاریں بھی ابھی نہیں آئی تھیں لیکن آپ کے تفقہ فی الدین اور علم تفسیر سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر تھے کہ آپ کو اصحاب بدر صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔

اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن مجید کی آیتوں کی صحیح تفسیر اور تفہیم کے لئے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی رجوع فرماتے تھے۔ وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

”آیات محکمات و آیات تشابہات دونوں قسم کی آیتیں منجانب اللہ ہیں لہذا دونوں کے حق و صداقت پر ہمارا ایمان ہے مگر دینیات اور شرعی احکام کا دار و مدار آیات محکمات پر ہے اس لئے آیات تشابہات کو احکام شرعی یا دینیات میں بطور استشہاد (سند) پیش نہیں کیا جاسکتا“ (اخرجہ ابن حاتم)

**حدیث:-** طبرانی میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”میں اپنی امت پر تین چیزوں کا خوف کرتا ہوں۔ (۱) زیادتی مال جو باعث

حسد ہو (۲) جنگ و جدال (۳) تشابہات کی تاویل“

**حدیث:-** ابن فرودیہ نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”قرآن کی جن آیتوں کو سمجھ سکو (یعنی محکمات) ان پر عمل کرو اور تشابہات پر

ایمان لے آؤ۔“ (دونوں احادیث بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۱۳)

الحاصل! صحیح العقیدہ مؤمن تشابہات کی تاویل کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں

فَإِنَّ أَصْحَابَ الشُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ“

ترجمہ:- ”ایسے لوگوں کا ظہور ضرور ہوگا، جو قرآن کی آیات تشابہات کے ذریعہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں گے۔ ان کو سنت (ارشاد نبوی) سے پکڑو۔ کیونکہ اہلسنت کے علماء اللہ کی کتاب (قرآن) کو زیادہ جاننے والے ہیں۔“

بارہا کا تجربہ ہے کہ آیات تشابہات کے ظاہری لفظی معنوں کو بطور دلیل پیش کرنے والے دور حاضر کے منافقین کا جب کسی سنی عالم سے سابقہ پڑتا ہے، تو وہ منافق مبلغ اپنی بغلیں جھانکتا ہوا، نود و گیارہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی خیر و عافیت محسوس کرتا ہے۔

**آیات محکمات و تشابہات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد عالی:**

جلیل القدر صحابی رسول، رئیس المفسرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علوم تفسیر قرآن میں ایسا ارفع و اعلیٰ ہے کہ آپ زمانہ صحابہ کرام سے آج تک ”ترجمان القرآن“ کے معزز منصب پر فائز ہیں۔ جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:-

”نِعْمَ تَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ“

ترجمہ:- ”عبداللہ بن عباس قرآن مجید کا بہترین ترجمان ہے۔“ اسی لئے آپ کا لقب ترجمان القرآن ہے۔

○ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ شخص آپ کی امت کا ”حزب“ ہونے والا ہے۔ (اخرجہ ابو نعیم)

حضرت جبرئیل کی عرض کردہ اطلاع کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کے کثرت علم اور فقاہت کا یہ عالم ہوا کہ آپ کا لقب ”حزب الامۃ“ یعنی ”امت کا زبردست عالم دین“ مشہور ہوا۔

○ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت عبداللہ

کرتے ہیں لیکن اصطلاح قرآن کے مطابق یہ آیت آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم ملت اسلامیہ کے عظیم اماموں اور محققوں کی معتمد اور معتبر کتابوں کے چند حوالے پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔

**حوالہ ۱:-** شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی قدس سرہ العزیز (المتوفی ۱۰۵۲ھ) اپنی کتاب ”مدارج النبوة“ میں فرماتے ہیں کہ:-

”وہ آیات جن میں انبیاء کرام کے لیے صفات عمومی ثابت کیے جائیں وہ متشابہات ہیں۔ جیسے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اور ”فَعَصَىٰ الدَّمُ رَبَّةً فَعَوَىٰ“ اور ”وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“۔

**حوالہ ۲:-** تفسیر احمدی

”تمام وہ آیتیں جن سے انبیاء کرام کا گنہگار ہونا معلوم ہوتا ہو، ان سب کی تاویل واجب ہے۔ جیسے ﴿وَهَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا﴾ ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ وغیرہ۔ گویا ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ آیتیں متشابہات ہیں۔“

(دونوں حوالے بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۱۱)

”بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی غرض سے منافقین زمانہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی طرح دیگر آیات متشابہات کو بھی دلیل بناتے ہیں“

دور حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی ان آیات متشابہات کو پیش کرتے ہیں جن آیات کے لفظوں کے

کہ ہم متشابہات پر ایمان لے آئے۔ ان کے جو معنی ہیں وہ حق ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول کو معلوم ہے۔ ان کے معنی اور مراد ہماری عقل و فہم میں آئیں یا نہ آئیں، مگر یہ آیات ہمارے رب کی طرف سے ہونے کی وجہ سے ہم اس کی حقانیت و صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔

لیکن.....! فاسد العقیدہ منافقین متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور آیت کے ظاہری الفاظ کی جھوٹی اور باطل تاویلیں کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ:-

”اصطلاح میں کسی لفظ کو ظاہری معنی سے پھیرنا تاویل کہلاتا ہے۔ یہاں وہ باطل تاویل میں مراد ہیں جو عقائد اسلامیہ کے خلاف ہوں۔ اور مفسدین کی مرضی کے مطابق یعنی الفاظ کو توڑ موڑ کر اپنا مطلب نکالنا یعنی ایسے بے دین لوگ محض گمراہی پھیلانے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے کشت و خون کرانے اور لوگوں کو بہکانے کے لئے و نیز اپنے مطلب کے موافق قرآن بنانے کے لئے آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ محکم آیتوں اور روشن احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔“

(حوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۰۸)

المختصر! دور حاضر کے منافقین انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی باگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کے اپنے مطلب فاسد کی غرض سے ہمیشہ قرآن مجید کی آیات متشابہات کو بطور سند اور دلیل پیش کر کے فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو آپسی خانہ جنگی اور گمراہیت کے گہرے دلدل میں پھنسانے کی سعی مقبوحہ اور حرکت نازیبا کرتے ہیں۔

**”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیات متشابہات سے ہے“**

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری کا دعویٰ ثابت کرنے اور حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے فاسد ارادہ سے دور حاضر کے منافقین بڑے ہی طمطراق سے قرآن مجید کی آیت شریف ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بطور دلیل اور سند پیش



(پارہ: ۳۰، سورہ الضحیٰ، آیت: ۷)

اس آیت کے منافقین زمانہ کے تین پیشواؤں کے تراجم ذیل میں درج ہیں:-

(۱) مولوی محمود الحسن دیوبندی:- ”اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دکھائی“

(۲) مولوی اشرف علی تھانوی:- ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (شریعت سے) بے

خبر پایا، سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔“

(۳) مولوی عبدالشکور کوری:- ”اور پایا اس پروردگار نے آپ کو راہ سے بے خبر، پس

ہدایت کی اس نے (آپ کو)“

اس آیت میں وارد لفظ ”ضَالًّا“ کا ترجمہ دور حاضر کے منافقین ◉ گمراہ ◉ بھٹکا ہوا

◉ راہ سے بے خبر وغیرہ اخذ کر کے آیت کا غلط ترجمہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظاہری نبوت سے سرفراز ہونے کے قبل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گمراہ، راہ یعنی شریعت سے بے خبر اور بھٹکے ہوئے تھے۔ مثلاً:-

◉ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور دور حاضر کے منافقین کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے استاذ کہ جن کو علمائے دیوبند بڑے فخر سے ”شیخ الہند“ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، وہ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ:-

”اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دکھائی“

اس ترجمہ میں مولوی محمود الحسن دیوبندی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ ”بھٹکتا“ کا استعمال کیا ہے۔ لفظ ”بھٹکتا“ کے معنی ہم لغت سے دیکھیں:-

◉ بھٹکتا = گمراہ ہونا، آوارہ پھرنا (حوالہ:- جامع اللغات)

◉ بھٹکتا = گمراہ ہونا، راہ بھولنا، آوارہ پھرنا (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۲۳۲)

◉ دیوبندی مکتبہ فکر کے نامور مصنف اور جن کو منافقین زمانہ بقیۃ السلف، حُجَّة الخلف، حُجَّة الاسلام اور امام اہلسنت کے ٹائٹلوں سے نوازتے ہیں، وہ مولوی عبدالشکور کوری، ایڈیٹر رسالہ ”الجم“، لکھنؤ نے اس آیت کی تفسیر و وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ:-

ظاہری اور لغوی معنوں کی تاویل کرنا واجب ہے۔ ان آیات کے لفظی معنوں کو بطور دلیل و سند پیش کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کو بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی جرأت دلاتے ہیں۔ ان منافقین کے پیشواؤں کے دام فریب میں آکر ان کے جاہل مبلغین برسرعام دلیری سے توہین و تنقیص بارگاہ رسالت کرتے ہیں۔ راقم الحروف سے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ایک جاہل مبلغ نے یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم فرمایا۔ اور اپنے اس فاسد عقیدہ کے ثبوت میں قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ بطور سند پیش کی:-

◉ ”وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“

(پارہ: ۲۶، سورہ محمد، آیت: ۱۹)

ترجمہ از منافقین:- ”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے۔“

ترجمہ از:- دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی، استاد مولوی اشرف علی تھانوی۔

اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت بطور دلیل پیش کی تھی:-

◉ ”لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“

(پارہ: ۲۶، سورہ الفتح، آیت: ۲)

ترجمہ از منافقین:- ”تا کہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے“

معاذ اللہ.....!!!

ان آیات کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اور آیت میں وارد لفظ ”ذنب“ سے استدلال کر کے منافقین کیسی کیسی دھوکا دہی کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہم انشاء اللہ آئندہ صفحات میں تفصیلاً کریں گے لیکن یہاں ہم قرآن مجید کی ایک اور متشابہ آیت پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جس آیت کو دلیل بنا کر منافقین زمانہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اور وہ آیت ہے:-

◉ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“

○ ابو نعیم نے مسیرۃ الفجر سے، و نیز حضرت عرباض سے اور حضرت ابو ہریرہ سے ○ بزاز اور ○ طبرانی نے ”اوسط“ میں ○ ابو نعیم نے بطریق شعیب حضرت عبداللہ بن عباس سے ○ ابن سعد نے ابن ابی الجداء اور مطرف بن عبداللہ بن الشخیر اور عامر سے ○ طبرانی و ○ ابو نعیم نے ابی مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

”كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ الدُّوْحِ وَالْجَسَدِ“

ترجمہ:- ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم روح و جسم خاکی کے درمیان تھے“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الوری، از:- امام اجل علامہ جلال الدین

عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) اردو ترجمہ، جلد ۱، ص: ۱۲)

حدیث:- حافظ ابو الفضل ابن حجر ”شرح بخاری“ میں فرماتے ہیں کہ سیر واقدی

میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں پیدا ہوتے

ہی کلام فرمایا اور ابن سبع نے ”الخصائص“ میں ذکر کیا ہے کہ سب سے

پہلا کلام جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا ”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

كَبِيرًا“۔ (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص: ۱۳۸)

اس قسم کی احادیث کثیر تعداد میں ہیں جن کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ مگر ایک حدیث

میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب دنیا میں

تشریف لاتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اپنی امت کے لئے اپنے رب سے عرض کی

”رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي“ یعنی ”اے رب! مجھے میری امت بہہ فرمادے“۔

تو جو ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے

وقت سے ہی نبی کے منصب اعلیٰ پر جلوہ افروز ہو، اور جس ذات گرامی نے دنیا میں تشریف

لاتے ہی اللہ کی تکبیر کہی اور حمد بیان فرمائی و نیز اپنی امت کی بھلائی کے لئے دعا فرمائی، وہ

ذات گرامی کو اپنی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے رب ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا اور اپنی امت

○ ”محاسن شریعہ کی اصل اصول یعنی ایمان باللہ کی حقیقت بھی آپ نہ جانتے تھے۔“

○ ”اخلاقی محاسن کے تین جزء ہیں۔ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن۔ ان

تینوں سے آپ قطعاً و اصلاً بے خبر تھے۔ جب آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب الہی کیا چیز ہے

اور ایمان کیا چیز ہے تو اور محاسن سے آپ کو کیونکر آگہی ہو سکتی ہے۔“

○ ”کبھی کبھی ایسے کلمات آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوئے جس سے یہ معلوم ہوتا

کہ آپ اپنے لئے اس مرتبہ عظمیٰ کی امید رکھتے ہیں، جو چالیس برس کے بعد آپ کو عنایت

ہوا۔“ (حوالہ:- مختصر سیرت نبویہ، از: مولوی عبدالشکور، ص: ۲۲)

ناظرین کرام! غور فرمائیں کہ منافقین زمانہ آیت شریف ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“

کے ترجمہ کی آڑ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیسی سخت گستاخیاں کر رہے ہیں۔

مندرجہ بالا ترجمہ و تفسیر منافقین کا اقتباس یہ ہے کہ:-

معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ! نعوذ باللہ من ذالک!

○ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھٹکے یعنی گمراہ اور راہ بھولے ہوئے تھے۔

○ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت سے بے خبر تھے۔

○ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ سے بے خبر تھے۔

○ چالیس سال کی عمر شریف تک ایمان باللہ کی حقیقت بھی نہ جانتے تھے۔

○ چالیس سال کی عمر شریف تک اخلاقی محاسن سے قطعاً و اصلاً بے خبر تھے۔

○ چالیس سال کی عمر شریف تک کتاب الہی اور ایمان کیا چیز ہے وہ بھی نہ جانتے تھے۔

○ چالیس سال کی عمر شریف تک آپ کو نبوت کے مرتبہ عظمیٰ کی بھی امید نہ تھی۔

آیت کریمہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کا صحیح ترجمہ و تفسیر اور اس کی تفصیلی وضاحت

پیش خدمت کرنے کے قبل یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دور حاضر کے منافقین کے مندرجہ بالا

نظریات و اعتقادات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سخت گستاخی اور بے ادبی

ہونے کے ساتھ ساتھ ارشادات احادیث کے بھی متضاد ہیں:-

حدیث:- ○ امام احمد ○ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ○ حاکم ○ بیہقی اور

## ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کا صحیح ترجمہ و تفسیر اور آیت کی تفصیلی وضاحت و تفہیم

جیسا کہ اوراق سابقہ میں ہم نے تفسیر احمدی، تفسیر خزائن العرفان اور کتاب مستطاب ”مدارج النبوة“ کے حوالوں سے عرض کیا ہے کہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس آیت مقدسہ کی ایسی مناسب تاویل کرنا واجب ہے کہ آیت کا ترجمہ لغت کے خلاف نہ ہو اور اس ترجمہ سے عصمت انبیاء اور تعظیم و توقیر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حرف نہ آئے لیکن دور حاضر کے منافقین کو اس آیت متشابہ کے الفاظ کے ظاہری اور لغوی معنی اخذ کر کے، اس ظاہری معنی بیان کرنے میں نہ جانے کون سا لطف حاصل ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس آیت سے غلط استدلال اور مفہوم اخذ کر کے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی میں بھٹکتا، راہ سے بے خبر، گمراہ وغیرہ توہین آمیز الفاظ و جملے بولتے ہیں بلکہ کتابوں میں طبع کرتے ہیں۔

جب ان سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ جناب! اس آیت کا آپ نے جو ترجمہ بیان کیا ہے وہ درست نہیں تو اپنے آپ کو علامہ دہر اور مفسر اعظم سمجھتے ہوئے فوراً سورۃ الضحیٰ کی مذکورہ آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ”ضال“ وارد ہے اور لفظ ”ضال“ کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ میں بھی ”ضال“ کا لفظ وارد ہے۔ ”ضال“ کی جمع (Plural) ”ضالین“ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ ہے۔ ”نہ راستہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے“ تو سورۃ فاتحہ میں ”ضال“ کے معنی گمراہ ہیں، وہی معنی اخذ کر کے ہم نے سورۃ الضحیٰ کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس آیت میں بھی لفظ ”ضال“ وارد ہے۔

کا خیال تھا۔ وہ ذات گرامی جو اپنی ولادت باسعادت کے وقت اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور اپنی امت سے واقف ہو، اس ذات گرامی کے لئے معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ چالیس سال کی عمر شریف ہونے تک ایمان باللہ کی حقیقت بھی نہ جانتے تھے وغیرہ وغیرہ کہنا یقیناً بارگاہ رسالت میں سخت گستاخی ہے۔ اور احادیث کے ارشادات کی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی مخالفت ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ:-

”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“  
○ = پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۲ = ○  
ترجمہ:- ”تمہارے صاحب نہ بھٹکے، نہ بے راہ چلے“ (کنز الایمان)  
تفسیر:- (۱) صَاحِبُكُمْ سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ حضور انور نے کبھی طریق حق و ہدایت سے عدول نہ کیا۔ ہمیشہ اپنے رب کی توحید و عبادت میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی امر مکروہ کی گرد نہ آئی۔ (۲) اور بے راہ نہ چلنے سے یہ مراد ہے کہ حضور ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر مُتَمَكِّن رہے اور اعتقادِ فاسد کا شائبہ کبھی آپ کے حاشیہ بساط تک نہ پہنچ سکا۔“  
(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۴۶)

قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”مَا ضَلَّ“ یعنی ”کبھی نہیں بھٹکے“، لیکن دور حاضر کے منافقین قرآن کے اس ارشاد کے خلاف جا کر ”ضَلَّ“ کہتے ہیں یعنی ”بھٹکے ہیں“۔ اگر معاذ اللہ حضور اقدس ہادی الناس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ گمان کیا جائے کہ وہ ”بھٹکتا“ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ”راہ دکھائی“ تو پھر قرآن مجید کی سورۃ النجم کی آیت کریمہ ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ“ کے کیا معنی رہیں گے؟ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”کبھی نہیں بھٹکے“، لیکن دور حاضر کے منافقین کہتے ہیں کہ ”بھٹکے ہیں“ قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟

سے زیادہ محبت و چاہت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کی مذکورہ گفتگو کا ذکر فرمایا گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کا مقولہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

<p>”إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“</p>
<p>⊙ = پارہ: ۱۲، سورہ یوسف، آیت: ۸ = ⊙</p>
<p>ترجمہ:- ”بیشک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں“</p>
<p>(کنز الایمان)</p>

اس آیت میں لفظ ”ضَلَالٌ“ وارد ہے جو ”ضَالٌ“ سے مشتق اور ہم معنی ہے لیکن اس آیت میں یہ لفظ گمراہی کے معنی میں ہرگز وارد نہیں ہوا بلکہ یہاں یہ لفظ محبت میں وارفتہ ہونے کے معنی میں ہے۔ اگر اس آیت میں اور لفظ ”ضَلَالٌ“ کو گمراہی کے معنی میں اخذ کیا جائے گا تو واقعہ کی صحیح تفسیر ہی مفقود ہو جائے گی کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی اپنے والد کے ایمان و اعتقاد یا عمل و ارتکاب، عبادت و ریاضت، تبلیغ، رشد و ہدایت یا اور کسی معاملہ کے متعلق گفتگو نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے والد ماجد میں کوئی اعتقاد فاسدہ یا اعمال قبیح دیکھے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ”إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ بلکہ ان کی گفتگو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے والد ماجد کا زیادہ محبت کرنا اس سلسلہ میں ہو رہی تھی اور والد صاحب کی ان دونوں کی طرف محبت کا رجحان اور شفقت کی کثرت کو موضوع سخن بنا کر اس موضوع کے ضمن میں ہی انہوں نے اپنے والد کو ”ضَالٌ“ کہا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو جس بناء پر ”ضَالٌ“ کہا تھا وہ صرف اور صرف ”محبت میں ڈوبنا“ کے معنی ہی میں کہا تھا۔ گمراہیت کے معنی میں ہرگز نہیں کہا تھا۔ یہاں لفظ ”ضَالٌ“ کا ترجمہ گمراہی کرنا صراحتاً گمراہی اور ضلالت ہے۔ اسی طرح سورہ الفصحیٰ میں وارد لفظ ”ضَالٌ“ کا مطلب بھی گمراہی نہیں بلکہ ”محبت میں ڈوبا ہوا“ ہے۔ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ آیت میں وارد لفظ

واہ صاحب واہ! کیا بقراطی اور بے تکی منطق چھانٹی ہے؟ ان کو مغز اور کور باطن بلکہ سیاہ باطن منافقوں کو کون سمجھائے کہ قرآن مجید رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا جامع اور مانع کلام ہے کہ اس کے ہر ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ ہر جگہ صرف ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے متفرق معنی، مطلب و مراد میں مستعمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ”ضَالٌ“ کو ہی لپیچئے۔ لفظ ”ضَالٌ“ کے عربی لغت کے اعتبار سے چند معنی ہیں جیسے ⊙ گمراہ ⊙ بے خبر ⊙ آوارہ ⊙ انجان ⊙ بہکا ہوا ⊙ بے خود ⊙ وارفتہ ⊙ خود رفتہ ⊙ نثار ⊙ فریفتہ وغیرہ۔ لفظ ”ضَالٌ“ کا صرف گمراہ یا بے خبر معنی ہی اخذ کرنا بددیانتی اور نا انصافی ہے۔ قرآن مجید کی اعلیٰ اور بے مثال فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی لفظ الگ الگ موقع پر واقعہ کی متابعت کے اعتبار سے الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً لفظ ”ضَالٌ“ سورہ فاتحہ میں بے شک گمراہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد طلب کرنے کا اقرار، سیدھے راستے پر چلانے کی دعا اور گمراہ و بے دین لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنے کی دعا ہے جو آخری آیت ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ ”ضَالٌ“ گمراہ کے معنی میں وارد نہیں بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے دیگر معنوں میں بھی وارد ہے۔ مثلاً

⊙ سورہ یوسف میں بھی لفظ ”ضَالٌ“ کا استعمال ہوا ہے لیکن سورہ یوسف میں لفظ ”ضَالٌ“ کس معنی و مراد میں وارد ہوا ہے اسے باسانی سمجھنے کے لئے موقع و محل اور واقعہ کی صورت حال سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔

”حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ ان بارہ بیٹوں میں سے آپ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چاہت پدیری پر حضرت یوسف کے دیگر بھائیوں کو رشک و حسد ہوتا تھا لہذا جب یہ آپس میں جمع ہوتے تو اکثر ان کا موضوع سخن یہی ہوتا تھا کہ ہمارے والد محترم ہمارے مقابلہ میں حضرت یوسف اور بنیامین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان

اور نبوت کے بعد بھی اور اللہ کی توحید اور اس کے صفات کے ہمیشہ عارف ہوتے ہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۹۷)

ہوسکتا ہے کہ کسی مخالف معترض کو یہ اعتراض ہو کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس آیت کے لفظ ”ضَالٌ“ کا ترجمہ ”اپنی محبت میں خود رفتہ“ اور ”فَہْدٰی“ کا ترجمہ ”تو اپنی طرف راہ دی“ کیسے اور کس حوالہ سے کر دیا؟ اس سوال کا مدلل اور مفصل جواب حاصل کر کے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لئے اب جو عنوان ارقام ہونے والا ہے اسے بنظر عمیق مطالعہ فرمائیں۔

## ”جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے آیت شریف ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی“ کا کیا ترجمہ، تفسیر اور وضاحت بیان فرمائی ہے؟“

امین الامت، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”لِكُلِّ اُمَّتٍ اَمِيْنٌ وَ اَمِيْنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَبُو عَبِيْدَةَ“ یعنی ”ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔“ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ۱۹ سال کی عمر میں دعوت حق کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو عبیدہ کا شمار ان مقدس حضرات میں ہوتا ہے جن کو ”عشرہ مبشرہ“ کہا جاتا ہے یعنی وہ دس مقدس حضرات جن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور ان کے جنتی ہونے پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔

ناظرین کرام کی معلومات کے لئے ذیل میں حضرات عشرہ مبشرہ کے نام پیش خدمت ہیں:

(۱) امیر المؤمنین (عبداللہ) ابو بکر بن (عثمان) ابو قحافہ بن عامر بن عمر یعنی

”ضَالٌ“ کا ترجمہ کرنے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم و توقیر ملحوظ رکھنا اشد ضروری ہے اور یہاں ”ضَالٌ“ کا ترجمہ گمراہی کرنے سے بارگاہ رسالت کی سخت توہین و بے ادبی ہے۔ یہاں لفظ ”ضَالٌ“ کی مناسب تاویل کرتے ہوئے ”محبت میں ڈوبا ہونا“ کے معنی اور مراد میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضور اقدس جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”فَنَّا فِي اللّٰهِ“ کی اعلیٰ منزل پر متمکن تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں ”ضَالٌ“ یعنی خود رفتہ پایا تو ”فَہْدٰی“ یعنی اپنی طرف راہ دی یعنی معراج میں باعزت و تکریم بلا کر اپنے دیدار، حضور اور قرب سے بہرہ مند فرمایا۔

اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام عشق و محبت، امام اہلسنت اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام و المسلمین، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت کا جو ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ ذیل میں ہم اس آیت کا کنز الایمان سے ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

<b>”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی“</b>
⊙ = پارہ: ۳۰، سورہ الضحٰی، آیت: ۷ = ⊙
ترجمہ: ”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی“ (کنز الایمان)
تفسیر: ”اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیئے اور علوم مآکان و مَا يَكُوْنُ عطا کیئے۔ اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ اپنے نفس اور مراتب کی بھی خبر نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔

سالار اعظم“ (Commander Inchief) کی حیثیت سے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا تھا۔ اسلامی لشکر نے ملک شام میں عظیم فتوحات حاصل کیں اور ملک شام کے اہم مقامات ○ ارکہ ○ سخہ ○ حوران ○ بصری ○ بیت لہیا ○ اجنادین ○ دمشق ○ حصن ابی القدس ○ جوسیہ ○ حمص ○ شیرز ○ رستن ○ حمات ○ قسرین ○ بعلبک ○ یرموک اور ○ بیت المقدس (Jerusalem) کو فتح کر لیں۔ ان تمام مقامات کی فتوحات میں ”جنگ یرموک“ کی فتح اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے مرقوم ہے کیونکہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کے لشکر کی تعداد گیارہ لاکھ سے بھی زیادہ تھی جب کہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف پچاس ہزار کے قریب تھی لیکن اسلامی لشکر کے جاں باز اور کفن بردوش مجاہدوں نے رومی لشکر کو دن میں تارے دکھا دیئے۔ اسلامی لشکر سے کل پانچ ہزار پانچ سو (۵۵۰۰) مجاہدیں شہید ہوئے اور رومی لشکر کے تقریباً پانچ لاکھ سے بھی زائد سپاہی قتل ہوئے تھے۔

جنگ یرموک کی فتح عظیم سے پورے ملک شام پر اسلامی لشکر کا رعب اور دبدبہ چھا گیا اور ملک شام کے ہر شہر اور ہر قلعہ کا حاکم یقین کے درجہ میں جانے لگا کہ اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنا پارٹیچہ اطفال نہیں۔ لیکن ملک شام کے شہر ”حلب“ کے حاکم نے اسلامی لشکر کا بڑی دلیری و شجاعت سے مقابلہ کر کے اسلامی لشکر کو مشقت میں ڈال دیا۔ جنگ یرموک کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے ”حلب“ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔

قلعہ حلب کے حاکم کا تعارف اور اسلامی لشکر سے مقابلہ کی کیفیت :-

قلعہ حلب کے حاکم کا نام یوقنا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام ”یوحنا“ تھا۔ حاکم یوقنا اپنے بطریق والد کے نقش قدم پر چل کر سیاسی اور جنگی امور میں مہارت تامہ کا حامل تھا۔ وہ بذات خود بھی ایک دلیر، شجاع اور جنگ جو شہسوار تھا۔ جب کہ اس کا چھوٹا بھائی یوحنا نہایت نرم طبیعت کا عبادت گزار شخص تھا۔ سیاسی اور جنگی امور سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ دین نصرانیت

حضرت صدیق اکبر

(۲) امیر المؤمنین عمر بن خطاب بن نفیل یعنی حضرت عمر فاروق اعظم

(۳) امیر المؤمنین عثمان بن عفان بن العاص بن ابوامیہ بن عبد اللہ یعنی حضرت عثمان غنی

(۴) امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف یعنی حضرت مولیٰ علی مشکل کشا

(۵) حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح۔ لقب :- امین الامت

(۶) حضرت سعد بن ابی وقاص۔ لقب :- رجل صالح

(۷) حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو حضور اقدس کی نماز میں امامت کرنے کا شرف حاصل ہے۔

(۸) حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ لقب :- طلحہ الخیر۔ ایمان لانے والوں میں آٹھویں شخص ہیں۔

(۹) حضرت زبیر بن العوام۔ لقب :- حواری رسول۔ حضور اقدس کی پھوپھی حضرت صفیہ کے صاحبزادے

(۱۰) حضرت سعید بن زید۔ لقب :- سعید الفطرت۔ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی اور پچازاد بھائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وارضاهم عننا)

عشرہ مبشرہ کی مندرجہ بالا فہرست میں حضرت ابو عبیدہ کا اسم گرامی پانچواں ہے۔ آپ کا نام ”عامر بن جراح“ ہے لیکن آپ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس کی وجہ سے آپ اپنے نام کے بجائے ”امین الامت ابو عبیدہ“ کے نام سے ہی مشہور ہیں۔

خلفائے راشدین آپ کی حد درجہ تعظیم و توقیر کرتے تھے اور تمام صحابہ کرام آپ کی جلالت علم اور تفقہ فی الدین کے متفقہ طور پر قائل تھے۔

اسلامی لشکر کو ملک شام (Syria) فتح کرنے کے لئے امیر المؤمنین، اصدق الصدائین، امام المتقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روانہ فرمایا تو اس لشکر کے ”سپہ

کی تعداد میں لشکر کے مجاہدوں کو شہید کر دیا۔

المختصر! حاکم یوقنا نے اسلامی لشکر کو سخت مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ لیکن بالآخر اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

قارئین کرام سے التماس ہے کہ ہم ہمارے عنوان ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ آیت کے ترجمہ کے تعلق سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں مضمون کے اہم موڑ کی طرف بہت ہی قریب آچکے ہیں لہذا اب تمام توجہات ملتفت فرما کر مطالعہ فرمائیں۔

حاکم یوقنا پیدائشی رومی تھا۔ اسے صرف رومی زبان ہی آتی تھی۔ عربی زبان سے وہ بالکل نا آشنا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت ابو عبیدہ سے جنگ کے امور کے متعلق جب بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تب مترجم (Translator) کے توسط سے ہی گفتگو کی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلامی لشکر حلب قلعہ میں داخل ہوا اور حلب کے باشندوں نے امان مانگی تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو امان دے دی، جب حاکم یوقنا حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بجائے رومی زبان کے فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تعجب ہوا اور آپ نے حاکم یوقنا سے دریافت فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق تم عربی زبان نہیں جانتے ہو لیکن اچانک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا؟

حاکم یوقنا کو حضور اقدس نے خواب میں ہی عربی زبان کا علم عطا فرمادیا:

امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں حاکم یوقنا نے جو جواب دیا، اس جواب کو ہم امام ارباب سیر و تواریخ، ثقہ راوی، شیخ الاجل، امام العدل، علامہ محمد بن عمرو اقدی المعروف بہ ”علامہ واقدی“ کے الفاظ میں دیکھیں:-

”پس کہا یوقنا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ آیا تعجب کرتے ہو تم اے سردار اس حال سے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا ہاں۔ یوقنا نے کہا کہ میں شب گزشتہ کو فکر اور اندیشہ کرتا تھا کہ تمہارے کام میں کہ کیونکر مدد اور غلبہ لے

کا زبردست عالم اور راہب تھا۔ تمام وقت وہ کنیہ میں حاضر رہ کر توریت، انجیل اور دیگر کتب سماوی کی تلاوت و مطالعہ اور عبادت میں بسر کرتا تھا۔ اور وہی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔

جب اسلامی لشکر نے حلب کے قلعہ کا محاصرہ کیا، تو حاکم یوقنا نے اپنی فوج اور شہر کے تمام باشندوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے اسلامی لشکر کے مقابلہ کے لئے اکسایا لیکن راہب یوحنا نے اپنے بھائی حاکم یوقنا کو عربوں سے جنگ نہ کرنے کا اور ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے دونوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ راہب یوحنا نے اسلام کی صداقت اور حقانیت کا اظہار کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا لہذا حاکم یوقنا شمناک ہوا اور اس نے اپنے حقیقی بھائی حضرت یوحنا علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ جنگ حلب کا واقعہ بالتحصیل بیان کریں۔ ملک شام کی تمام جنگوں کے تفصیلی احوال کے لئے فقیر راقم الحروف کی کتاب ”سرکشاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب“ کا مطالعہ فرمائیں۔

حاکم یوقنا نے اپنے بھائی یوحنا کو شہید کرنے کے بعد اسلامی لشکر کا ایسا سخت مقابلہ کیا کہ پورے ملک شام میں کسی نے اسلامی لشکر سے ایسی نکر نہ لی تھی مثلاً:-

- ◎ کل ایک سو ستر سٹھ (۱۶۷) دن تک یوقنا نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا اور سخت جوابی کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید حملے کئے۔
- ◎ رات کے وقت سوئے ہوئے اسلامی لشکر پر چھاپہ مار کر مجاہدوں کو شہید و قید کرنا اور ان کا اسباب لوٹنا، وغیرہ قسم کی ترکیبیں کرتا تھا۔
- ◎ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ سے پچاس (۵۰) مجاہدوں کو قید کر کے لے گیا اور دوسرے دن قلعہ کی دیوار پر ان مجاہد قیدیوں کو چڑھایا اور اسلامی لشکر کے سامنے ان کو شہید کر دیا۔
- ◎ اسلامی لشکر کے لئے غلہ لینے گئے ہوئے قافلہ پر حملہ کر کے قافلہ کے سردار حضرت منادش بن ضحاک کو مع تیس (۳۰) مجاہدوں کے شہید کر کے تمام غلہ لوٹ لیا۔
- ◎ جنگ کے دوران حاکم یوقنا نے قلعہ کی دیوار سے سخت حملہ کر کے سینکڑوں

حاکم یوقنا نے مزید کہا: کہ میں نے ان کی ایک صفت یہ پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہلیوں کو وصیت فرمائے گا کہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد و اعانت کرو۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: کہ ہاں! اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں اس امر کا حکم فرمایا ہے:-

”وَ اَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“

(پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۲۱۵)

ترجمہ:- ”اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لئے۔“ (کنز الایمان)  
 پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:-

”الْمَ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ  
 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۖ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا  
 السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ“

(پارہ: ۳۰، سورۃ الضحیٰ، آیت: ۶ تا ۱۰)

ترجمہ:- ”کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی ۖ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی ۖ اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا ۖ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو ۖ اور منگنا کو نہ چھڑکو ۖ“ (کنز الایمان)

امین الامت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مذکورہ آیات تلاوت فرمائیں تو ان آیات میں سے ایک آیت ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ سماعت کر کے حاکم یوقنا کو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ اس آیت میں لفظ ”ضال“ کی وجہ سے انہیں اشتباہ ہوا اور لفظ ”ضال“ کے ظاہری لفظی معنی ”گمراہ“ نے ان کو شک و شبہ میں ڈال دیا اور وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ آیت میں وارد لفظ ”ضال“ کو اس کے ظاہری لفظی معنی پر محمول کرنے سے یہ آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لہذا انہوں نے اپنی حیرت اور شش و پنج کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے جو کہا وہ امام سیر و توارخ حضرت علامہ واقدی نے اپنی کتاب میں اس طرح

گئے تم لوگ ہم پر حالانکہ کوئی گروہ تم سے زیادہ ضعیف ہمارے نزدیک نہ تھا۔ پس جب دل میں ڈالا میں نے تمہارے معاملہ کو تو سو گیا میں۔ پس دیکھا میں نے ایک شخص کو روشن تر چاند سے۔ پس پوچھا میں نے کیفیت ان کی۔ پس کہا گیا مجھ سے کہ یہ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پس گویا میں سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ نبی صادق ہیں تو درخواست کریں اپنے پروردگار سے آگاہ اور تعلیم کر دیوے مجھ کو پروردگار ساتھ زبان عربی کے۔ پس گویا اشارہ فرماتے ہیں وہ میری طرف اور درخواست کی اپنے پروردگار سے اس امر کی۔ پس بیدار ہو گیا میں اس حال میں کہ زبان عربی میں کلام کرتا تھا۔“

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی علیہ الرحمہ)

مطبوعہ:- نولکشور، لکھنؤ، اردو ترجمہ، ص: ۳۲۸)

ہم نے علامہ واقدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب ”فتوح الشام“ کے اردو ترجمہ سے حرف بحرف حوالہ نقل کیا ہے۔ ایک سو (۱۰۰) سال پہلے کی اردو زبان کا طرز تحریر موجودہ جدید اردو سے متفرق ہے۔

### پھر کیا ہوا؟ حاکم یوقنا نے کیا کیا؟

حاکم یوقنا نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اپنے مرحوم بھائی یوحنا کے گھر گیا اور یوحنا کی کتابوں کا خزائن کھول کر آسمانی کتابوں، صحیفوں اور ملامح کو پڑھا۔ تو ان میں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ پائے اور ان کے وہ حالات مرقوم پائے جو رونما ہونے والے تھے۔ ان حالات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر دشمن یہودی ہوں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: ہاں! واقعی قوم یہود کے لوگ ان کی عداوت میں غلوا اور انتہا تک پہنچے تھے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو دشمنوں پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔



روایت فرمایا ہے کہ:-

”یوقنا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی نسبت صفت ضلالت کی کیون بیان کی ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں۔“

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، ص: ۳۲۸)

لغت میں لفظ ”ضال“ کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے حالانکہ لفظ ”ضال“ دیگر بہت سے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا استعمال گمراہ کے معنی میں ہوتا ہے لہذا حاکم حلب حضرت یوقنا (عبداللہ) کے ذہن نے یہ بات قبول نہ کی۔

اس آیت کا ترجمہ ظاہری معنی سے دیکھیں:-

”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“

ظاہری لفظی ترجمہ:- ”پایا آپ کو ”ضال“ پس ہدایت دی“

اس آیت کا آیات متشابہات میں سے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس آیت میں وارد لفظ ”ضال“ سے حضرت یوقنا جیسے نو مسلم کو بھی اشتباہ ہوا کہ نبی کریم، روف و رحیم، سرور عالم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی، ”ضال“ یعنی ”گمراہ“ نہیں ہو سکتے، لہذا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ”ضال“ سے کیوں کی ہے؟ حالانکہ حضور اقدس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے لہذا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن چونکہ اللہ کے مقدس کلام میں ہی ان کی نسبت صفت ”ضال“ سے کی گئی ہے لہذا اشتباہ پیدا ہوا ہے اور اس اشتباہ یعنی شک و شبہ کو دور کرنے اور آیت کی صحیح تفہیم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت میں لفظ ”ضال“ کی نسبت کیوں فرمائی ہے؟

حضرت ابو عبیدہ نے حضرت یوقنا کو جواب دیتے ہوئے اس آیت کا صحیح مفہوم اور جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ یقیناً ایمان افروز اور باطل سوز ہے، جس کو علامہ واقدی نے اس طرح

روایت فرمایا ہے کہ:-

”پس کہا ابو عبیدہ بن الجراح نے معاذ اللہ یہ معنی اس کے نہیں ہیں بلکہ معنی یہ ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي تَيْبِهِ مُحَبَّبَتْنَا فَهَدَيْنَاكَ إِلَىٰ مُشَاهَدَتِنَا وَآيْضًا سَهْلَ لَكَ الْوُصُولُ إِلَىٰ مَنَازِلِ الْمُكَاشَفَةِ وَوَقَفَكَ لِلْوُقُوفِ فِي مَقَامِ الْمُشَاهَدَةِ وَآيْضًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي بَحَارِ الطَّلَبِ عَلَىٰ مَرَائِبِ الطَّلَبِ فَأَوَكَ إِلَىٰ سَوَاجِلِ الْحَقِّ وَقَرَّبَكَ إِلَىٰ ظِلِّ حَقَائِقِ الصِّدْقِ“

◎ = حوالہ:- ”فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، اردو ترجمہ، ص: ۳۲۸ = ◎

ترجمہ:- ”اور پایا ہم نے تم کو جھکنے والا اپنی محبت کے جنگل میں پس سیدھی راہ بتلا دی ہم نے تم کو بجانب اپنے دیدار اور حضوری کے اور نیز آسان کر دیا ہم نے تمہارے واسطے پہونچنے کو بجانب مقامات کھل جانے چھپے ہوئے بھیدوں کے اور با سامان کر دیا ہم نے تم کو واسطے ٹھہرنے حضوری میں اور پایا ہم نے تم کو جستجو کے دریاؤں میں تلاش کی کشتیوں پر پس پناہ دی ہم نے تم کو اور پہونچا دیا بجانب کنارے ہر سزاوار اور راہ راست کے اور نزدیک کر دیا ہم نے تم کو بجانب سایہ اور پناہ حقیقتوں راستی کے۔“

(ترجمہ ماخوذ، از: حاشیہ، فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، ص: ۳۲۸)

ابن الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کی مندرجہ بالا ایمان افروز تفسیر سماعت کر کے حاکم حلب حضرت عبداللہ یوقنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شکوک کا ازالہ ہو گیا اور ان کو پورا اطمینان ہو گیا اور قلبی سکون و سرور حاصل ہوا۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا اور دل کی خوشی کے آثار چہرہ پر نمودار ہوئے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی تھی اس کا مضمون تو ریت شریف کے حاشیہ کے مضمون کے عین مطابق تھا۔ جس کو حاکم یوقنا نے اپنے مرحوم بھائی

کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے صحابہ کرام کے نقش قدم اختیار کر کے عظمت رسول کا اظہار کرتے ہوئے محبت آمیز ترجمہ کر کے راہ نجات و راہ خدا پائی ہے۔  
بقول حضرت رضا بریلوی:-

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا  
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے

تاریخ کے اوراق شاہد عادل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ولادت شریف سے لے کر ظاہری نبوت ملنے تک یعنی چالیس (۴۰) سال کی عمر شریف تک مکہ معظمہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ معاشرے میں کفر، شرک، چوری، زنا، جُور، جادوگری، شراب نوشی، سود خوری، ڈکیتی، قتل و غارتگری، جھوٹ و کذب گوئی، بہتان تراشی، دھوکہ بازی، بددیانتی، مکر و فریب دہی، وغیرہ جیسے افعال قبیحہ و رزیدہ عام تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک و منزہ رہے۔ ان میں کسی بھی کوئی برائی کا کوئی بھی فعل، کبھی بھی اور کسی طرح بھی آپ سے صادر نہیں ہوا بلکہ ان میں سے کسی بھی مکروہ فعل کی گرد بھی آپ کے دامن عصمت تک نہ پہنچی۔ آپ پیدائش سے لے کر بعثت تک ہمیشہ رُشد و ہدایت، توحید خالص اور اخلاص حسنہ کی اعلیٰ منزل پر متمکن رہتے ہوئے ان افعال قبیحہ سے تشرف اور بیزاری کا اظہار فرماتے رہے اور اپنے حلقہ کے لوگوں کو ان برے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کوئی شخص ”لات اور عزہ“ نام کے مشہور بتوں کی قسم کھا کر گفتگو کرتا تو آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اس شخص کو بت کی قسم کھانے سے منع فرماتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھانے کا حکم اور نصیحت فرماتے تھے۔ آپ پیدائشی ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن تھے۔ آپ نہ کبھی گمراہ تھے، نہ راہ اور شریعت سے بے خبر تھے اور نہ ہی کبھی بھٹکے ہوئے تھے۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھاپن اور بغض و عداوت رسول کا ترچھاپن ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور آیت کے ظاہری لفظی معنی سے غلط استدلال کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھٹکتا، راہ اور شریعت سے بے خبر کہتے اور لکھتے ہیں۔

حضرت یوحنا علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب میں پڑھا تھا۔ جس کا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان الفاظ میں اعتراف کیا۔ (علامہ واقدی کی زبانی):-  
”بس جب سنا یوقتا نے یہ کلام ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمکنے لگا چہرہ اُن کا خوشی سے اور کہا کہ ایسا ہی پڑھا تھا میں نے شب گزشتہ کو اپنے بھائی یوحنا کی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ پایا اُس نے اس مضمون کو توریت کے حاشیہ میں اور اب مضبوطی پکڑ لی تمہارے دین نے میرے دل میں اور جان لیا میں نے کہ یہی دین حق ہے۔“

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، اردو ترجمہ، ۳۲۹)

ناظرین کرام! ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کی جو تفسیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اس تفسیر کو پھر ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرمائیں بعدہ امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ترجمہ اس طرح ہے:-

”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔“ (کنز الایمان)

امام احمد رضا محدث بریلوی کا یہ ترجمہ گویا امین الامت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ امام احمد رضا کا یہ ترجمہ حضرت ابو عبیدہ کی تفسیر اور توریت شریف کے حاشیہ کے عین مطابق ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس کے ہر لفظ سے محبت و عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹپک رہی ہے۔ امام احمد رضا کے اس ترجمہ پر اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے اس ترجمہ کی امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر تائید فرما رہی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے فیض سے مستفیض ہو کر ان کی بیان فرمودہ تفسیر کو ماخذ اور مشعل راہ بنا کر جو ترجمہ کیا ہے وہ سو فیصدی راست و درست اور خطا و غلطی سے محفوظ ہے۔ منافقین زمانہ نے شیاطین الانس کا طریقہ اپنا کر، بارگاہ رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے اس آیت کا توہین آمیز ترجمہ کر کے گمراہ و بددین ہو کر راہ جہنم اختیار کی، جب

میرا یہ کرتہ والد محترم کے چہرہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔

القصة! حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتہ لے کر ان کے بھائی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ابھی سفر ہی میں تھے بلکہ کئی میل کی دوری پر تھے اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے ہی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی اور آپ نے اپنے پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا کہ:-

إِنِّي لَأَجِدْرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَنِّدُونُ

(پارہ: ۱۳، سورہ یوسف، آیت: ۹۴)

ترجمہ:- ”بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ (بہک) گیا ہے“ (کنز الایمان)

حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سن کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ لوگ تو اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہیں؟ ان کا تو انتقال ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں حضرت یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ان کی حیات میں جو محبت اور وارفتگی تھی، وہ ابھی تک برقرار ہے بلکہ ایسا ہی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی پرانی محبت اور وارفتگی سے متاثر ہو کر ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کو اپنی پرانی محبت اور وارفتگی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا مقولہ قرآن مجید میں اس طرح منقول ہے کہ:-

”قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ“

○ = پارہ: ۱۳، سورہ یوسف، آیت: ۹۵ = ○

ترجمہ:- ”بیٹے بولے، خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔“  
(کنز الایمان)

”ضال“ کا ترجمہ وارفتہ ہونے کی ایک مزید قرآنی شہادت:-

یہاں تک کا مطالعہ کرنے پر قارئین کرام کو یقین کے درجہ میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ سورۃ الضحٰی کی آیت شریف ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ میں وارد لفظ ”ضال“ کے معنی اور مراد ہرگز گمراہ کے نہیں بلکہ محبت میں خود رفتہ کے معنی میں ہے۔ حالانکہ اس ترجمہ کی تائید و توثیق میں قرآن و حدیث کے کثیر دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں، لیکن طول تحریر کے خوف سے صرف ایک مزید قرآنی شہادت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

☆ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے والد بے حد چاہتے تھے اس حسد کی بنا پر حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو ہلاک کر دینے کی غرض سے کنوئیں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلہ نے آپ کو کنوئیں سے نکالا، آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا، مصر کے بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیتی نے آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر (ریشمی کپڑا) قیمت چکا کر آپ کو خرید لیا۔ پھر آپ کے دامن عصمت پر جھوٹے الزام کے داغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ جس کے نتیجے میں آپ کو جیل خانہ میں کل بارہ (۱۲) سال تک رہنا پڑا۔ بارہ (۱۲) سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے ملک کے تمام علماء و حکماء عاجز رہے۔ جب اس کی تعبیر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی تو مصر کا بادشاہ آپ کا معتقد ہو گیا۔ آپ پر عائد کردہ جھوٹے الزامات سے آپ کی برأت ظاہر کی گئی۔ اور بادشاہ نے آپ کو اپنے اقارب و مصاحب میں عزت کا مقام دیا۔ رفتہ رفتہ آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے آپ کا میل ملاپ بھی ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حال دریافت فرمایا تو آپ کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کی جدائی اور فراق کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کرتہ اپنے بھائیوں کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ

## ”سورة الفتح اور سورة محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) میں وارد لفظ ”ذنب“ بمعنی گناہ نہیں“

اوراق سابقہ میں آیات تشابہات کے عنوان کے ضمن میں ہم نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۷ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:-

”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ“

ترجمہ:- ”وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی  
چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو“

دور حاضر کے منافقین اس آیت کریمہ کے سو فیصدی مضد اہل ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہمیشہ یہی وتیرہ اور شیوہ رہا ہے کہ آیات تشابہات کے پیچھے پڑنا یعنی آیات تشابہات کو بطور سند اور دلیل پیش کر کے گمراہی پھیلانے کا پہلو ڈھونڈنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ قرآن مجید کی تشابہات آیتیں انہیں مرغوب خاطر ہیں۔ گویا کہ وہ اس حقیقت کا بند لفظوں میں اعتراف و اظہار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۷ میں ”وہ جن کے دلوں میں کجی“ ہے کا جو ذکر ہے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہم ہیں۔ کیونکہ وہ ہر جگہ آیات تشابہات کو دلیل بنا کر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی شان و وقار گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ الضحیٰ کی آیت ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“ جس کی تفصیلی وضاحت ابھی ابھی ہم نے پیش خدمت کی ہے۔

اسی طرح ذیل میں مرقوم قرآن مجید کی دو مقدس آیات کریمہ کو منافقین زمانہ توہین

اس آیت میں بھی لفظ ”ضلال“ وارد ہے لیکن یہاں یہ لفظ گمراہیت کے معنی میں نہیں ہے۔ ہم نے اس آیت شریف کے قبل بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ ناظرین کرام پورے واقعہ سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ کس معاملہ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ موضوع سخن کیا ہے؟ اور کس امر کے ضمن میں یہ جملہ کہا گیا ہے؟ تاکہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے آگہی ہو سکے اور آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آسکے۔ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دلی محبت، قلبی لگاؤ اور محبت کی وارفتگی کی وجہ سے ہی ”جسم پسر“ کی خوشبو محسوس کی تھی اور فرمایا تھا کہ ”میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں“۔ اور ان کے اس محبت بھرے جملے اور جذبہ وارفتگی کو وجہ بنا کر حضرت یعقوب کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا تھا کہ ”إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ“ یعنی ”آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں“۔ یہاں ”ضلال“ کا ترجمہ گمراہی کرنا ہرگز صحیح نہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے فرزندوں نے کسی اعتقاد فاسدہ یا ارتکاب قبیحہ کی وجہ سے ”ضلال“ نہیں کہا تھا بلکہ ایک شفیق و محبت باپ کی اپنے لخت جگر کے ساتھ بے انتہا محبت کی وجہ سے کہا تھا۔ لہذا یہاں ”ضلال“ بمعنی ”وارفتہ“ اور ”ضلال“ بمعنی ”وارفتگی“ ہی مستعمل ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ الضحیٰ کی آیت کریمہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“ میں وارد لفظ ”ضلال“ بھی ہرگز ہرگز ”گمراہ“ یا ”بھٹکتا“ یا ”راہ سے بے خبر“ کے معنی میں نہیں بلکہ ”اپنی محبت میں خود رفتہ“ کے ہی معنی میں لازمًا ماننا پڑے گا۔

تفصیلی وضاحت قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ارقام کریں لیکن سورہ والضحیٰ کی آیت کی قدرے طویل وضاحت ہو جانے کی وجہ سے نیز ہمارے اس مقالہ کا جو عنوان یعنی ”بشر“ اس کے ضمن میں سورہ الکہف اور سورہ حم سجدہ کی آیت ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے تعلق سے ابھی کچھ لکھنا باقی ہے۔ لہذا مندرجہ بالا دونوں آیتوں کے تعلق سے بہت ہی اختصاراً وضاحت پیش خدمت ہے۔ ہم اپنی اس کوتاہی پر محترم قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جامع اور مانع کلام ہے کہ ہر کس و ناکس میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے وسیع پیمانہ پر علم و حکمت درکار ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں سے افضل، ممتاز، فصیح، بلیغ، اور کثیر المعنی الفاظ و لغت کی حامل ہے۔ عربی زبان کی بے مثال وسعت کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا کہ اس میں ایک چیز کے بہت سے نام اور بہت سی لغات پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی مفہوم کو سینکڑوں عنوانات اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک ہی لفظ کے متعدد معنی اور مطلب ہوتے ہیں اور کون سا لفظ کس معنی و مراد میں استعمال ہوا ہے اسی پر جملہ کی صحیح تفہیم کا دار و مدار ہے۔ مثلاً:-

- جملہ کی بندش و ترکیب باعتبار اصطلاح نحو اور الفاظ کا ربط اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟
- جملہ کے الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اور ان دونوں معنوں میں کیا فرق ہے؟
- جملہ کا پچھلے اور اگلے جملہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟
- جملہ کے کلموں کی نوعیت اور وجہ تکلم کیا ہے؟
- جملہ استفہامیہ ہے؟ خبریہ ہے؟ شرطیہ ہے؟ صفتیہ ہے؟ فعلیہ ہے؟ معترضہ ہے؟ معطوفہ ہے؟ معلکہ ہے؟ مستانفہ ہے یا انشائیہ؟
- جملہ کا بطور محاورہ، مثل یا مثال استعمال ہوا ہے یا نہیں؟
- جملہ میں وارد تمام الفاظ میں سے وہ اہم لفظ کہ جس لفظ کی صحیح تفہیم اور مراد پر پورے

و تنقیص رسالت کی غرض فاسد سے اکثر پیش کرتے ہیں۔

**آیت نمبر ۱:-** ”وَاسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“

(پارہ: ۲۶، سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آیت: ۱۹)

ترجمہ از منافقین زمانہ:- ”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے۔“

(حوالہ:- ترجمہ قرآن، ترجمہ از:- مولوی محمود الحسن دیوبندی۔ صدر المدرسین

دارالعلوم دیوبند اور مولوی اشرف علی تھانوی کے استاذ)

**آیت نمبر ۲:-** ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“

(پارہ: ۲۶، سورہ الفتح، آیت: ۲)

ترجمہ از منافقین زمانہ:-

(۱) ”تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے“

(حوالہ:- ترجمہ قرآن، ترجمہ از:- مولوی اشرف علی تھانوی)

(۲) ”تا کہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے“

(حوالہ:- ترجمہ قرآن، ترجمہ از:- مولوی محمود الحسن دیوبندی)

منافقین زمانہ کے دو پیشواؤں کے تراجم جو ہم نے نقل کیے ہیں ان میں لفظ ”ذنب“ کا لفظی ظاہری ترجمہ ”گناہ“ اور ”خطا“ اخذ کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ”گناہ“ اور ”خطا“ کی نسبت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ حضور اکرم سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ”خطا“ اور ”گناہ“ سرزد ہوئے تھے۔ منافقین زمانہ کے پیشوا و علماء ہی نہیں بلکہ ان کی جماعت کا جاہل بلکہ اجہل مبلغ بھی ان آیات متشابہات کو بطور دلیل و سند پیش کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سخت گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ ایسے ایسے نازیبا اور رذیل جملے بولتا ہے کہ جن کو یہاں نقل کرتے ہوئے قلم بھی لرزہ برانداز ہو جاتا ہے۔

ارادہ تو یہ تھا کہ آیت شریف ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کی طرح ان دونوں آیات کی

مہمہ، مفہومہ وغیرہ کا فرق کرنا۔ علاوہ ازیں ایجاز، اطناب، حصر، مبتدا، خبر، کنایہ، تعریض، حقیقت، مجاز، انشاء، اختصار سے بھی آگہی رکھنا اشد ضروری ہے، ورنہ قرآن کا صحیح مفہوم معلوم نہ ہو سکے گا اور مغالطہ ہوگا۔

مندرجہ بالا اصول جو ہم نے جملہ کے تعلق سے ارقام کیئے ہیں، ان میں نحوی اصطلاح کے الفاظ جو قارئین کو ثقیل الفہم محسوس ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کی سمجھ میں نہ آئیں، لہذا ذیل میں ”حل لغت“ کے کالم میں ان دقیق و مشکل الفاظ کے معنی پیش خدمت کرتے ہیں:-

- جملہ کے مفہوم کا انحصار ہے، وہ لفظ حقیقۃً استعمال ہوا ہے یا مجازاً؟
- جملہ میں کسی فرد یا شئی کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بطور تشبیہ ہے؟ یا استعارہ ہے؟ اور اگر بطور استعارہ ہے تو استعارہ بالتصریح ہے یا استعارہ بالکنایہ ہے؟
- جملہ کے تکلم کی وجہ تشبیہ کرنا ہے؟ بشارت دینا ہے؟ وعید سنانا ہے؟ یا یہ جملہ بطور زجر یا توبیخ ہے؟ یا اظہار حقیقت کے لئے ہے؟ یا تلمیح ہے؟
- جملہ بطور طنز کہا گیا ہے؟ امر و نہی کی بنا پر کہا گیا ہے؟ یا تادیباً و تعلیماً کہا گیا ہے؟
- اگر جملہ امر و نہی کی بناء پر کہا گیا ہے تو اس کا حکم مخصوص ہے یا عام؟
- متکلم کا لب و لہجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی مراد کا اندازہ لگایا جاسکے کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟
- متکلم اور مخاطب کے درمیان کیا رشتہ یا تعلق ہے؟
- متکلم کی علمی، ادبی، خاندانی، ثروتی، سیاسی، مذہبی، اقتداری، تسلطی، اخلاقی حیثیت اور اس کا ہر پہلو سے کیا رویہ ہے؟
- مخاطب کی بھی مذکورہ کیا حیثیت اور رویہ ہے؟
- جملہ سے مخاطب کو رشد و ہدایت، پند و نصیحت، مشورہ یا وصیت مراد ہے؟ یا اور کچھ؟
- جملہ سے مخاطب کی تکریم مراد ہے یا تذلیل؟
- اگر تکریم مراد ہے تو صرف اظہار اہمیت مراد ہے یا ارتقاع درجات؟
- اگر تذلیل مراد ہے تو تذلیل خفیف بارادۃ اصلاح مراد ہے یا تذلیل شدید برائے انقطاع تعلق اور ذلیل و خوار کر کے مردود بارگاہ کرنا مراد ہے؟

مندرجہ بالا چند اصول و ضوابط انسانوں کے درمیان آپس میں بولی جانے کی لغت کو مد نظر رکھ متعین کیئے گئے ہیں۔ جو اہل عرب میں عربی زبان کے ادب کے تحت رائج ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات کے کلمے اور الفاظ کو اس کے صحیح معنی، مطلب اور مراد میں سمجھنے کی نوبت پیش آئے گی، تب چند قیود اور ضوابط کا اضافہ ہو جائے گا۔ مثلاً قرآن کی آیت محکمہ، متشابہ، مقدمہ، مؤخرہ، عامہ، خاصہ، مجملہ، مبینہ، ناسخہ، منسوخہ، مطلقہ، منطوفہ،

۹	تَادِيْبًا	ادب سکھانا، علم زبان سکھانا، =Chastisement=
۱۰	تَزْكِيْب	علم نحو کی اصطلاح میں جملے کے ہر لفظ کے متعلق بتانا کہ وہ اسم، صفت، فعل وغیرہ ہے اور ان کا باہمی تعلق
۱۱	تَذْلِيْل	ذلیل و رسوا کرنا، خوار کرنا، بے عزت کرنا، ذلت
۱۲	تَعْرِِيْضُ	چھیڑنا، کنائے سے بات کرنا، اعتراض
۱۳	تَكْلَمٌ	بات کرنا، بولنا، کلام کرنا، گفتگو، بات چیت
۱۴	تَكْرِيْم	عزت کرنا، تعظیم کرنا، ادب کرنا، =Honouring=
۱۵	تَشْبِيْه	مشابہت دنیا، تمثیل، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا
۱۶	تَلْمِيْح	کلام میں کسی گزشتہ قصہ کی طرف اشارہ کرنا
۱۷	تَوْبِيْح	ملامت، جھڑکی، سرزنش، طنز
۱۸	جُمْلَهٗ اِسْتَفْهَامِيَه	وہ جملہ جس میں سوال پایا جائے۔
۱۹	جُمْلَهٗ اِنْشَائِيَه	علم نحو کی اصطلاح میں وہ جملہ جس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہ ہو
۲۰	جُمْلَهٗ شَرْطِيَه	وہ جملہ جو شرط اور جزا سے مل کر پورا ہو۔

## ”حل لغت“

نمبر	دقیق الفاظ	معنی اور وضاحت
۱	اِصْطِلَاحٌ	کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا، مرادی معنی = Conventional =
۲	اِسْتِعَارَهٗ	علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کے مجازی اور حقیقت معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حروف تشبیہ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ =Metaphorical=
۳	اِسْتِعَارَهٗ بِالتَّصْرِيْحِ	اگر مشبہ بہ معنی جس کے لئے تشبیہ دی گئی ہے اس کا ذکر کریں اور مشبہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو چھوڑ دیں یا مضاف یعنی منسوب کا ذکر کریں اور مضاف الیہ یعنی جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا ذکر ترک کرنا۔
۴	اِسْتِعَارَهٗ بِالْكِنَايَهٗ	مشبہ بہ کو چھوڑ کر صرف مشبہ کا ذکر کرنا۔
۵	اِطْنَابٌ	بات کو طول دینا۔ = Lengthen One's Discourses =
۶	اَمْرٌ وَنَهْيٌ	حکم کرنا اور ممانعت کرنا = Order and Prohibition =
۷	اِنْقِطَاعُ تَعَلُّقٍ	تعلق ختم کرنا، رشتہ کاٹنا، تعلق توڑنا۔ =Cut off Relationship=
۸	اِيجَاژٌ	بات کو مختصر کرنا، کم لفظوں میں زیادہ مضمون بیان کرنا =Abridging=

۳۱	مَجَازاً	وہ جس کی حقیقت نہ ہو، کسی کلمہ کے غیر حقیقی معنی کو اصلی معنوں کے ساتھ نسبت کرنا، فرضی، فرض کیا ہوا، مرادی =Hyperbolical=
۳۲	نَحْوُ	وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنا، توڑنا، اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہو۔ جملوں کا علم =Syntax=
۳۳	وَعَيْدٌ	سزا دینے کی دھمکی، سزا دینے کا وعدہ =Threatening, Predicting=
۳۴	كِنَايَةٌ	ایما، رمز، اشارہ، مبہم بات =being Ambiguous in Speech=
۳۵	آيَةٌ مُّقَدِّمَةٌ	وہ آیت جو پہلے نازل ہوئی یا جو مضمون کے شروع میں آئے =Preface=
۳۶	آيَةٌ مُّؤَخَّرَةٌ	جو بعد میں نازل ہو یا جس کا ذکر بعد میں آئے =Posterior, Delayed=
۳۷	آيَةٌ مُّجْمَلَةٌ	وہ آیت جس کے معنی تفصیل کے محتاج ہوں۔ =Alleged=
۳۸	آيَةٌ مُّبَيِّنَةٌ	جو صاف اور کھول کر بیان کی گئی ہو۔ مطلب ظاہر ہو۔ =Alleged=
۳۹	آيَةٌ مَّنْسُوخَةٌ	جس کا حکم واپس لے لیا گیا ہو، رد کر دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، نابود کر دیا گیا ہو، ترک کر دیا گیا ہو =Cancelled, Obliterated=
۴۰	آيَةٌ نَّاسِخَةٌ	وہ آیت جس کی وجہ سے کسی آیت یا آیتوں کا حکم رد کر دیا گیا ہو۔ منسوخ کرنے والی، رد کرنے والی =an amanuensis=

۲۱	جُمْلَةٌ صِفَتِيَّةٌ	وہ جملہ جس میں کسی کی صفت بیان کی گئی ہو۔ =Attribute=
۲۲	جُمْلَةٌ مُّسْتَأْنِفَةٌ	وہ مستقل جملہ جس کو سابقہ جملہ سے معناتاً تو ربط ہو مگر لفظاً کچھ بھی تعلق نہ ہو۔ =Obedient Sentence=
۲۳	جُمْلَةٌ مُّعْتَرِضَةٌ	وہ زائد فقرہ یا بات جسے ہٹا دینے سے مطلب میں کوئی فرق نہ آئے یعنی ابھی ایک بات پوری نہ ہوئی تھی کہ دوسرا جملہ درمیان میں بول دیا جائے اور وہ جملہ ایسا ہو کہ نہ بولیں تو بھی کلام میں خلل نہ پڑے۔
۲۴	جُمْلَةٌ مَّعْطُوفَةٌ	وہ جملہ جو حرف عطف کے بعد واقع ہو =Conjoined Sentence=
۲۵	حَصْرٌ	گھیرنا، احاطہ کرنا، منحصر کرنا =Siege=
۲۶	رَبْطٌ	بندش، احاطہ کرنا، منحصر کرنا =Connection=
۲۷	زَجْرٌ	ڈانٹ ڈپٹ، دھمکی، تنبیہ، جھڑکی، روک، ملامت، =Threatening=
۲۸	مُتَكَلِّمٌ	کلام کرنے والا، بات کرنے والا = a speaker, Declaimer=
۲۹	مُخَاطَبٌ	جس سے خطاب کیا جائے، جس سے بات کی جائے۔ =Called, Entitled=
۳۰	مُبْتَدَأٌ	علم نحو کی اصطلاح جملہ اسمیہ کا پہلا جز، جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے۔



مندرجہ مذکورہ تعداد صرف دو تین، چار اور پانچ حرفی الفاظ کی ہے، پانچ حروف سے زیادہ حروف والے الفاظ کی تعداد کا اس میں اضافہ کرنے سے یہ تعداد بہت ہی وسیع ہو جائے گی۔

☆ تیر، تلوار، نیزہ، شیر، اونٹ، بکری، سانپ، صبح و شام، آفت، مصیبت، وغیرہ الفاظ کہ جن کا ذکر کلام و گفتگو میں بار بار آتا ہے، ان تمام کے لئے ایک ایک لفظ کے اتنے وسیع پیمانہ پر پھیلے ہوئے لغت ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ابن خالویہ کہ جن کا شمار عربی لغت کے ماہرین فن میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عربی لغت سے شہر (City) کے لئے پانچ سو نام جمع کئے ہیں، اور سانپ (Snake) کے دو سو (۲۰۰) نام تجویز کر کے جمع کئے ہیں۔ عربی لغت کے ایک اور ماہر فن حمزہ اصہبانی کا کہنا ہے کہ میں نے آفت اور مصیبت کے لئے موزوں ہوں ایسے کل چار سو (۴۰۰) نام لغت عرب سے جمع کئے ہیں۔ (حوالہ:- ”المعجم“ ص: ۱۳)

☆ عربی لغت کے مشہور عالم اور رئیس ارباب فن لغت ”صاحب بن عباد“ کا واقعہ منقول ہے کہ ان کو کسی بادشاہ نے اپنے یہاں طلب کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے فن لغت کی کتابیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں یہاں سے منتقل ہو کر کہیں جاؤں تو مجھے ساٹھ (۶۰) اونٹ اپنی فن لغت کی کتابیں منتقل کرنے کے لئے چاہئیں۔ (حوالہ:- ”المعجم“ ص: ۱۴)

یہاں تک ہم نے صرف عربی لغت کے متعلق گفتگو کی لیکن دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اُردو زبان کی ہی مثال لیجئے۔ اُردو زبان میں بھی یہ خصوصیت کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس کا ایک لفظ کئی معنوں کا حامل ہوتا ہے۔ مثلاً:-

☆ رنگ = (۱) برن (۲) لون (۳) رنگت (۴) روپ (۵) انداز (۶) طرز (۷) روشن (۸) قسم (۹) نوع (۱۰) روغن (۱۱) بہار (۱۲) خوبصورتی (۱۳) رونق (۱۴) مانند (۱۵) نظیر (۱۶) دستور (۱۷) قاعدہ (۱۸) رسم (۱۹) طریقہ (۲۰) مزہ (۲۱) لطف (۲۲) شغل (۲۳) خمار (۲۴) نشہ (۲۵) طاقت (۲۶) قوت (۲۷) سلوک (۲۸) برتاؤ (۲۹) ہمسر (۳۰) جوڑ (۳۱) مکر (۳۲) فریب (۳۳) حیلہ

۴۱	آیۃ مُطْلَقَة	وہ آیت جو مقید نہ ہو جس کا حکم مطلق ہو =Liberated=
۴۲	آیۃ مَفْهُومَة	وہ آیت جو اچھی طرح سمجھ میں آسکے، جس کا معنی، مطلب، ارادہ مراد، اور مفہوم آسانی سے معلوم ہو سکے۔
		=Linderstood=
۴۳	آیۃ مُبْہَمَة	جس کا مطلب صاف نہ ہو، وضاحت ضروری ہو۔
		=Ambiguous, Equivocal=

### عربی زبان کی لغت کے متعلق :-

دنیا کی کسی بھی زبان کی لغت (Dictionary) عربی زبان کی طرح بے مثال وسعت کی حامل نہیں۔ عربی لغت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے کئی الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی زبان کی لغت اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے کہ عقلیں حیران ہیں۔ قارئین کرام کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف ایک معنی میں اتنی کثیر تعداد الفاظ وارد ہیں کہ صرف ایک معنی کے متفرق الفاظ سے ہی ایک مستقل کتاب طبع زاد کی جاسکتی ہے اور اس قسم کی سینکڑوں کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:-

☆ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی اپنی کتاب ”مزہر“ میں اور علامہ زبیدی ”مختصر کتاب الخلیل“ میں فرماتے ہیں:-

○ دو حرفی عربی لغت کی تعداد..... 750 (سات سو پچاس) ہے۔

○ تین حرفی عربی لغت کی تعداد..... 19,650 (انیس ہزار، چھ سو پچاس) ہے۔

○ چار حرفی عربی لغت کی تعداد..... 3,03,400 (تین لاکھ، تین ہزار، چار سو) ہے

○ پانچ حرفی عربی لغت کی تعداد..... 6,03,75,600 (چھ کروڑ، تین لاکھ، چھتر ہزار چھ سو) ہے۔

کے مطابق یہ دونوں آیتیں ”مُتَشَابِهَات“ سے ہیں، جن کی مناسب تاویل کرنی ضروری اور لازمی ہے۔ ان آیات کے الفاظ کے ظاہری لفظی معنوں کو ہرگز دلیل نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ ”ذَنْبٌ“ کے کئی دیگر معنی بھی ہیں۔

لغت عربی کی مشہور کتاب ”المخبر“ کے ص: ۲۵۶ پر لفظ ”ذَنْبٌ“ کے معنی ”دُم“ کے وارد ہیں۔ علاوہ ازیں ”ذَنْبٌ“ مصدر سے مشتق لفظ ”الذَّنَابَةُ“ کے معنی ”قربت“ کے لکھے ہوئے ہیں۔ عام عربی بول چال میں لفظ ”ذَنْبٌ“ کا استعمال گناہ اور خطا کے علاوہ دُم، قربت، وغیرہ معنی میں ہوتا ہے۔ مثلاً:-

(۱) ذَنْبُ الْكَلْبِ = کتے کی دُم

(۲) ذَنْبَابَةُ الْيَزِيدِ = زید کے قربت والے

”ذَنْبٌ“ کے دیگر معنوں میں ① اتباع کرنے والا یعنی تبع ② پیروی کرنے والا Follower ③ ذریت یعنی اولاد اور نسل ④ بعد میں آنے والا وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔

”دُم“ کو ”ذَنْبٌ“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جانور کی دُم اس کے جسم کی تابع ہوتی ہے۔ جہاں جسم جائے گا، اس کی پیروی کرتے ہوئے دُم بھی جائے گی۔ علاوہ ازیں دُم جسم کے بعد جائے گی۔ پہلے جسم جائے گا بعد میں دُم جائے گی۔ اسی طرح قربت، ذریت، اولاد اور نسل کو ”ذَنْبٌ“ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کی اولاد اور نسل اس کے بعد ہوتی ہے۔ ہر شخص مقدم یعنی پہلے ہوتا ہے اور اس کی اولاد و نسل مؤخر یعنی بعد میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے یعنی اُمّتی کو بھی اسی وجہ پر محمول کر کے ”ذَنْبٌ“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو متبوع ہوتا ہے یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ پہلے کسی امر پر عمل کرتا ہے اور تبع یعنی تابع یعنی پیروی کرنے والا متبوع کی متابعت میں بعد میں عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نماز فرض کی گئی تو سب سے پہلے حضور اقدس، سید المعصومین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پھر آپ کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نماز پڑھی۔ المختصر! دونوں آیات میں وارد لفظ ”ذَنْبٌ“ کا ترجمہ ”گناہ“ یا ”خطا“ نہیں ہے۔ بلکہ:-

❖ ”وَاسْتَعْفِرْ لِدُنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“

(۳۴) ہنسی (۳۵) مذاق (۳۶) کھیل کود (۳۷) ناچ (۳۸) راگ (۳۹) گانا (۴۰) کیفیت (۴۱) حالت (۴۲) حال (۴۳) خوشی (۴۴) خوشحالی (۴۵) مسرت (۴۶) تماشا (۴۷) سماں (۴۸) گنجے کی آٹھوں بازیوں کے نام (۴۹) تاش کی چاروں بازیوں کے نام (۵۰) خون (۵۱) لہو (۵۲) ترب Troop یعنی ساٹھ یا ستر سواریوں کی جماعت (۵۳) ٹرُمپ Trump یعنی تاش میں انگ مقرر کر کے کھیلنا۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۷۲۰)

جب اُردو زبان میں ایک لفظ کے پچاس سے زائد معنی ہو سکتے ہیں تو عربی زبان تو باعتبار لغت تمام زبانوں سے فصیح و بلیغ اور کثیر المعنی لغت کی حامل ہے۔ جیسا کہ اوپر کے فقرہ میں عرض کیا ہے کہ ”شہر“ کے لئے پانچ سو (۵۰۰) اور ”سانپ“ کیلئے دو سو (۲۰۰) اور ”آفت“ کیلئے چار سو (۴۰۰) نام لغت عرب میں وارد ہیں۔ ہم نے اُردو زبان کے لفظ ”رنگ“ کے لغت سے پچاس سے بھی زائد معنی پیش کئے ہیں۔ اگر طول تحریر کا خوف نہ ہوتا تو ہم لفظ ”رنگ“ کو پچاس الگ الگ معنوں میں استعمال کر کے بطور مثال پچاس جملے لکھ دیتے۔

### لغت کے تعلق سے کی گئی گفتگو کا ماحصل :-

دُنیا کی ہرزبان کی لغت میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہونے کی خصوصیت ہے۔ کسی لفظ کو ہر جگہ صرف ایک ہی معنی میں استعمال کرنے سے بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی۔ کسی لفظ کو ہر جگہ صرف ایک ہی معنی میں وہی استعمال کرے گا۔ جو علم ادب سے نا آشنا اور فن لغت سے نرا جاہل ہوگا۔ اہل عرب کی روزمرہ بولی جانے والی عربی زبان کی لغت کی وسعت سے جب ہم متحیر ہیں بلکہ ہماری عقلیں بھی دنگ ہیں تو پھر قرآن مجید کی عربی زبان کی لغت کا کیا عالم ہوگا؟ اب ہم ہمارے موضوع سخن کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔

سورہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی آیت نمبر ۱۹، اور سورہ الفتح کی آیت ۲، میں جو لفظ ”ذَنْبٌ“ وارد ہے اس کا منافقین زمانہ ”گناہ“ اور ”خطا“ معنی اخذ کرتے ہیں اور آیت کا ترجمہ تو بہن و تنقیص رسول پر مشتمل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین عظام کی اصطلاح

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید کی سورۃ النجم، آیت: ۲، میں صاف ارشاد ہے کہ:-

”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“

ترجمہ:- ”تمہارے صاحب نہ بہکے، نہ بے راہ چلے۔“ (کنز الایمان)

یعنی آپ کی ذات گرامی نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے۔ یہ کسی کے گھر کی بات نہیں بلکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ گناہ اور خطا کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے پاس سورۃ النجم کی اس آیت کا کیا جواب ہے؟

### ایک ضروری نکتہ:-

سورۃ الفتح کی مذکورہ آیت کے ترجمہ میں ہم نے منافقین زمانہ کے دو پیشواؤں (۱) مولوی اشرف علی تھانوی اور (۲) مولوی محمود الحسن دیوبندی کے تراجم پیش کئے۔ ان تراجم میں حضور اقدس سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ایسا لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ آپ کی:-“

”اگلی پچھلی خطائیں اور وہ گناہ معاف کرے جو آگے ہو چکے اور جو پیچھے رہے۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔

مندرجہ بالا تراجم کے رد و ابطال میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ اسی موضوع پر ہی ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے لیکن ہماری اس کتاب کا موضوع ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کریمہ کی وضاحت اور تشریح کرنا ہے، کچھ وضاحت ہو چکی ہے اور ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے لہذا سورۃ الفتح کی آیت کریمہ ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کا منافقین زمانہ کے پیشواؤں نے جو تراجم کئے ہیں اس کے تعلق سے بالتفصیل تبصرہ نہ کرتے ہوئے اجمالاً اور کنائیہ کچھ اہم نکات کی طرف قارئین کرام کو توجہ دلاتے ہیں۔ اہل ذوق اور اہل علم حضرات ان نکات کے ذریعہ وسیع اور مفصل وضاحت و تشریح کر کے منافقین زمانہ کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔

(سورۃ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)، آیت: ۱۹)

ترجمہ ایمانی:- ”اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو“ (کنز الایمان)

”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“

(سورۃ الفتح، آیت: ۲)

ترجمہ ایمانی:- ”تا کہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”اور تمہاری بدولت اُمت کی مغفرت فرمائے۔ (تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان، بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۲۰)

امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے مندرجہ بالا دونوں آیات مقدسہ کے ایسے ایمان افروز تراجم فرمائے ہیں کہ ایمان تازہ ہونے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی بھی مخالفت و خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ مطابقت و موافقت ہوتی ہے۔ منافقین زمانہ نے ان دونوں آیات کے علی الترتیب مندرجہ ذیل تراجم کئے ہیں:-

(۱) ”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے“

(ترجمہ از:- مولوی محمود الحسن، دیوبندی)

(۲) ”تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے“

(ترجمہ:- مولوی اشرف علی تھانوی)

مندرجہ بالا دونوں ترجموں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ”گناہ“ اور ”خطا“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جو قرآن مجید کے ارشاد کے سراسر خلاف ہے کیونکہ:-

”گناہ“ اور ”خطا“ اُسی سے سرزد ہوتے ہیں جو راہ سے بہک کر بے راہ چلتا ہے۔ سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر قائم رہنے والے یعنی انبیائے معصومین سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ راہ سے بہکتے نہیں اور بے راہ چلتے نہیں۔ رہے وہ لوگ جن سے گناہ واقع ہوتے ہیں جو راہ حق سے بہکتے ہیں اور بے راہ بھی چلتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

- سے تھے؟ ان کی وجہ سے کن کن کی حق تلفی ہوئی تھی؟
- ◎ عقائد کا مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام اور تمام فرشتے معصوم ہیں؟ تو کیا معصوم سے گناہ اور خطا کا صادر ہونا ممکن ہے؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کی طرف گناہ اور خطا کی نسبت کرنا کیسا ہے؟
- ◎ گنہگار اور خطا وار کو معصوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟
- اگر منافقین زمانہ میں دم خم اور غیرت وحمیت ہے تو مندرجہ گیارہ (۱۱) سوالات کا قرآن اور حدیث صحیحہ معتمدہ سے جواب دیں۔

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ان سوالات میں نمبر چار کا جو سوال ہے، وہ ایک سوال ہی منافقین زمانہ کو دم ہونٹوں پر آنے کے لئے کافی ہے کیونکہ اگلی خطا سے ماضی کی خطا مراد لی جاتی ہے اور پچھلی خطا اور پیچھے رہنے والے گناہ سے مستقبل (Futuer) کے گناہ مراد لئے جاتے ہیں۔ جب منافقین زمانہ کے اعتقادِ فاسد کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے اور اللہ نے وہ گناہ معاف فرمادیئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ماضی کے گناہ تھے۔ تو اب مولوی اشرف علی تھانوی کے استاذ صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب کے ترجمہ کے الفاظ ”جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔“ میں جو ”پیچھے رہے“ کا جملہ ہے۔ اس کا مطلب زمانہ مستقبل کے گناہ ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے اس گناہ پر مواخذہ ہے یا وہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ جو ”آگے ہو چکے“ یعنی زمانہ ماضی میں ہو چکے اور جو گناہ ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے بلکہ بقول مولوی محمود الحسن دیوبندی ”جو پیچھے رہے“ یعنی ہوئے نہیں بلکہ ہوں گے۔ تو ان گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو مقدم (Advance) ذکر کرنا اور ان کو معاف کرنے کی نوازش کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ علاوہ ازیں مولوی محمود الحسن دیوبندی نے جس کا ترجمہ ”جو پیچھے رہے“ کیا ہے وہ آیت کا جز ”وَمَا تَأْخُرُ“ ہے۔ اور یہ مطلق ہے یعنی کسی خاص مدت اور میعاد تک کے لئے مقید نہیں کیا گیا اور

- ◎ منافقین زمانہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ سورۃ الفتح کی آیت کے ترجمہ میں ”اگلی اور پچھلی خطائیں“ اور ”آگے ہو چکنے والے اور پیچھے رہنے والے گناہ“ سے تمہاری مراد کیا ہے؟
- ◎ آگے ہو چکنے والی خطائیں اور گناہ“ یہ جملہ اس بات کی دلالت کرتا ہے خطا اور گناہ صرف ایک مرتبہ صادر نہیں ہوئے بلکہ کئی مرتبہ ہوئے ہیں، کیونکہ تم نے ترجمہ میں ”خطا“ کے بجائے ”خطائیں“ اور ”تیرا گناہ“ کے بجائے ”تیرے گناہ“ کے الفاظ لکھے ہیں اور ”خطائیں“ اور ”تیرے گناہ“ یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ کیا تم ان خطاؤں اور گناہوں کا شمار کر سکتے ہو؟
- ◎ اگلی خطاؤں اور گناہوں سے تمہاری مراد بعثت یعنی ظاہری نبوت ملنے کے وقت کے پہلے کے ہیں؟ یا ہجرت کے پہلے کے؟ یا فتح مکہ کے پہلے کے؟ یا دُنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے ہیں؟
- ◎ پچھلی خطائیں اور گناہوں سے تمہاری مراد بعثت کے بعد کے ہیں؟ یا ہجرت کے بعد کے؟ یا فتح مکہ کے بعد؟ یا پھر رحلت کے بعد کے ہیں؟
- ◎ وہ خطائیں اور گناہ صغیرہ تھے یا کبیرہ؟ حق اللہ سے متعلق تھے یا حق العباد سے؟ یا دونوں سے؟
- ◎ وہ خطائیں اور گناہ کتنی مرتبہ صادر ہوئے؟ کب ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ علانیہ ہوئے یا پوشیدہ ہوئے؟ تنہا کئے؟ کسی ایک کے ساتھ مل کر کئے؟ یا ایک سے زیادہ افراد کی معیت میں کئے؟
- ◎ اپنے زعمِ باطل کی بناء پر تم جن خطاؤں اور گناہوں کا گمان کرتے ہو وہ اعتقادی تھے؟ یا عملی تھے؟ حکم الہی کے نازل ہونے کے بعد ہوئے تھے یا نزول احکام کے قبل ہوئے تھے؟
- ◎ اگر اعتقادی تھے تو وہ کس قسم کے تھے؟
- ◎ اگر عملی تھے تو وہ سماجی تھے؟ اقتصادی تھے؟ اخلاقی تھے؟ مذہبی تھے؟ یا صلہ رحم کے تعلق

امام احمد رضا کے ترجمہ پر اعتراض کے امکان کا مقدم اختصاراً جواب  
 ”ہوسکتا ہے کہ کسی معترض کو یہ اعتراض ہو کہ آیت کریمہ ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ  
 مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کا ترجمہ ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے  
 اور تمہارے پچھلوں کے“ جو امام احمد رضا نے کیا ہے اس ترجمہ میں ”تمہارے سبب سے“ کا  
 جملہ زائد ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں ایسا کوئی بھی لفظ وارد نہیں جس کا ترجمہ ”تمہارے سبب  
 سے“ ہوتا ہو۔ بلکہ آیت میں لفظ ”لک“ وارد ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ”تیرے لئے“  
 اور اس معنی میں وارد لفظ ”ذنب“ کا ترجمہ ”گناہ“ کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ ”تیرے لئے  
 تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے“ یہ ترجمہ ہی ہونا چاہئے یہ عجیب و غریب ترجمہ  
 ”تمہارے سبب سے“ کے اضافہ کے ساتھ کیسے ہوا۔“

جواباً عرض ہے کہ آیت میں وارد لفظ ”لک“ میں جو ”ل“ ہے اس لام پر ہی پورے ترجمہ  
 کا دارومدار ہے۔ جن لوگوں نے ”تیرے لئے“ کے لفظ ”لک“ کو پچھلے گناہ معاف کر دیئے۔“ کے  
 معنی میں آیت کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے ”لک“ کے حرف جر ”ل“ کو تخصیص کے معنی میں  
 استعمال کیا ہے اور علم نحو کی اس پہیلی کو سلجھانہ سکے اور ترجمہ میں گڑ بڑی کر دی لیکن حقیقت یہ ہے  
 کہ اس آیت میں وارد لفظ ”لک“ میں کاف سے پہلے جو حرف جر ”ل“ ہے وہ بجائے تخصیص  
 کے ”تعلیل و سبب“ کے معنی میں ہے اور ”لام سبب“ حرف جر لام کے معانی مشترکہ اور خواص  
 میں سے ہے۔ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الملتہ والدین، عبدالرحمن بن کمال بن ابی  
 بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے اس آیت میں وارد لفظ ”لک“ کے ”ل“ کو لام سبب و تعلیل  
 تسلیم فرمایا ہے اور لام کو لام تعلیل و سبب تسلیم کرنے سے خود بخود ”تمہارے سبب سے“ کے معنی  
 رونما ہوں گے۔

علم صرف اور علم نحو کے ضوابط و اصول سے بہت ہی اختصاراً جواب عرض کر دیا ہے، اہل  
 علم حضرات اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے دریائے علم میں غوطہ زن ہو کر علوم و عرفان کے بے  
 بہا گوہر و جوہر برآمد فرمائیں گے۔ عوام اور کم پڑھے لکھے حضرات کو صرف اتنا بتانا ہے کہ امام

”وَمَا تَأَخَّرَ“ غیر مقید ہونے کی وجہ سے اس کی میعاد تا قیامت بھی ہوسکتی ہے۔ لہذا یہاں  
 آیت کا ترجمہ گناہ اور خطا میں ہرگز درست نہیں کہ کیونکہ ”وماتاخر“ کے غیر مقید ہونے نے یہ  
 ذہن دیا ہے اور خطا صادر ہونے کا کوئی امکان نہیں تو مستقبل میں اور وہ بھی قیامت تک گناہ  
 کا صادر ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے  
 مومنین ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ اور مستقبل میں قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی حقیقت  
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس  
 آیت کا حسب ذیل ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے کہ:- ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے  
 تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ (کنز الایمان)

اس ایمانی ترجمہ میں ”تمہارے اگلوں کے“ سے مراد وہ مومن امتی ہیں جنہوں نے  
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک کے زمانہ میں انتقال فرمایا یعنی وہ  
 حضرات اس دنیا سے پردہ کرنے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تھے لہذا وہ  
 ”تمہارے اگلوں کے“ میں شمار ہوں گے اور اس ایمانی ترجمہ میں ”تمہارے پچھلوں کے“  
 سے مراد وہ تمام مومنین ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے  
 بعد انتقال کیا یعنی انہوں نے حضور اقدس کے بعد دنیا سے کوچ کیا اور تا قیامت کوچ کرتے  
 رہیں گے لہذا وہ ”تمہارے پچھلوں کے“ میں شمار ہوں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وسلم کے ”اگلے“ اور ”پچھلے“ اُمتیوں کے گناہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس کے سبب سے معاف  
 فرمائے گا۔

منافقین زمانہ میں عقل و فہم کا ایسا فقدان ہے کہ ”اگلے“ گناہ کے ساتھ ”پچھلے“ کو بھی  
 جوڑ دیا اور ”پچھلے“ نے ان کو ایسا پچھاڑا کہ پچھا چھڑانا بھی ان کے لئے پیچیدہ ہو گیا۔

المنقصر! منافقین زمانہ پر قائم کئے گئے سوالات کا سوال نمبر: ۴، ہر پہلو سے ان کو بھاری  
 پڑتا ہے۔ اسی ایک سوال سے ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور گیارہ سوالات کے جوابات  
 دیتے ہوئے ان کا دم گیا کا گیارہ جائے گا۔

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (الخ) یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ، دونوں میں ہے۔ یہ دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاہری حیات پاک دو حصوں میں منقسم ہے۔ (۱) مکی زندگی اور (۲) مدنی زندگی۔ مکی زندگی بھی دو حصوں میں حسب ذیل منقسم ہے:-

(۱) طاہری نبوت کے پہلے کی زندگی یعنی ولادت اقدس سے بعثت تک یعنی چالیس (۴۰) سال کی عمر شریف تک۔

(۲) اعلان نبوت (بعثت) سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک یعنی تریپن (۵۳) سال کی عمر شریف تک۔

اب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوسرے حصہ یعنی طاہری نبوت سے سرفراز ہونے (۴۰ سال کی عمر شریف) سے ہجرت (۵۳ سال کی عمر شریف) تک کے کل تیرہ (۱۳) سال کی حیات طیبہ ۶۱۰ء میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک کے افعال رزیلہ و قبیحہ مثلاً بت پرستی، ستاروں کی پرستش، تین خدا ہونے کا عقیدہ، خدا کے لئے اولاد کا فاسد اعتقاد وغیرہ سے ممانعت فرمانے کے ساتھ ساتھ چوری، ڈکیتی، بچاؤ، شراب نوشی، زنا، وغیرہ افعال مذمومہ سے لوگوں کو روکا، تو مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین تملکا اٹھے اور آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کو قوی و فعلی نکالیف اور اذیتیں پہنچانی شروع کر دیں، لوگوں کو آپ کے خلاف درغلانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی لیکن آپ کی ذات ستودہ صفات اور آپ کے اخلاق حسنہ سے لوگ ایسے متاثر تھے کہ رشد و ہدایت پر مشتمل آپ کی نصیحتیں ہمہ تن گوش ہو کر سنتے تھے اور آپ کی بات ایسی اثر پذیر ہوتی تھی کہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف راغب ہوئے اور اپنے آبائی دین باطل کو خیر آباد کہہ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حالانکہ شروع شروع میں لوگوں کی دخول اسلام کی رفتار اور تعداد کم تھی لیکن لوگوں کا دخول اسلام کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام و ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال ہو رہا تھا۔ آج فلاں شخص اسلام لایا، کل فلاں سردار قوم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر فلاں رئیس قوم ایمان لایا۔ وغیرہ

عشق و محبت، امام احمد رضا نے اس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے، اس ترجمہ کی تائید و توثیق، صاحب ”تفسیر جلالین شریف“ فرما رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت کریمہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کے ترجمہ کی تائید جلیل القدر صحابی رسول، امین الامت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر سے ہوئی ہے۔ جس کا مفصل بیان اوراق سابقہ میں آپ حضرات نے مطالعہ فرمایا ہے۔

## ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ خُطَابِ كُنْ سَهْ؟“

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے دور حاضر کے منافقین ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے ”بشر“ نہیں کہتے بلکہ ہم تو حضور اقدس کا قول جو انہوں نے خود اپنے متعلق اللہ کے حکم سے جو کہا ہے، اُسے دہراتے ہیں کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”میں تمہاری طرح بشر ہوں۔“ رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہنے میں کوئی توہین نہیں ہے۔ ہم پر یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہہ کر توہین کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو وہی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو حکم فرمایا ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

اس قسم کی چال بازی سے منافقین زمانہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھانتے ہیں۔ عوام بیچارے مذہبی معلومات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کی جعل سازی کا شکار بنتے ہیں۔

بے شک! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ لیکن حضور اقدس نے یہ ارشاد کب، کیوں اور کن کو مخاطب بنا کر فرمایا ہے؟ اس کو سمجھنا بھی اشد ضروری ہے۔

کر رشد و ہدایت کی روشنی سے عالم دنیا کو تابناک فرما رہے تھے۔ آپ کی دیانتداری اور ایمانداری ایسی شہرت یافتہ تھی کہ کفار و مشرکین بھی اس کے معترف تھے اور آپ کو ”محمد امین“ کے معزز و معظم لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی طاہری اور نجی زندگی میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی یا نقص نظر نہیں آتا تھا کہ جس کو موضوع بنا کر آپ کے خلاف بولا جاسکے۔ لے دے کر انہیں صرف ایک ہی بہانہ ملا اور وہ بہانہ بھی وہی ملا جو زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین نے انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف تجویز کیا تھا لہذا کفار مکہ نے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو بشر ہیں۔ کیا ایک ”بشر“ ہمارا ہادی و رہنما بنے گا؟ ہرگز نہیں؟ یہ تو ہمارے تمہارے جیسے بشر ہیں۔ الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اپنی مہم اور تحریک چلانے کے لئے کفار و مشرکین نے صرف ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ نتیجتاً وہ دولت ایمان سے محروم رہے اور کفر کے ظلمت کدہ میں بھٹکتے رہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ:-

◎ **”فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا“**

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۶)

ترجمہ:- ”تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ تو کافر ہوئے۔“ (کنز الایمان)

◎ **”إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الْآنَ قَالُوا آبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا“**

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۹۳)

ترجمہ:- ”جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو

رسول بنا کر بھیجا۔“ (کنز الایمان)

◎ **”لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ط وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ**

**هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“** (پارہ: ۷، سورۃ الانبیاء، آیت: ۳)

ترجمہ:- ”ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت

کی کہ یہ کون ہیں۔ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔“ (کنز الایمان)

الحاصل! کفار و مشرکین نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف صرف

وغیرہ ایسی خبریں روزانہ پھیلتی تھی۔ کفار مکہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوتی تھی کہ فلاں فلاں اشخاص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو غصہ میں لال ہو جاتے تھے۔ اور دانتوں سے انگلیاں کاٹتے تھے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر کفار و مشرکین بوکھلا اٹھے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے روکنے کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ دین اسلام اختیار کرنے والے مؤمنین کو سخت مصائب و تکالیف پہنچانی شروع کیں لیکن شیع رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروانوں کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہ ہوا بلکہ اسلام کی حقانیت و صداقت ان کے دلوں میں زیادہ مستحکم اور راسخ ہو گئی۔

مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین بڑی الجھن اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کارگاہوں سے ایسا ایک بھی اصولی ہتھیار ان کے پاس نہ تھا۔ لہذا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت گھٹانے کے لئے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ:-

◎ **”أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا“** (سورۃ التغابن، آیت: ۶، پارہ: ۲۸)

ترجمہ:- ”کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟“

اس کہنے کا ان کا منشاء صرف یہی تھا کہ اے لوگو! تم جس کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو کر نیا دین اپناتے ہو، وہ دعوت دینے والا آدمی یعنی ”بشر“ ہی تو ہے۔ تو کیا ایک بشر ہمیں راہ بتائے گا؟ کیا ایک بشر کے کہنے پر تم نے اپنی قوم کے پرانے دین سے منہ موڑ لیا ہے؟

کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق سے لوگوں کو پراگندہ ذہن کرنے کے لئے ”بشر“ ہونے کا ہی ہتھیار اس لئے اٹھایا تھا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرزمین مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں آپ کا بچپن گزرا۔ جوانی کے ایام بھی اسی شہر کے لوگوں کے درمیان بسر ہوئے لیکن آپ نے کبھی بھی، کہیں بھی، کوئی بھی، اور کسی طرح بھی ایک بھی فعل مکروہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا بلکہ اخلاق حسنہ کے پیکر جمیل بن

پراتر آئے۔

یہاں ایک ضروری وضاحت کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو ایسا جواب کیوں ارشاد فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔“ اس کا جواب کتب احادیث میں مذکور اس واقعہ سے باسانی سمجھ میں آجائے گا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے سردار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے جیسا ناپسندیدہ چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ جواب میں سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کے چہرہ اقدس جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اس پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ ابو جہل اور حضرت صدیق اکبر کے دو متضاد اقوال کے جواب میں حضور اقدس نے ایک ہی جواب مرحمت فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور اس کی وجہ پوچھی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آئینہ حق نما بنایا ہے۔ ہر شخص مجھ میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے مجھ میں اپنا عکس دیکھ کر اپنا سراپا بیان کیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پر تو مجھ میں دیکھ کر اپنے سراپا کی تعریف کی ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ہر شخص سے اس کی زبان میں اور اس کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے تھے بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ”تُكَلِّمُوا النَّاسَ عَلَىٰ حَسَبِ عُقُولِهِمْ“ یعنی ”لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔“ علاوہ ازیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے ہر شخص سے ایسی کامل واقفیت رکھتے تھے کہ ہر شخص کی فطرت، عادت اور خصلت سے آپ کامل طور پر واقف تھے۔ بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ”مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ“ یعنی ”جو اپنے زمانہ کے لوگوں کو نہ پہچان سکے وہ جاہل ہے۔“ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے قول ”هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”وہ یہ کون ہیں؟ تمہیں جیسے آدمی تو ہیں۔“ کا جواب ان کے قول کے منشاء کو پہچانتے ہوئے اور ان کی عقلوں کی بساط سے آگہی رکھتے

ایک ہی آواز اٹھائی تھی کہ وہ بشر ہیں۔ جہاں دیکھو وہاں بشر، بشر اور بشر کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کفار و مشرکین نے بشر کی بانسری کے بھدے سُر کی بھد بھد سے ماحول کو پراگندہ کر رکھا تھا۔ ان کفار اور مشرکین کو جواب مرحمت فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”میں تمہارے جیسا بشر (آدمی) ہوں۔“ ذرا غور فرمائیں! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کیوں ایسا فرمایا؟ جواب صاف ہے کہ حضور اقدس کا یہ ارشاد جواباً ہے یعنی کفار و مشرکین نے ”بشر“ ہونے کا جو غوغا مچا رکھا تھا اس کا مسکت جواب دیتے ہوئے ان کافروں سے فرمایا تھا کہ ”میں تمہارے جیسا بشر ہوں“ کسی مومن سے یہ خطاب نہیں فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں آپ نے کفار و مشرکین سے صرف یہ فرمایا تھا کہ ”میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔“ آپ نے ہرگز ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ ”میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔“ بلکہ ”میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔“ فرمانے کے بعد کا جو جملہ ہے یعنی ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ یعنی ”مجھے وحی آتی ہے“ یہ جملہ کفار و مشرکین کو منہ توڑ اور دندان شکن جواب ہے کہ تم مجھے اپنے جیسا بشر کہتے ہو اور مجھے بشر کہہ کر میری اور میری دعوت حق کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہو، تو سن لو! ہاں ہاں! میں تمہارے جیسا بشر ہوں یعنی ظاہری صورت بشری میں تمہارے جیسا بشر ہوں کیونکہ میں بصورت انسان پیدا ہوا ہوں لیکن میں تمہارے جیسا ہی بشر نہیں ہوں یعنی درجات و مراتب میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، میں تم جیسے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں کیونکہ ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ یعنی ”مجھے وحی آتی ہے“ اور وحی ہر بشر پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور ذی مرتبت بشر پر یعنی نبی اور رسول پر ہی وحی آتی ہے۔ اور تم میں اور مجھ میں نزول وحی کا فرق عظیم ہونے کی بناء پر ہمارے درمیان بشری صورت کی ظاہری مساوات ہونے کے باوجود بھی میں تمہارے جیسا عام انسان نہیں۔

حضور اقدس، نور حق، ظل رب، نبی کریم، رؤف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا جواب کفار اور مشرکین کے اوہام و اتہام کے منہ پر ایسا طمانچہ تھا کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی غیرت انسانی ہوتی تو وہ اس جواب سے سبق حاصل کر کے اپنی حرکتوں سے باز آجاتے، مگر انہوں نے اُلٹا چور کو توال کو ڈانٹنے، والی مثل پر عمل کرتے ہوئے اُلٹا دھڑا باندا اور سرکشی



☆ امیر المؤمنین، سیدنا مولیٰ علی مشکل کشارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم ایک ہی خاندان میں پیدا ہوئے لیکن آپ ہر زبان کے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو فرمالتے ہیں، حالانکہ ہم اُن کی بات تک سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا اے علی! ”أَدَبْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي“ یعنی ”میری تربیتِ تعلیم میرے رب نے کی ہے اور بہت ہی اچھی کی ہے۔“

☆ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں یہاں تک عرض کیا کہ ”لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَ سَمِعْتُ فَصَاحَتَهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَفْصَحَ مِنْكَ“ یعنی ”میں سارا عرب گھوما ہوں اور عرب کے فصحاء کو بھی سنا ہے مگر آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔“

☆ حضرت بڑھ عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح عرب میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا۔“  
الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ایسا جامع و مانع اور فصیح و بلیغ ہوتا تھا کہ ایک جملہ میں بہت کچھ ارشاد فرمادیتے تھے اور ہر طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی عقلی و ذہنی بساط اور حیثیت کے مطابق کلام فرماتے تھے۔ کفار و مشرکین اور منافقین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تو حضور نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں بلکہ کیا فرماتے تھے؟

ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”آدمی (بشر) ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔“ لیکن اس جواب کے جملہ کے فوراً بعد علی الاتصال یہ بھی فرمایا کہ ”يُوحِي إِلَيَّ“ یعنی ”مجھے وحی آتی ہے“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایسا جامع و مانع ہے کہ بنظر عمیق، نگاہ انصاف کے زاویہ سے اور غیر متعصبانہ و غیر جانبدارانہ رویہ اپنا کر اس پر غور و فکر کرنے والا اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی ارشاد ہوا وہ وحی الہی ہے۔ کبھی اس مقدس زبان سے قرآن مجید کی آیات سننے میں آتی تھیں اور کبھی بشکل حدیث خدا کا حکم اور وحی جاری ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ“  
(پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۳، ۴)  
ترجمہ:- ”اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔“ (کنز الایمان)  
تفسیر:- ”اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں فنا کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا، تجلی ربّانی کا یہ استیلائے تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔“  
(تفسیر روح البیان، بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۴۶)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات وحی خدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام شانِ جامعیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ

”إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ“ (الحديث)

ترجمہ:- ”مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے۔“

آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں باوجودیکہ ہم حضور کی متابعت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”لَسْتُ كَمَا أَحَدِكُمْ بَلْ عِنِّي“ یعنی ”میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں“

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ ”أَيْكُمْ مِثْلِي“ ترجمہ: ”تم میں سے کون میری مثل ہے؟“ پھر ارشاد فرمایا ”إِنِّي آيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي“ ترجمہ: ”میں اپنے رب کے حضور رات کا قیام کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“

(حوالہ:-(۱) مسلم شریف، باب الصوم (۲) مدارج النبوة، از شیخ محقق، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۷۳۳)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابل میں آدھی (نصف) نماز ہے۔ (یعنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے) اس کے بعد جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور اقدس کو بخار ہے لہذا بیماری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ لہذا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبین اقدس (پیشانی شریف) پر اپنی ہتھیلی رکھی کہ معلوم کروں کہ آپ کو تپ (بخار) تو نہیں؟ جب میں نے مقدس پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری اس حرکت پر حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ! کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق تو آپ نے ایسا کچھ فرمایا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں؟ حضرت

## ”حضور اقدس نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ اور صحابہ کرام حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے یا نہیں؟ بلکہ کیا کہتے تھے؟“

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ لیکن آپ نے کبھی بھی، کہیں بھی، کسی موقع پر بھی، کسی وجہ سے بھی اور کسی بھی مؤمن سے یہ نہیں فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بلکہ کیا فرماتے تھے وہ دیکھیں:-

☆ رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض راتوں میں وصال فرماتے تھے یعنی ”صوم وصال“ یعنی پے در پے روزے اس طرح رکھتے تھے کچھ بھی نہ کھائیں یا پیئیں اور افطار کریں بلکہ مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ”صوم وصال“ رکھنے شروع کر دیئے۔ نتیجہً کچھ ہی دنوں میں ان کے جسموں میں لاغری، ناطقتی، ناتوانی اور کمزوری آگئی۔ کچھ حضرات تو علیل و بیمار ہو گئے۔ اس امر کی حضور اقدس کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ازراہ شفقت و رحمت صحابہ کرام کو ”صوم وصال“ کی ممانعت فرمادی۔ جیسا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت فرمودہ حدیث میں ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب

بشر نہیں ہوں۔

ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ:-

- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا طریقہ تھا۔ دور حاضر میں جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافقین کے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔
- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں اور ہم حضور اقدس کی طرح نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ لہذا جو اہل عشق و محبت حضرات حضور اقدس کو بشر کہنے کے بجائے نور خدا اور نوری بشر کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔

## ”قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولنا ہے۔“

قرآن مجید رب عظیم کا کلام ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی یا مثل نہیں، اسی طرح اس کے کلام کا بھی کوئی ثانی و مثل نہیں۔ رب عظیم و اعلیٰ جل جلالہ کا کلام بھی تمام کلاموں سے عظیم و اعلیٰ اور افضل و بالا ہے۔ قرآن مجید کو اس کے صحیح معنی، مطلب، مفہوم، منشاء اور مراد میں سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی کئی قسمیں ہیں مثلاً ○ آیات محکمات ○ مشابہات ○ مہمات ○ مقدمات ○ مؤخرات ○ عامات ○ خاصات ○ ناسخات

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب عنایت کرتے ہوئے حضور اقدس نے فرمایا کہ ”لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ“ ترجمہ:- میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں۔ (حوالہ:- مسلم شریف، باب الصلوٰۃ)

اس حدیث کے ضمن میں (۱) خاتمہ المحققین، امام اجل، علامہ محمد بن علی دمشقی حاکمی (المتوفی ۸۸ھ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ”ذُرِّ الْمُحْتَازِ شَرْحُ تَنْوِيذِ الْأَبْصَارِ“ میں اور (۲) علامہ محقق، امین الدین محمد بن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب ”رَدُّ الْمُحْتَازِ عَلَى الذَّرِّ الْمُحْتَازِ“ میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یعنی آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا فرمائیں گے تب بھی آپ کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔

☆ حدیث شریف کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا ہے کہ ”أَيْنَا مِثْلَهُ“ یعنی:- ”ہم میں سے کوئی ایک بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہیں۔“

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ:-

- (۱) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں اور تم میں سے کون میری مثل ہے۔
- (۲) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی حضور اقدس کی مثل نہیں۔

لہذا! ثابت ہوا کہ:-

- کفار، مشرکین اور منافقین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے لہذا حضور اقدس نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔
- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے لہذا حضور اقدس نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم جیسا

”تقویت الایمان“ یعنی ”ایمان کو ختم کرنے والی“ ہے۔ اس کتاب کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:-

(۱) ”اور یہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ ورسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بڑا علم چاہئے۔ ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں کا کام ہے۔ ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں۔ سو یہ بات غلط ہے۔ اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف صریح ہیں۔ ان کا سمجھنا مشکل نہیں۔“

(۲) ”چنانچہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ”وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ“ ”ہم نے آپ کی طرف ایسی باتیں نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔“

(۳) ”اور اللہ ورسول کے کلام کو سمجھنے کے لئے بہت علم نہیں چاہئے کیونکہ پیغمبر تو نادانوں کو راہ بتلانے اور جاہلوں کو سمجھانے اور بے علموں کو علم سکھلانے آئے تھے۔“

(۴) ”جو کوئی یہ آیت سن کر پھر یہ کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا اور ان کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی نہیں چل سکتا، اس نے اس آیت کا انکار کیا۔“

(حوالہ:- ”تقویت الایمان“ مصنف:- مولوی اسماعیل دہلوی، ناشر:- دار السلفیہ،

بمبئی، تاریخ اشاعت اپریل ۱۹۹۷ء، ص: ۱۳، ص: ۱۴)

مندرجہ بالا اقتباسات کا ما حاصل یہ ہے کہ:-

○ اللہ اور رسول کا کلام سمجھنے کے لئے بہت علم درکار نہیں۔ ہر جاہل سمجھ سکتا ہے۔

○ قرآن مجید کی آیتوں کے معنی، مطلب اور مراد سمجھنے کے لئے عالموں سے

○ منسوخات ○ جملات ○ مبینات ○ مطلقات ○ منطوقات ○ معطوفات وغیرہ وغیرہ۔  
علاوہ ازیں قرآن مجید کی عربی لغات کثیر المعنی کی حامل ہے۔ ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی آیت کا صحیح معنی مطلب سمجھنے کے لئے وسیع پیمانہ پر علم درکار ہے۔ لیکن واہ حسرتا! دور حاضر میں منافقین زمانہ نے ملت اسلامیہ پر قیامت ڈھاتے ہوئے ماحول ایسا خستہ اور پراگندہ کر دیا ہے کہ جاہلوں کی ٹولی کے ساتھ ایک دو چلے کر آنے والے وہ جاہل بلکہ اجہل کٹھ ملا کہ جس کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا بھی جاں گداز ہوتا ہے، اسے دو چار منسوخ اور تشابہ آیات طوطے کی طرح رٹا دیتے ہیں اور وہ اجہل ملا ”پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل“ والی مثل کا مصداق بن کر خطیب ملت اور مقرر اعظم کے تکبر و غرور میں ان منسوخہ اور تشابہ آیات کے الفاظ کے ظاہری لفظی معنوں کو دلیل اور سند بنا کر کفر، شرک اور بدعت کے زبانی فتوے دینے کے فتور پھیلاتا ہے۔ خصوصاً انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی عظمت و محبت کے جائز اور مستحب کاموں کو وہ اپنی شرک کے فتوے کی مشین گن کا نشانہ بناتا ہے۔ صدیوں سے رائج اور صحابہ، اولیاء، ائمہ، صلحاء، صوفیاء اور اکابر علماء کے اقوال و افعال سے مستند شدہ اعتقاد و اعمال کو غیر اسلامی، خارج از ایمان، ناروا، نازیبا، مذموم، مقبوح، مغضوب، بلکہ شرک و بدعت ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی آیتوں کے ایسے تراجم اور مفہوم پیش کرتا ہے کہ اس کو آیت سے نسبت تک نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ منافقین زمانہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے کے لئے قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد فاسدہ کی تکمیل و حصول کی سعی ناکام کرتے ہیں۔

منافقین زمانہ نے ایک منظم سازش کے تحت یہ مہم چلائی ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام کر دی جائے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کے لئے علم کی ضرورت نہیں اور علماء سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں بلکہ عوام الناس بھی قرآن کی آیتوں کے معنی و مفہوم بغیر کسی مشکل کے از خود آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”فَقِيَّةٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ“

(مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۳)

ترجمہ:- ”ایک فقیہ (عالم) شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔“

حدیث:- حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ (مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۳)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہ کرے گا کہ اپنے بندوں سے علم ہی ایک ساتھ اٹھالے بلکہ علم کو عالموں کے اٹھانے سے قبض فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جب عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار (مذہبی پیشوا) بنائیں گے۔ اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

(ماخوذ از:- ”اطیب البیان ردّ تقویت الایمان“ مصنف:- صدر الافاضل علامہ سید

نعیم الدین مراد آبادی، مطبوعہ:- اہلسنت برقی پریس، مراد آباد، ص: ۱۶)

مخبر صادق اور غیب جاننے والے اور بتانے والے پیارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، دور حاضر میں ہر طرف فتویٰ دینے والے جاہلوں اور واعظوں کی تعداد اس کثرت سے نظر آتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ جاہلوں کی ٹولی کے ساتھ ایک دو چلہ کر آنے والے جہلا مقرر و مفتی بنے گھومتے ہیں۔ اور بفرمان حدیث ”ضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ یعنی ”خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں“

پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص چاہے وہ نرا جاہل ہو، وہ قرآن شریف میں اپنے طور سے دخل دے سکتا ہے۔

ان دو اصولوں پر دور حاضر کے منافقین کی تحریک باطل کا انحصار ہے۔ عوام کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ علماء کو نظر انداز کرو۔ اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید تم از خود سمجھ سکتے ہو۔ آیتوں کے مطلب، مفہوم اور مراد تم اپنے طور سے سمجھ سکتے ہو۔ علماء سے پوچھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ایسی خطرناک چال ہے کہ اگر عوام کی یہ ذہنیت بن گئی کہ قرآن مجید کی تفہیم کے لئے علماء کرام سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم بھی کچھ کم نہیں۔ ہم اپنے طور پر قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام قرآن کی تفہیم کے معاملہ میں علماء، مفسرین، مجتہدین، ائمہ دین، متکلمین، مستنبطین کسی کی بھی اتباع نہ کریں گے بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث کے جو چاہیں وہ مطلب بیان کریں گے۔ ائمہ دین کی تقلید اور علماء دین کی پیروی اور اتباع سے بے قید ہو کر گمراہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس قوم کا علماء دین سے تعلق اور رابطہ ہے اسے آسانی اور جلدی سے گمراہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی گمراہ اور بد دین نے قرآن مجید کے حوالے سے کوئی غلط بات یا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی تو علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ اس معاملہ کی صحیح حقیقت اپنے علماء سے دریافت کریں گے اور علماء حق اہل باطل کے مکر و فریب کا پردہ فاش کر دیں گے۔ لہذا بے دینی کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات عام اور رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن وحدیث کو سمجھنے کے لئے علماء سے پوچھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص بذات خود قرآن وحدیث آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

قرآن اور حدیث میں اپنی رائے کو دخل دینے کے متعلق حدیثوں میں سخت وعید وارد ہیں۔ جو صفحات سابقہ میں ہم نے ذکر کیں ہیں۔ جاہل اور بے علم شخص جب قرآن وحدیث میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں بہت جلد آجاتا ہے۔ اہل علم حضرات شیطان کے بہکاوے میں جلدی نہیں آتے۔ شیطان کے لئے ایک ہزار جاہلوں کو بہکانا آسان ہے لیکن ایک عالم کو بہکانا دشوار ہے۔

کا علم ہونا تو درکنار بلکہ نسخ آیت اور منسوخ آیت یعنی کیا؟ وہ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن دو چار آیتیں رٹ لیتا ہے اور منبر خطابت پر چھلانگ لگا کر چڑھ بیٹھتا ہے۔ منافقین زمانہ کے جہلاء کی ٹولی ایک شہر میں پہنچی۔ سیدھے پہنچے مسجد میں اور بوریا بستر مسجد میں جمایا۔ نماز کے اختتام پر امیر الجاہلین نے کھڑے ہو کر کہا کہ دینی بھائیو! تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی۔ دین کی باتیں ہوں گی۔ لوگ رک گئے۔ امیر الجہلاء نے صلح کلیت کے عنوان کو موضوع سخن بنا کر قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کی آیت ۶ ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ کا ترجمہ ”تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین“ کرتے ہوئے اپنی بقراطی چھانٹی شروع کر دی۔ عین اسی وقت ایک سنی صحیح العقیدہ ذی علم صاحب مسجد میں آئے۔ جاہل مبلغوں کے امیر کو دوران تقریر ٹوکا کہ جناب جس آیت کی تم اپنی خیالی اور اختراعی تفسیر و تشریح بیان کر رہے ہو، وہ آیت نسخ ہے یا منسوخ؟ امیر صاحب کی ہوا اڑ گئی۔ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا نسخ اور کیا منسوخ؟ بس اتنا سمجھو کہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا تم نئی بات نکالتے ہو؟ نسخ و اسخ ہم کچھ نہیں جانتے۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم مؤمن بھائیوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ امیر صاحب کی جہالت پر محترم ذی علم سنی صاحب نے امیر جی کو لاکرا اور اسے بولنے سے روک کر خود کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیات کے اقسام اور اس کے متعلق احکام و اصول و ضوابط پر ایسی علمی گفتگو فرمائی کہ امیر صاحب کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں ہماری دال نہ گلے گی لہذا ہم بحث نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے، کا ورد پڑھتے ہوئے اپنی جاہلوں کی ٹولی سمیت راہ فرار اختیار کی۔

قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم آیاتِ نسخ اور منسوخ کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔

### قرآن مجید کی منسوخ اور نسخ آیتوں کے متعلق:-

بسم اللہ کی ”ب“ سے والناس کی ”س“ تک پورا قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیتوں کے حق ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی

حضرت سیدنا مولیٰ علی نے بے علم و اعظ کو مسجد سے نکلوا دیا:-  
استاذ الحدیث، رئیس المفسرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ ”تفسیر عزیز“ میں فرماتے ہیں کہ:-

”ابو جعفر نجاس از حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت نموده کہ ایشاں روزے در مسجد کوفہ داخل شدند۔ دیدند کہ شخصی وعظ میگوید۔ پرسیدند کہ این کیست۔ مردم عرض کردند کہ این واعظ است کہ مردم را از خدای ترسانند و از گناہاں منع می کند۔ فرمودند کہ غرض این شخص آنست کہ خود را انگشت نمائے مردم سازد از وجہ پرسید کہ نسخ از منسوخ جدا میدانند یا نہ۔ او گفت کہ این علم خود ندارد۔ فرمودند کہ این را از مسجد بر آرید“

(حوالہ:- تفسیر عزیز، پارہ اول، ص: ۵۰۰)

ترجمہ:- ”ابو جعفر نجاس نے امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”کوفہ“ شہر کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وعظ کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ واعظ (مقرر) ہے جو لوگوں کو خدا سے ڈراتا ہے اور گناہوں سے منع کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رسوا کر رہا ہے۔ اسے پوچھو کہ قرآن کی نسخ آیتوں کو منسوخ آیتوں سے جدا کر سکتا ہے؟ اس واعظ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعظ کرنے والے کے لئے حکم فرمایا کہ اسے مسجد سے نکال دو۔“

قارئین کرام! غور فرمائیں!! جس مقرر کو قرآن کی نسخ اور منسوخ آیتوں کی معلومات نہ تھی اس کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا، مولائے کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کی مسجد سے نکلوا دیا۔ آج تو ایسی حالت ہے کہ واعظ کو آیاتِ نسخ اور منسوخ

اور کبھی آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (المتوفی ۴۵۸ھ) نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کی نماز کے لئے اٹھے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی لیکن اب وہ ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اقدس نے فرمایا آج شب وہ سورت اٹھالی گئی۔ اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ یہاں تک کہ جن کا غدوں پر وہ سورت لکھی ہوئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جن آیتوں کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے ہیں، وہ آیتیں اب قرآن مجید میں موجود نہیں۔ صرف وہی منسوخ آیتیں موجود ہیں جن کا حکم تو منسوخ ہو گیا ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ لہذا آیات منسوخہ کے متعلق ہم جو وضاحت پیش کر رہے ہیں اس سے وہی آیات منسوخہ مراد ہیں جن کا حکم منسوخ اور تلاوت باقی ہے۔

(۲) قرآن کی کسی آیت کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس امر کا التزام ہوتا ہے کہ جو آیت منسوخ ہوتی ہے وہ پہلے نازل شدہ ہوتی ہے یعنی آیت مقدمہ ہوتی ہے اور جو آیت ناسخ ہوتی ہے یعنی جس آیت کی وجہ سے کسی دوسری آیت یا آیتوں کا حکم منسوخ ہوتا ہے، وہ ناسخ آیت بعد میں نازل شدہ ہوتی ہے یعنی آیت موخرہ ہوتی ہے۔

آیتوں کے کئی اقسام ہیں۔ جن میں سے آیات منسوخہ اور آیات ناسخہ کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں۔

(۱) منسوخ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم واپس لے لیا گیا ہو یعنی اس آیت پر عمل کرنے کا حکم رد فرما دیا گیا ہو۔ آیت کے منسوخ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آیت قرآن شریف سے رد و باطل کر دی گئی۔ وہ آیت منسوخ ہونے سے پہلے جس طرح قرآن کا ایک حصہ تھی، اسی طرح ہی وہ آیت منسوخ ہونے کے بعد بھی قرآن کا ایک حصہ ہی ہے۔ وہ آیت قرآن مجید میں منسوخ ہونے کے بعد بھی مثل سابق برقرار ہے۔ اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور جو اجر و ثواب اور فضیلت دیگر آیات کی تلاوت میں ہے، وہی اس آیت میں بھی ہے۔ البتہ اس آیت کا حکم واپس لے لئے جانے کی وجہ سے اب اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس آیت سے شرعی احکام و مسائل نافذ کئے جائیں گے۔ الحاصل! موجودہ قرآن مجید میں جو منسوخ آیتیں ہیں ان کی تلاوت باقی ہے لیکن ان آیتوں پر عمل نہیں۔

اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو کیوں منسوخ کر دیا گیا ہے اور قرآن کی آیتوں کے منسوخ ہونے کا قرآن میں ثبوت ہے یا نہیں؟

✪ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا“

(پارہ: ۱، سورہ البقرہ، آیت: ۱۰۶)

ترجمہ:- ”جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ:-

(۱) آیت کا منسوخ ہونا دو طرح ہوتا ہے: کبھی آیت کا صرف حکم منسوخ ہوتا ہے

کردی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔“ (کنز الایمان)  
تو اب قرآن کے حلال و حرام کے احکام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں رہا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اب کوئی بھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ لہذا احلال و حرام کے احکام میں اب کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔  
اب ہم ایک مثال ایسی پیش کرتے ہیں کہ اس مثال سے قارئین کرام کو ناخ اور منسوخ کی صحیح تفہیم حاصل ہونے کے ساتھ دورِ حاضر کے منافقین کی جعل سازی، دروغ گوئی، کذب بیانی، فریب دہی، اور قرآن مجید کی مقدس آیت کی آڑ میں قوم و ملت کے ساتھ کی جانے والی دھوکہ بازی سے آگہی اور واقفیت حاصل ہو، اور ان کے دام فریب میں چھسنے سے محفوظ رہیں۔

### ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ آیت منسوخ ہے اور کیوں منسوخ ہے؟

جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری نبوت اور توحید خالص کے اعلان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور چند حضرات ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ قریش مکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لئے روزانہ نئی ترکیب تجویز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ترکیب یہ تھی کہ:-

”قریش کی ایک جماعت نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے یعنی ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کروں گا۔ اس پر قریش کی جماعت نے کہا کہ آپ ہمارے کسی معبود (یعنی بت) کو صرف ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام (خانہ کعبہ)

(۳) حدیث متواتر سے بھی کسی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے (حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰) اس کی بحث بہت طویل ہے لہذا یہاں اس بحث کو طول تحریر کے خوف سے ترک کر دیتے ہیں۔

(۴) نسخ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس آیت کی وجہ سے کسی آیت کا حکم منسوخ یعنی زائل ہو گیا ہو۔ نسخ آیت کا نزول منسوخ آیت کے بعد میں ہوتا ہے۔

(۵) قرآن مجید کی آیات نسخہ اور آیات منسوخہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں اقسام کی آیات عین حکمت پر مبنی ہیں۔ یعنی کبھی ایک حکم ایسا نازل ہوتا ہے جو بندوں کے لئے آسان اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسی حکم کو بدل کر اس کی جگہ زیادہ آسان اور نفع بخش حکم نازل کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا حکم ایک متعین مدت کے لئے اور عین حکمت پر محمول تھا اور مدت گزر جانے کے بعد اب حکمت یہ ہے کہ اس حکم کو بدل کر اس حکم سے بھی زیادہ آسان اور زیادہ نافع حکم بعد میں نافذ کیا جائے۔

(۶) ایک ضروری بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات اور ماضی کے اخبارات کا جو ذکر ہے، اور جن آیتوں میں قرآنی اخبارات اور قصص مذکور ہیں، وہ آیتیں کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتیں بلکہ صرف وہی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں جن میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو۔ یعنی حلال و حرام کے بعض احکام بدلے گئے ہیں لیکن جب دین حنیف یعنی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکمیل ہوگئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۳)

ترجمہ:- ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری



ترجمہ:- تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ (کنز الایمان)

یعنی تمہارا کفر و شرک تمہارے لئے ہے اور اس کا وبال تمہارے ہی سر پر ہے اور رہے گا اور میرے لئے میری توحید، میرا اسلام اور سچائی کی راہ ہے۔

اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ کفار مکہ کی کثیر تعداد کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد سالن میں نمک کی مقدار کی طرح تھی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی جوابی کارروائی کا قدم اٹھانا نقصان دہ تھا۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ کفار مکہ سے تعرض نہ کیا جائے بلکہ مناسب وقت اور موقعہ آنے تک صبر کیا جائے۔ لہذا قرآن میں ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ کا حکم نازل ہوا۔

وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا۔ ظاہری نبوت کے اعلان کو تیرہ سال کا عرصہ گزر گیا کفار مکہ نے ان تیرہ سال کے عرصہ کے درمیان مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ظلم و ستم غلو کی حدیں بھی متجاوز کر چکے تھے۔ یہاں تک کہ شیخ نجدی (شیطان) کی معیت و موجودگی میں ”دار الندوہ“ میں کفار مکہ کے سرداروں نے میٹنگ بلائی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے شب میں ہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آفتاب اسلام کی تابناکی شباب پر آئی اور لوگ جوق در جوق اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہونے لگا اور اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ کفار مکہ کے ایماء و اشارہ پر مدینہ منورہ کے کفار و مشرکین اور یہودیوں نے سرکشی اور شرارتیں شروع کیں۔ لیکن صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے تھے اور جو رویہ مکہ معظمہ میں اپنایا تھا یعنی ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ پر عمل کرتے ہوئے جوابی کارروائی سے باز رہے۔

مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مکہ معظمہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا جواب دیتے ہوئے جنگی اقدام اٹھانے مضر اور نقصان دہ تھے لہذا وہاں سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ کا حکم نافذ فرمایا گیا لیکن اب مدینہ منورہ کا دیگر ماحول تھا۔ اسلام نے تقویت حاصل کر لی تھی اب مدینہ طیبہ میں ”لَكُمْ دِينُكُمْ

میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت یعنی سورۃ الکافرون پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور حضور کے اور حضور کے اصحاب کے درپے ایذا ہو گئے۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۸۵)

جب کفار مکہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہونے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم اور زور و تشدد کا طریقہ اپنایا۔ اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام ہر وقت کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے نشانہ پر تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ”اِنَّ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا“ (پارہ: ۱۷، سورۃ الحج، آیت: ۳۹) ترجمہ:- ”پرواگی (اجازت) عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا کر کہ ان پر ظلم ہوا۔“ (کنز الایمان) کی تفسیر میں مرقوم ہے کہ:-

”کفار مکہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزمرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور آزار پہنچاتے تھے اور صحابہ حضور کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں اور اصحاب کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے۔ حضور یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۰۵)

صحابہ کرام کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صبر کرنا اور کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ کرنا کفار مکہ کے لئے حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے صبر کو کمزوری میں شمار کرتے ہوئے ظلم و ستم کرنے میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کو تہدید اور تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اگر تمہیں میری دعوت حق قبول نہیں تو سرزمین حرم مقدس پر لڑائی اور جھگڑا کیوں کرتے ہو۔ لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ:

”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“

(پارہ: ۳۰، سورۃ الکافرون، آیت: ۶)

نوٹ:- غزوات جمع ہے غزوہ کی۔ اور غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہوں۔

سرایا جمع ہے سریہ کی اور سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ اپنے اصحاب کو کسی کی سرداری میں دشمنوں کے مقابلہ میں بھیج دیا ہو۔ مثال کے طور پر ۲ھ میں خزار نام کی پتھروں کی وادی جو حنفہ کے قریب ہے اس کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے لئے سفید علم (Flage) تیار کیا گیا تھا اور حضرت مقداد بن الاسود اس کے علمبردار تھے۔ اس سریہ کا نام سریہ سعد بن ابی وقاص مشہور ہے۔

(۱) جنگ احد (۲) غزوہ غطفان (۳) غزوہ نجران

(۱) سریہ قروہ (۲) سریہ رجب (۳) سریہ ابوسلمہ مخزومی

(۴) سریہ عبداللہ بن ابی

(۱) غزوہ بنی نضیر (۲) غزوہ بدر صغریٰ

(۱) سریہ بیر معونہ

(۱) غزوہ مرسیع (غزوہ بنی المصطلق) (۲) غزوہ احزاب

(خندق) (۳) غزوہ بنو قریظہ (۴) غزوہ دومتہ الجندل

(۱) سریہ ابو عبیدہ بن الجراح بجانب سیف البحر

ولسی دین پر عمل کرتے ہوئے خاموش بیٹھا رہنا نقصان دہ ہے کیونکہ کثرت تعداد کے باوجود بھی کچھ نہ کرنا اور سر پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا کمزوری اور بزدلی میں شمار ہوگا۔ لہذا ۲ھ میں مدینہ طیبہ میں سورۃ الحج نازل ہوئی اور سورۃ الحج کی آیت نمبر ۳۹ ”اِذْ يَنْزِلُ السَّمَاءُ نَزْلًا“ نازل ہوئی۔ یہ وہ پہلی ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس آیت سے کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا حکم نافذ ہوا۔

غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کتنا عظیم ہے۔ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاد و قتال سے منع کیا گیا تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام روزانہ کفار مکہ کے ہاتھوں زخمی ہو کر خدمت اقدس میں آتے تھے اور کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کی فریادیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مجھے قتال و جہاد کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جب مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اس کی اجازت دی گئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ان کو اقتدار و غلبہ حاصل تھا، جب کہ مسلمان بہت کم، خال خال اور کمزور تھے۔ اس بنا پر رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جہاد و قتال کی مشروعیت کو اس وقت تک مؤخر رکھا جائے جب تک کہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب حضور اقدس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور صحابہ کرام کی جمعیت اچھی خاصی تعداد میں ہو گئی، تب سورۃ الحج کی آیت ۳۹ کے ذریعہ جہاد و قتال کی مشروعیت مستقل طور پر ہوئی۔

۲ھ میں جہاد و قتال کی اجازت عطا ہونے کے بعد غزوات اور سرایا کا آغاز ہوا۔ اور حسب ذیل غزوات اور سرایا وقوع پذیر ہوئے۔

(۱) جنگ بدر اولیٰ (۲) جنگ بدر (۳) ابواء (۴) بواط

(۵) عسیرہ (۶) سویق (۷) قرقرۃ الکدلی (۸) غزوہ قینقاع

(۱) داررقم (۲) سعد بن ابی وقاص (۳) عبداللہ بن جسس

(۴) عمیر بن عدی (۵) سالم بن عمیر

ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں:-

”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“
(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۲۹)
ترجمہ:- ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) (کنز الایمان)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ”کافروں پر سخت ہیں“ یعنی اب مکہ معظمہ کی طرح ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِي“ والا معاملہ نہیں بلکہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ:-

(۱) غزوہ خیبر (۲) غزوہ وادی القری

(۱) سریہ فذک (۲) سریہ ابو بکر صدیق (۳) سریہ عمر بن

الخطاب (۴) سریہ بشر بن السعد انصاری (۵) سریہ غالب

لیثی بجانب میفہ (۶) سریہ غالب لیثی بجانب بنی الملوح

(۱) غزوہ حنین (ہوازن) (۲) فتح مکہ (۳) غزوہ طائف

(۱) سریہ موتہ (۲) سریہ غالب لیثی بسوئے کدید (۳) سریہ

عمرو بن العاص بجانب ذات السلاسل (۴) سریہ الخطاب

(۵) سریہ ابو عامر اشعری (جنگ اوطاس)

یعنی صرف دو سال کے قلیل عرصہ میں کل پانچ (۵) غزوات اور گیارہ (۱۱) سرایاوتوں

میں آئے۔

سورۃ الفتح نازل ہونے کے دو سال کے بعد یعنی ۷ھ اور ۸ھ دو سال کی مدت میں

کل پانچ (۵) غزوات اور گیارہ (۱۱) سرایاوتوں میں آئے۔ غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ

(۱) غزوہ ذات الرقاع (۲) غزوہ ذی قرد (۳) غزوہ بنو لحيان

(۱) سریہ محمد بن مسلمہ بجانب بنی کلاب (۲) سریہ محمد بن

مسلمہ بجانب بنی ثعلبہ (۳) سریہ محمد بن مسلمہ بجانب نجد

(۴) سریہ عکاشہ بن محسن بجانب بنی اسد (۵) سریہ زید بن

حارثہ بر موضع جموم (۶) سریہ زید بن حارثہ بر موضع غصص

(۷) سریہ زید بن حارثہ بجانب وادی القری (۸) سریہ زید

بن حارثہ بجانب ام قرقہ (۹) سریہ زید بن حارثہ بجانب

طیرف (۱۰) سریہ زید بن حارثہ بجانب بخشی (۱۱) سریہ زید

بن حارثہ بجانب وادی القری بار دوم (۱۲) سریہ عبدالرحمن

بن عوف بسوئے بنی کعب (۱۳) سریہ عبداللہ بن رواحہ

بسوئے اسیر بن رزم یہودی بمقام خیبر۔

مندرجہ بالا وضاحت کے مطابق جہاد اور قتال کی اجازت عطا ہونے کے بعد یعنی

۲ھ سے ۶ھ تک کل بیس (۲۰) غزوات اور چوبیس (۲۴) سرایاوتیں ہوئے۔ ان تمام

مخازات میں اسلامی لشکر نے فتح و کامیابی حاصل کی اور کفار، مشرکین و یہود کو شکست فاش

ہوئی۔ ان غزوات اور سرایاوت کے نتائج نے دشمنوں کو مغلوب، مرعوب اور خوف زدہ کر دیا۔ اسلام

اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ چھا گیا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔

۶ھ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے

کے لئے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے لیکن قریش مکہ مانع ہوئے لہذا آپ مکہ معظمہ

سے نو (۹) میل کے فاصلہ پر واقع حدیبیہ نام کے مقام پر ٹھہرے۔ وہاں کل بیس (۲۰) دن

آپ نے اقامت کی۔ حدیبیہ میں ”بیعت رضوان“ اور ”صلح حدیبیہ“ کے واقعات وقوع پذیر

ہوئے جن کا ذکر یہاں نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ”ضیخان“ نام کے

مقام پر پہنچے اور ایک روایت میں ہے کہ جب ”کراع الغمیم“ نام کے مقام کے قریب پہنچے تو

سورۃ الفتح ”انا فتحنا لك فتحاً مبيناً“ پارہ: ۲۶) نازل ہوئی۔ اس مقدس سورت کی

وَلَمَّا دِينًا مِّنْسُوحٍ هُوَ بِسُورَةِ الْكَافِرِينَ فِي مَذْكَورِهِ آيَاتٍ كَيْ تَفْسِيرٌ فِي لِكْهَابِهِ كِه:۔

”هَذِهِ الْآيَةُ مِّنْسُوحًا بِآيَةِ الْقِتَالِ“

ترجمہ:۔ ”یہ آیت منسوخ ہے آیت قتال سے۔“ (حوالہ:۔ تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۸۵)

صرف آیت قتال ہی نہیں بلکہ پوری سورۃ التوبہ میں کفار، مشرکین اور منافقین کے ساتھ شدت اور سختی کے ساتھ جہاد و قتال کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً:۔

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط  
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ“

⊙ = پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۴۳ = ⊙

ترجمہ:۔ ”اے نبی! کفار و منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بُری جگہ پلٹنے کی ہے۔“ (کنز الایمان)

سورۃ التوبہ کی تفسیر میں ہے کہ:۔

⊙ ”اس سورت کے اول میں بِسْمِ اللّٰهِ“ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ

یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ

لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ

امان ہے اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھانے کے لئے نازل ہوئی

ہے۔“ (حوالہ:۔ تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۳۶)

یہاں تک کہ تفصیلی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورۃ کافرون مکہ معظمہ میں

ہجرت اقدس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اُس وقت کے ماحول کی سنگینی اور نزاکت و نیز کفار

و مشرکین کی کثیر تعداد و غلبہ اور مسلمانوں کی قلیل تعداد و کمزوری کی وجہ سے حکمت الہیہ کا اقتضاء

فتح مکہ نے ملک عرب کے کفار اور مشرکین نیز یہود و نصاریٰ کی کمزوری اور انہیں پسپا

کر کے رکھ دیا۔ اسلامی لشکر کی ہیبت اور دبدبہ سے دشمن لرزنے اور کانپنے لگے اور اسلام نے

ایسا غلبہ حاصل کیا کہ اعدائے دین میں اب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک باقی نہیں تھی۔ ایک

طرف سے کفار، مشرکین اور یہود کا معرکہ جنگ میں شکست اور ہزیمت اٹھانا، ان کی فوجی

طاقت کا نیست و نابود ہونا، ان کے معاونین کا جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر متفرق علاقوں

میں منتشر ہونا اور دوسری طرف سے اسلامی لشکر کی فتوحات اور فتوحات کے ذریعہ کثیر تعداد میں

مال غنیمت حاصل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا مالی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے مضبوط و قوی

ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے والوں کا جم غفیر وغیرہ وجوہات کی بناء پر اب

مسلمانوں نے ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ اب کفار و مشرکین کی کسی قسم کی زیادتی اور شرارت کا بڑھ

چڑھ کر منہ توڑ جواب دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جب ایسا ماحول قائم ہو گیا تب قرآن مجید کی

سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ ایک حوالہ سورت کے وقت نزول کے متعلق پیش خدمت ہے۔

”سورۃ التوبہ ۹ یعنی فتح مکہ کے ایک سال بعد نازل ہوئی ہے۔“

(حوالہ:۔ تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۳۶)

⊙ اب ہم سورۃ التوبہ شریف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں:۔

”فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ“

⊙ = پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۵ = ⊙

ترجمہ:۔ ”تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ  
ان کی تاک میں بیٹھو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے ہر لفظ اور ترجمہ پر غور فرمائیں، اس آیت کو مفسرین کرام کی اصطلاح میں

آیت قتال کہتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے سورۃ کافرون کی آیت ”لَكُمْ دِينُكُمْ

توہین کی ہے۔ اس معاملہ میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تب وہ اپنی جان چھڑانے کے لئے اور لوگوں کو فریب دینے کے لئے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہئے تو یہ حضرات تو بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو کافر و مرتد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اس معاملہ میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ عالموں اور مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دین کے معاملہ میں جھگڑا و فساد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ یعنی ”تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین“

واہ! صاحب واہ! جب اپنے پیشواؤں کے کفریات کا معاملہ درپیش ہوا تو فوراً قرآن مجید کی آیت ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ پیش کر کے رفع دفع کر دیا۔ اگر واقعی تم اس آیت پر صحیح معنی میں عمل کرتے ہو تو پھر ۱۰ یا رسول اللہ کہنے والے کو ۱۰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کو ۱۰ درود تاج پڑھنے والے کو ۱۰ انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے توسل و استمداد طلب کرنے والے کو ۱۰ رسول اللہ کو حاضر ناظر ماننے والے کو اور دیگر عقائدِ صحیحہ رکھنے والے کو کیوں کافر و مشرک کہتے ہو؟ تب کیوں نہیں کہتے کہ جب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گو اور اسلام کے پابند مسلمانوں کو کافر کیسے کہیں؟ تب تمہیں ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ آیت کیوں یاد نہیں آتی؟ تب تمہیں اور تمہارے پیشواؤں کو لرزہ کیوں نہیں آتا؟ تب اس آیت کا کیوں لحاظ نہیں کرتے؟ بلکہ جرأت و دلیری سے قلم کے ایک جھٹکے سے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے کیوں تھوپتے ہو؟ تمہارے پیشواؤں نے کن کن مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا ہے وہ نظر واحد میں ملاحظہ کرو:-

۱۰ عبد النبی، عبد الرسول، نبی بخش، علی بخش، غلام محی الدین، غلام حسین وغیرہ

نام رکھنے والا مشرک ہے۔ (تقویت الایمان، از مولوی اسماعیل دہلوی)

۱۰ انبیاء کرام کو حاضر ناظر سمجھنے والا اور انہیں پکارنے والا مشرک ہے۔ (تقویت الایمان)

یہ ہوا کہ ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ کا حکم نازل فرمایا گیا۔ اس آیت پر ۹ھ تک عمل رہا کیونکہ ۹ھ تک یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی تھی لیکن ۹ھ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر: ۵ یعنی آیت قتال سے ”تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین“ پر عمل کرنے کا حکم منسوخ فرمایا گیا اور نیا حکم نازل ہوا کہ ”مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔“  
المختصر! سورۃ الکافرون کی آیت ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ آیت قتال سے منسوخ ہے۔ اب اس کی صرف تلاوت باقی ہے، اس پر عمل نہیں لیکن.....؟

منافقین زمانہ منسوخ اور متشابہ آیات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں:-

منافقین زمانہ کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کے لئے آیات متشابہات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کے ظاہری لفظی معنوں سے استدلال کر کے گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لئے سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بطور سند پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے پیشواؤں کے کفریات پر پردہ ڈالنے کے لئے ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ پیش کر کے لوگوں کی زبانوں پر تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی من گھڑت اور باطل تشریح کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھسانے کی منظم سازش کی جاتی ہے کہ کسی کو برا مت کہو۔ بلکہ کافر کو بھی کافر مت کہو۔

منافقت کی ناجائز پیداوار کی حیثیت سے صلح کلیت نے لوگوں کے ایمانی اور اسلامی

جذبات اور غیرت ایمانی کے ضمیر کو قریب بمرگ بنا دیا ہے۔ بے مہاروں اور بے خرد اور

نابکاروں کے ہاتھ میں مذہبی رہنمائی کی لگام ہے۔ جو ہلدی کی گرہ پا کر پنپساری بن گئے ہیں۔

منافقین زمانہ نے ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ“ سے غلط استدلال کرنے کی سازش اس

لئے کی ہے کہ جب ان کے پیشواؤں کے کفریات پر گرفت کی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں

فلاں پیشوانے اپنی فلاں فلاں کتاب میں حضور اقدس جانِ ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

احادیث کریمہ اور ائمہ دین کی کتب معتبرہ شاہد عادل ہیں۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اس عنوان پر تفصیلی بحث کی جائے۔ اس عنوان کی وضاحت و تفہیم کے لئے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ و انشاء جیبہ (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مستقبل قریب میں اس عنوان پر فقیر رقم الحروف مبسوط بحث پر مشتمل تصنیف ارقام کرنے کا عزم مصمم رکھتا ہے۔ یہاں اشارہ اور کنایہ چند اہم نکات قارئین کی فرحت طبع کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

(۱) ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ ایسا کہنے والا خود ہی اپنے جال میں پھنس رہا ہے۔ اس سے یہ سوال کرو کہ کس کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ تو جواب دے گا کہ کافر کو۔ یعنی تم نے تو پہلے اس کو ”کافر“ کہہ دیا۔ اسی لئے تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تمہارے اس جملہ میں تم نے اس کے کافر ہونے کا اقرار و اعتراف کر لیا اسی لئے تو اسے کافر مان کر کافر کہہ رہے ہو۔ عجیب بات ہے کہ کس کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہو؟ کافر کو۔ اسی کو مدہوش کا جنونی خیال کہا جاتا ہے کہ خود تو اسے کافر کہیں، بحیثیت کافر ہی اس کا ذکر کریں اور اوپر سے یہ بے تکی ہانکتے ہوئے اوروں کو نصیحت و تنبیہ کرنا کہ اسے کافر مت کہو۔ یعنی کافر ہے، ہم کافر کہتے ہیں لیکن کافر کہنے سے منع بھی کرتے ہیں۔ کافر ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ کافر کو کافر مت کہو۔

(۲) ”کافر کو کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟“۔ جب یہ سوال ان منافقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تو جواب دیتے ہیں کہ کافر کو کافر اس لئے نہ کہنا چاہیے کہ نہ جانے کب اسے اللہ ہدایت عطا فرمادے اور وہ مسلمان ہو جائے؟ واہ جناب! بڑی دور کی اور لمبی سوچی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو مسلمان مت کہو کیونکہ نہ جانے کب اسے شیطان بہکا دے اور وہ دین اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو جائے؟ اور ایسے بہت سے واقعات کتب احادیث و کتب سیر و تاریخ میں درج ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مشہور

”اللہ اور رسول نے چاہا تو فلاں کام ہو جائے گا“ ایسا کہنے والا مشرک ہے۔ (بہشتی زیور، از: مولوی تھانوی)

انبیاء و اولیاء کے لئے تصرف کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ (تقویت الایمان)

یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ، از: مولوی رشید احمد گنگوہی)

سہرا باندھنے والا مشرک ہے۔ (بہشتی زیور)

کسی ولی کی قبر پر غلاف اور چادر ڈالنے والا مشرک ہے۔ (تقویت الایمان)

درد تاج پڑھنے والا مشرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

کسی کی قبر یا درگاہ کا مجاور بن کر بیٹھنے والا، درگاہ سے رخصت ہوتے وقت لٹے پاؤں چلنے والا، درگاہ کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینے والا اور درگاہ پر روشنی کرنے والا مشرک ہے۔ (تقویت الایمان)

یہ تو صرف چند نمونے ہیں جو تمہارے پیشواؤں نے شرک کی مشین گن سے شرک کے گولے (فتوے) کے طور پر ملت اسلامیہ کے کروڑوں کلمہ گو پر برسائے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ مندرجہ بالا اقتباسات میں مرقوم شرک کے فتاویٰ کی ضد میں کتنے مسلمان آگئے؟ کتنے کثیر تعداد کے بلکہ کروڑوں کی تعداد میں تم نے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ دیا؟ شرک کے مندرجہ بالا فتوے مسلمانوں کے سروں پر تھوپتے وقت ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ آیت کیا تم بھول گئے تھے؟

### کافر کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟

صلح کلیت کی مذموم ہوا پھیلاتے ہوئے دور حاضر کے منافقوں نے یہ بات اس قدر رائج و عام کر دی ہے کہ ”کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے“۔ اور اس باطل نظریہ کے ثبوت میں قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کی آیت ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ کی من گھڑت تفسیر و تشریح پیش کرتے ہیں اور ان کے دام فریب میں آکر بہت سے لوگ ایسا نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔

کافر کو یقیناً اور ضرور کافر ہی کہا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات،

کعبہ کے غلاف سے لپٹی ہوئی حالت میں قتل کر دیا گیا۔

(حوالہ:- مدارج النبوت، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۹۶۲)

☆ جبکہ ابن ابیہم غسانی کہ جو قبیلہ بنو غسان کا سردار تھا۔ وہ خلافت فاروقی میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا کر مسلمان ہوا لیکن بعد میں کافر و مرتد ہو گیا اور ملک شام چلا گیا۔ ہرقل بادشاہ سے ملا اور ہرقل بادشاہ نے اسے اسلامی لشکر کے ساتھ لڑنے جنگ یرموک میں ساٹھ ہزار نصرانی عربوں کا سردار بنایا تھا۔ جس کی مفصل تفصیل حقیر و فقیر، سرایا تقصیر، راقم الحروف کی کتاب ”سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب“ میں درج ہے۔

ایسے تو کئی واقعات پیش کیئے جاسکتے ہیں لیکن ہم نے صرف تین واقعات پر اکتفا کیا ہے۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں جن میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے والے افراد کا ذکر ہے۔

☆ آیت نمبر:-

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا  
كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا“

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۱۳۷)

ترجمہ:- ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے، نہ انہیں راہ دکھائے۔“ (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر:-

”لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبۃ، آیت: ۶۶)

و معروف شخصیتیں بھی بعد میں کافر و مرتد ہوئی ہیں۔ مثلاً:-

☆ مسیلمہ بن ثمامہ کذاب کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ ”مسیلمہ الکذاب“ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذابؑ اھ میں قبیلہ بنی حنیفہ کے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ لیکن بعد میں مرتد ہو کر کافر ہو گیا۔ خلافت صدیقی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید ”سیف اللہ“ کو اس کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوبیس ہزار کا لشکر لے کر مسیلمہ الکذاب کے چالیس ہزار کے لشکر سے مقابل ہوئے۔ اس جنگ کا نام ”جنگ یمامہ“ ہے۔ جو ۱۰ھ میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسیلمہ الکذاب مارا گیا۔

☆ ”ابن نطل“ نام کا ایک شخص کہ جس کا پورا نام عبدالعزیٰ ابن نطل تھا۔ وہ فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام عبدالعزیٰ بدل کر عبداللہ رکھا۔ یہ شخص کاتب وحی کی خدمت بھی انجام دیتا تھا یعنی حضور اقدس پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اسے آپ مختلف کاتبوں سے لکھوایا کرتے تھے۔ ان کاتبوں میں عبدالعزیٰ ابن نطل بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے زکاۃ کی وصولی کے لئے اس کے قبیلہ میں بھیجا۔ تو وہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ فتح مکہ کے دن ابن نطل نے اپنی جان بچانے کے لئے خانہ کعبہ کی پناہ لی اور خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر چھپ گیا۔ کسی صحابی نے اسے دیکھ لیا اور بارگاہ رسالت میں اطلاع دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابن نطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اسے خانہ

(۴) "الْمُؤْمِنُونَ" = ایمان والے  
 (۵) "الْمُؤْمِنَاتُ" = ایمان والیاں  
 ❖ کافروں کے لئے:-

(۱) وَالَّذِينَ كَفَرُوا = اور وہ جنہوں نے کفر کیا  
 (۲) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا = بے شک کفار  
 (۳) يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ = اے کافرو  
 ❖ مشرکوں کے لئے:-

(۱) إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ = بے شک مشرک لوگ  
 (۲) وَالْمُشْرِكِينَ = اور مشرکوں  
 (۳) مُشْرِكٌ = مشرک

ایسی تو قرآن کی آیت کے حوالے سے سینکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ قرآن میں جس طرح مؤمن کو مؤمن، کافر کو کافر اور مشرک کو مشرک فرمایا گیا ہے اسی طرح:-

❖ یہودیوں کو الْيَهُودَ ❖ نصرانیوں کو النَّصْرَى ❖ منافق مردوں کو الْمُنَافِقِينَ ❖  
 ❖ منافق عورتوں کو الْمُنَافِقَاتُ ❖ ظالموں کو الظَّالِمُونَ اور الظَّالِمَاتُ ❖ سرکشوں کو  
 طُغْيَانٍ ❖ شیطان اور اس کے گروہ کو الشَّيْطَانُ، إِبْلِيسُ اور الشَّيْطَانِ ❖ گندے یعنی  
 خبیث مردوں کو الْخَبِيثِينَ ❖ گندیاں یعنی خبیث عورتوں کو الْخَبِيثَاتُ ❖ جھوٹ  
 بولنے والوں یعنی جھوٹوں کو الْكَاذِبِينَ ❖ بے حکم لوگوں یعنی فاسقوں کو الْفَاسِقِينَ اور  
 الْفَاسِقَاتُ ❖ زنا (پرانی عورت سے بدکاری) کرنے والے مرد کو الزَّانِي ❖ زنا کرنے والی  
 عورت کو الزَّانِيَّةُ ❖ چوری کرنے والے مرد کو السَّارِقُ ❖ چوری کرنے والی عورت کو  
 السَّارِقَةُ ❖ جرم کرنے والوں کو الْمُجْرِمُونَ اور الْمُجْرِمَاتُ ❖ گنہگار کو الْمَذْنِبُ اور  
 الْأَثِيمُ ❖ نافرمانوں اور گنہگاروں کو الْمَذْنِبُونَ اور الْمَذْنِبَاتُ ❖ ذلیل کو الْمَهِينُ  
 ❖ اندھے کو عُمَى اور أَعْمَى ❖ گونگے کو بُكْمٌ ❖ بہرے کو صُمٌّ اور اسی طرح دیگر افراد کو  
 ان کی اصلیت اور خصلت کے مطابق اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

ترجمہ:- "بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔" (کنز الایمان)  
 ❖ آیت نمبر ۳:-

"وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ"

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۷۴)

ترجمہ:- "اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے۔" (کنز الایمان)

ایسی کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم نے اختصار اختیار کرتے ہوئے صرف تین آیات ہی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات پر اور آیات کے ماقبل حدیث کے تین واقعات پر بھی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ انشاء اللہ اس عنوان پر ہم نے جس کتاب لکھنے کا عزم کیا ہے اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کو کافر ہی کہا جائے گا اور اس کے ساتھ کافر جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، ایسے شخص کو جب کافر کہا جاسکتا ہے تو اس شخص کو کیوں کافر نہیں کہا جائے گا جو پہلے ہی سے کافر ہے اور اب بھی اپنے کفر پر جما ہوا ہے۔ جو شخص جیسا آج ہے ویسا ہی اُسے کہا جائے گا۔ کل وہ کیا بن جائے گا؟ اُس کو آج قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کا حکم اس کی آج کی موجودہ ظاہری حالت ہی پر نافذ ہوگا۔ اس کی آئندہ کل کی ممکن حالت کو قیاس کر کے اس کی آج کی حالت کے متعلق جو شرعی حکم ہے اسے موقوف یا رد نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن میں لوگوں کو ان کی موجودہ حالت کے بموجب ذکر کیا گیا ہے یا خطاب کیا گیا ہے۔ مثلاً:-

(۱) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ = اور وہ کہ ایمان لائے

(۲) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا = بے شک ایمان والے

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا = اے ایمان والو



بن کر پھوٹتا ہے۔ پھر وہ کو نیل رفتہ رفتہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر وہ پودا پھولتا پھلتا ہے اور بالآخر وہ سایہ دار درخت بنتا ہے۔ یہ عام تجربہ کی بناء پر یقینی بات ہے۔ اب کوئی عقل کا ماریہ کہے کہ پودے کو پودا مت کہو کیونکہ وہ یقینی طور پر کب سایہ دار درخت ہو جائے؟

یہ تین مثالیں تو مستقبل میں یقینی طور پر حالت مُتبدّل ہونے کی ہیں۔ جس کی حالت کا مستقبل میں تبدیل ہونا یقینی ہے، پھر بھی اس یقین کی بناء پر اس کی موجودہ حالت کو مستقبل پر ہرگز محمول نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے وہی کہا جائے گا جو اس کی اس وقت کی موجودہ حالت ہے یعنی زندہ کو زندہ، بچہ کو بچہ، جوان کو جوان اور پودے کو پودہ ہی کہا جائے گا۔ جب یقین کے درجہ میں ہونے والے معاملہ کو خاطر میں نہیں لایا جاسکتا تو منافقین زمانہ تو قیاس و گمان کرتے ہوئے امکانی درجہ میں کہتے ہیں کہ ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہئے کیونکہ نہ جانے کب وہ مسلمان ہو جائے۔“ اگر قیاس و امکان میں ہونے والی مستقبل کی حالت کو اہمیت دیتے ہوئے زمانہ حال کی موجودہ حالت کی حقیقت سے انکار کیا جائے گا تو آدمی کا جینا ڈوبھر ہو جائے گا۔ چند امکانی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

- اپنی بیوی کو بیوی مت کہو، نہ جانے کب تم اسے طلاق دے دو اور تم سے طلاق حاصل کرنے کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس کی بیگم بن جائے؟
- تمہارے گھر میں چوری کرنے کوئی چور گھسے تو ”چور آیا-چور آیا“ اور ”چور کو پکڑو“ مت چلاؤ، اس چور کو چور مت کہو، نہ جانے کب وہ چوری کے دھندھے سے توبہ کرے دیانتدار اور راست باز ہو جائے۔
- ڈاڑھی منڈانے والے کو فاسق مت کہو، نہ جانے وہ کب توبہ کرے ڈاڑھی رکھ کر متشرع ہو جائے۔
- گٹر اور نالی میں بہتے ہوئے ناپاک اور گندے پانی کو ناپاک مت کہو، نہ جانے یہ کب سمندر میں جا ملے اور سمندر کے پانی میں مل کر پاک اور

جو شخص جیسا ہے، اسے ویسا ہی کہا جائے گا۔ قرآن مجید کی بھی یہی تعلیم ہے۔ جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ”کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہئے“ وہ لوگ قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ایک قیاس اور گمان کی بناء پر کہا جا رہا ہے کہ کافر کو کافر اس لئے نہیں کہنا چاہئے کہ کب اس کو ہدایت مل جائے اور وہ مؤمن ہو جائے۔ اس کا مؤمن ہو جانا یقینی نہیں ہے بلکہ قیاسی امکان ہے۔ امکان اور وہ بھی یقینی نہیں بلکہ قیاسی و خیالی ہے۔ ایسے خیال خام اور خواب و خیال فاسد جیسی بات کو دلیل اور سند بنا کر قرآن مجید کے صاف اور صریح احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ شریعت کا حکم ہر شخص کی موجودہ اور ظاہری حالت پر ہی نافذ ہوتا ہے۔ وہم و گمان میں کسی کی مستقبل کی یقینی نہیں بلکہ امکانی حالت کو موجودہ حال پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور اس کی کوئی وقعت اور اہمیت بھی نہیں۔ ایسا وہم و گمان نُفلاً اور عقلاً باطل ہے۔

مستقبل میں کسی کی امکانی حالت کو زمانہ حال پر محمول کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ کسی کی مستقبل کی یقینی حالت کو بھی زمانہ حال پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً:-

- قرآن مجید کی آیت ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ کے مطابق ہر جاندار کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ یعنی مردہ ہونا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، بلکہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش و امکان نہیں کہ ہر زندہ ایک دن ضرور مردہ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا اس یقین کی بناء پر یہ کہنا درست ہے کہ زندہ آدمی کو زندہ مت کہو کیونکہ یقیناً وہ ایک دن مردہ ہونے والا ہے۔
- انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک مختلف طبقات سے اس کی زندگی گزرتی ہے یعنی بچپن، جوانی اور بوڑھاپا۔ بچپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بوڑھاپا یقینی ہے۔ تو کیا یہ کہنا عقل و خرد کے دائرہ سے باہر نہیں کہ کسی بچے کو بچہ مت کہو کیونکہ وہ یقیناً جوان ہونے والا ہے اور کسی جوان کو جوان مت کہو کیونکہ اس کے لئے بوڑھاپا یقینی ہے۔
- باغبانی کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں پہلے بیج بویا جاتا ہے۔ پھر وہ بیج کو نیل

حدیث کے صاف و صریح ارشادات کی مخالفت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی قطعی دلیلوں کے مقابلہ میں ایسی خیالی، قیاسی اور امکانی بات کو بطور دلیل وہی شخص پیش کر سکتا ہے، جس کی عقل کے طوطے اڑ گئے ہوں۔ یا جو جان بوجھ کر ڈھٹائی، ہٹ دھرمی اور منہ زوری کرتا ہے اور اس کا مقصد ملت اسلامیہ کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکا کر گمراہییت و ضلالت پھیلا کر بے دینی کا بازار گرم کر کے فتنہ و فساد برپا کرنا ہے۔

اگر معاذ اللہ! دور حاضر کے منافقین کا نظریہ ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ اس وجہ سے قبول کر لیا جائے کہ ”نہ جانے وہ کب مسلمان ہو جائے“ تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ نہ تو اچھے کو اچھا کہہ سکیں گے اور نہ ہی بُرے کو بُرا کہہ سکیں گے کیونکہ نہ جانے اچھا کب بُرا ہو جائے اور بُرا نہ جانے کب اچھا ہو جائے۔ ہر شخص کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ کچھ بھی کہتے وقت یہ احتمال لاحق ہوگا کہ ہو سکتا ہے یا نہ جانے کب وہ ایسے میں سے ویسا ہو جائے۔

(۳) یہاں تک جو مختصر گفتگو کی گئی ہے اس گفتگو کے مطابق منافقین زمانہ کے

”کافر کو کافر نہ کہنا چاہیے“ والے فاسد نظریہ کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ بوکھلا جاتا ہے اور ”ہر فرعون نے راموسی“ والی مثل کے مطابق وہ ”غرق نیل“ ہونے کے بجائے نیل ڈھلا (بے حیا) اور نیل بگڑا (بے عقل) ہو کر اپنی نیل جلی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً گفتگو کا رخ پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ تو خواجواہ مشتعل اور برا بیچتے ہو گئے۔ ہمارا آپ مطلب نہیں سمجھے۔ کافر کو کافر مت کہو سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی کافر کو ”اے کافر“ کہہ کر مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی کافر صاحب کو ”اے کافر“ کہہ کر پکارنا اخلاق و تہذیب کے خلاف ہے۔ نیز اس کافر صاحب کی دل آزادی بھی ہے لہذا کسی کافر کو ”اے کافر“ کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے اور یہی مطلب ہے ہمارے مقولہ ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ کا جو آپ نہیں سمجھے۔

اسی کو کہتے ہیں سمجھ کا الٹی ہونا اور سمجھ پر پتھر پڑنا۔ خود تو نا سمجھی کی بات کریں دوسروں کو

صاف ہو جائے۔

- جاہل کو جاہل مت کہو نہ جانے کب علم سیکھ کر عالم ہو جائے۔
  - دودھ کو دودھ مت کہو نہ جانے وہ کب دہی یا چھا چھ بن جائے۔
  - درخت کو درخت مت کہو نہ جانے کب وہ کٹ کر لکڑی بن جائے اور لکڑی کو بھی لکڑی نہیں کہنا چاہیے نہ جانے کب وہ جل کر کوئلہ ہو جائے اور کوئلہ کو بھی کوئلہ مت کہو نہ جانے کب وہ راکھ ہو جائے۔
  - ناپاک کپڑے کو ناپاک مت کہو نہ جانے کب وہ دھو کر پاک کر لیا جائے۔
  - آنکھ والے کو آنکھیا رہ مت کہو نہ جانے کب وہ اندھا ہو جائے۔
  - لذیذ عمدہ کھانوں اور پھل و میوات کی مرغوب خوشبو کی وجہ سے اسے خوشبو دار مت کہو نہ جانے کب وہ کھایا جانے کے بعد بدبودار پاخانہ ہو جائے۔
  - شرابی کو شرابی مت کہو نہ جانے کب وہ نمازی ہو جائے۔
  - نافرمان کو نافرمان مت کہو نہ جانے کب وہ فرمانبردار ہو جائے۔
  - دن کو دن مت کہو، ہو سکتا ہے کہ آفتاب غروب ہونے پر وہ رات ہو جائے۔
  - رات کو رات مت کہو، نہ جانے کب آفتاب طلوع ہو جائے اور دن ہو جائے۔
  - دوست کو دوست مت کہو نہ جانے کب وہ دشمن ہو جائے اور اسی طرح دشمن کو بھی دشمن نہ کہو، نہ جانے کب وہ ہمدرد دوست ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ
- ”نہ جانے کب یہ ہو جائے“ اور ”نہ جانے کب وہ ہو جائے“ کو مدار بنا کر ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ”نہ جانے“ اور ”ہو سکتا ہے کہ“ کا جملہ استعمال کر کے کہی گئی بات ناقابل التفات و سماعت ہوتی ہے۔ ایسی بات کو دلیل و سند بنانا کمال بیوقوفی ہے۔ منافقین زمانہ کا نظریہ کہ ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ کیونکہ نہ جانے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کب مسلمان ہو جائے۔“ یہ نظریہ بھی سراسر غلط اور عقل و انصاف کے خلاف ہونے کے ساتھ قرآن

والی کتاب میں تفصیل و صراحت سے بیان کریں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ و انشاء حبیبہ)  
اس وقت ہم ”قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولنا ہے“ عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری لفظی معنوں کو لے کر قرآن مجید کو سمجھنا محال ہے۔ بلکہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی اخذ کر کے منافقین زمانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے ادبی اور گستاخی کر کے گمراہ ہوئے۔ ان کی گمراہیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشواؤں نے ان کو ایسی ذہنیت و جرأت دلائی ہے کہ بے پڑھا لکھا شخص بھی قرآن مجید کے معنی، مطلب اور مراد کو از خود سمجھ سکتا ہے۔

### قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر و وضاحت کے متعلق:-

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا جامع، مانع اور پراسرار کلام ہے جس کے صحیح معنی و مراد اس کلام کو نازل فرمانے والا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے علم سے وہ جانتے ہیں جن پر یہ مقدس کلام نازل ہوا ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

(۱) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ“ (پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۲۹)

ترجمہ:- ”اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر

تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور

انہیں خوب سترھا فرمادے۔“ (کنز الایمان)

(۲) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۱)

ترجمہ:- ”جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت

سمجھ بوجھ سے سمجھتا کرنے کی نصیحت کریں۔ ”کافر کو اے کافر کہہ کر نہیں پکارنا چاہئے“ یہ نظریہ بھی سراسر غلط اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ جس سورت کی آخری آیت ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ کی غلط تفسیر و تشریح پیش کر کے منافقین زمانہ صلح کلیت کا مہلک مرض پھیلا رہے ہیں، اسی سورت یعنی سورۃ الکافرون کی پہلی آیت تلاوت کریں:-

”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“

⊙ = پارہ: ۳۰، سورۃ الکافرون، آیت: ۱ = ⊙

ترجمہ:- ”تم فرماؤ اے کافرو!“ (کنز الایمان)

آیت کریمہ کا ترجمہ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے شروع میں لفظ ”قُلْ“ وارد ہے۔ جو ”قَوْلٌ“ مصدر کا صیغہ امر ہے یعنی لفظ ”قُلْ“ کے ذریعہ کہنے کا حکم فرماتا ہے۔ کیا کہنے کا حکم فرماتا ہے؟ اور کس کو کہنے کا؟ تو جواب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ”کافروں کو اے کافرو! کہو“ ایسا حکم اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو فرماتا ہے۔ ثابت ہوا کہ کافر کو ”اے کافر“ کہنا قرآن سے ثابت ہے۔ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ:-

⊙ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کو اے کافر کہو۔

⊙ منافقین زمانہ کہتے ہیں کہ کافر کو اے کافر مت کہو۔

قارئین فیصلہ فرمائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے یا منافقین زمانہ کا؟ کافر کو کافر کہنے یا نہ کہنے کے معاملہ میں منافقین زمانہ اٹ پٹا نگ دلیلیں پیش کر کے آپ اپنے دام میں صیاد آگیا جیسی حالت سے دوچار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ”رسی جل گئی پر بل نہیں گیا“ والی کہات پر عمل کرتے ہوئے سورۃ الکافرون کی مذکورہ آیت کی مزید اٹ سٹ تاویل کرتے ہیں۔ اُس وقت ان کی حالت ”میاں ناک کاٹنے کو پھریں بیوی کہے مجھے تھ گھڑادو“ کی طرح خراب ہوتی ہے۔

اس بحث کو مزید طول نہ دیتے ہوئے ہم اسے یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ اس عنوان کے سلسلہ میں منافقین زمانہ کی تمام ریشہ دوانیوں کا انکشاف ہم ہماری اس عنوان پر لکھی جانے

کے لئے کیوں سوال کیئے اور دریافت کیا؟ صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تھا۔ پھر بھی انہوں نے از خود قرآن فہمی کی جرأت نہ کرتے ہوئے معلم اعظم قرآن کے سامنے زانوئے ادب کیوں نہ کیئے؟ اور حضور اقدس معلم اعظم قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ نہ فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لئے بڑے علم کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باتیں بہت صاف اور صریح بیان فرمائی ہیں، ان کا سمجھنا مشکل نہیں۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہر آیت کی مفصل وضاحت و تفسیر فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں کو علوم و عرفان و حکمت سے ممتور و لبریز فرمائے۔ پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کہ ہر دور کے مفسرین کرام، ائمہ دین اور علمائے حق نے ہزاروں کی تعداد میں تفسیر قرآن اور علوم قرآن کے عنوان پر کتابیں کیوں تصنیف فرمائیں؟

### قرآن کی تفسیر:-

قرآن مجید کی تفسیر کے مختلف درجات ہیں۔ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الدین عبدالرحمن کمال بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے اپنی کتاب ”طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِينَ“ میں اس کی مبسوط بحث فرمائی ہے۔ ہم یہاں اس کا ماحصل بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر کا درجہ مفسر یعنی تفسیر کرنے والی ذات پر منحصر ہے۔ ذیل میں تفسیر کے درجات مرقوم کئے جاتے ہیں، جس سے اس حقیقت کی تفصیلی معلومات حاصل ہوگی۔

### (۱) تفسیر قرآن از قرآن:-

قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن مجید کی بعض آیتوں سے معلوم کی جاسکتی ہے بلکہ درحقیقت واقعی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی

فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔“

(کنز الایمان)

(۳) ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

(پارہ: ۲۸، سورۃ الجمعہ، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔“ (کنز الایمان)

ان تینوں آیات میں صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے رسول کو کتاب کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا ہے۔ یعنی حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم فرماتے تھے۔ اگر قرآن مجید کو ہر شخص سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت رکھتا تو پھر حضور اقدس کا تعلیم فرمانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید کے معلم اعظم کی حیثیت سے کیوں کیا گیا ہے؟ ایک ضروری نکتہ کی طرف توجہ مرکوز کرنا درکار ہے کہ قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی مادری زبان بھی خالص عربی ہے۔ یعنی قرآن مجید اہل عرب کی مادری زبان میں نازل ہوا ہے لہذا اہل عرب قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری لفظی معنوں کو سمجھنے کے لئے کسی کے محتاج نہ تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو لوگوں کو قرآن سکھانے بھیجا ہے۔ اس سکھانے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی صحیح تفہیم۔ یعنی قرآن مجید کے اسرار و رموز اور مطلب و مراد کی معلومات۔ اگر ہر جاہل اور بے علم قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری لفظی معنوں سے قرآن کی صحیح طور سے سمجھنے کی صلاحیت و لیاقت رکھتا ہے تو صحابہ کرام کو حضور اقدس نے قرآن کی تعلیم کیوں فرمائی اور صحابہ کرام نے حضور اقدس سے قرآن کی آیتوں کی صحیح فہم حاصل کرنے

ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب ہوا ہے اور وہ بہکے ہوئے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر حدیثوں میں دو طرح سے پائی جاتی ہے۔

اول:- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود اس آیت کی وضاحت

فرمائی۔ امام احمد اور امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ ”قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ

هُمْ الْيَهُودَ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى“ ترجمہ:- ”حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ“ سے یہود اور

”وَالضَّالِّينَ“ سے نصاریٰ مراد ہیں۔“

دوم:- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے دریافت کرنے پر اس

آیت کی وضاحت و تفسیر بیان فرمائی۔ مثلاً ابن مردویہ نے حضرت ابوذر

غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْيَهُودُ،

قُلْتُ الضَّالِّينَ؟ قَالَ النَّصَارَى“ ترجمہ:- ”حضرت ابوذر رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

سوال کیا ”الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ

یہود۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ”الضَّالِّينَ“ سے کون لوگ مراد ہیں؟

فرمایا نصاریٰ“

قرآن مجید کی جو تفسیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس تفسیر

کو ”تفسیر مرفوع“ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی قرآن سے کی گئی تفسیر کے بعد تفسیر مرفوع تمام

تفسیر سے عمدہ اور اولیٰ ہے کیونکہ جس مقدس ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا

مقدس کلام نازل فرمایا ہے اور انہیں تمام اسرار و رموز قرآنی سے واقف فرما کر ان کی شان میں

”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ“ کا ارشاد فرما کر انہیں قرآن مجید کے ”مُعَلِّمٌ عَظِيمٌ“ کا منصب عطا فرمایا

ہے، ان جیسا دوسرا بھلا قرآن کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے؟ لہذا قرآن مجید

ہے، ان جیسا دوسرا بھلا قرآن کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھا سکتا ہے؟ لہذا قرآن مجید

سورة الفاتحة کی آیت کریمہ :-

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ترجمہ:- ”ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا“

(کنز الایمان)

اس آیت میں ”جن پر تو نے احسان کیا“ کا جملہ مبہم ہے۔ اس میں اس بات کی

وضاحت نہیں کی کہ کن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ لہذا یہ معلوم کرنے کی ضرورت اور خواہش

ہوتی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔

سورة الفاتحة کی مندرجہ آیت میں جن لوگوں پر احسان کرنے کا ذکر ہے اس کی وضاحت

قرآن مجید کی آیت ”فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ (پارہ: ۵، سورة النساء، آیت: ۶۹) ترجمہ:- ”تو اُسے ان کا

ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید“ (کنز الایمان) سے ہوگئی۔

یعنی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان فرمایا ہے وہ انبیاء کرام،

حضرات صدیقین اور شہداء کرام ہیں۔ گویا یوں کہیں کہ سورة الفاتحة کی آیت نمبر ۶ کی تفسیر سورة

النساء کی آیت نمبر ۶۹ سے معلوم ہوئی۔

اس تفسیر کو یعنی قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کی تفسیر کو تمام تفسیروں پر اولیت

و فوقیت حاصل ہے اور تمام تفاسیر سے ان کا درجہ اعلیٰ ہے۔ کیونکہ قرآن نازل فرمانے والے

رب تعالیٰ نے ہی قرآن کی آیت کی قرآن کی آیت سے وضاحت فرمائی ہے۔

(۲) تفسیر قرآن از احادیث:-

اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود کسی آیت کی

وضاحت فرمائی ہو یا کسی صحابی کے دریافت کرنے پر آیت کی وضاحت و تفسیر فرمائی ہو۔ مثال

کے طور پر سورة الفاتحة کی آیت نمبر ۷ ”غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ“ ترجمہ:- ”نہ

ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔“ (کنز الایمان)۔ اس آیت میں بھی یہ تجسس ہوتا

کی جس کسی آیت کی مطابقت و موافقت میں احادیث صحیحہ مرفوعہ ہوں اس تفسیر کے مقابلے میں دیگر مفسرین کی تفاسیر کو اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

### (۳) تفسیر قرآن از صحابہ کرام :-

اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سماعت کی، حضور اقدس سے اس کو اچھی طرح سمجھا، پھر اس تفسیر کو صحابہ کرام نے دیگر صحابہ کرام یا تابعین عظام کے سامنے بیان کیا۔ چاہے از خود بیان فرمایا ہو۔ اس تفسیر میں انہوں نے بیعت نہ وہی باتیں بیان فرمائیں جو انہوں نے چشمہ علم نبوت سے براہ راست سماعت کیں۔ تفسیر بالا احادیث نبویہ یعنی تفسیر مرفوعہ کے بعد ”تفسیر صحابہ“ کا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کی بیان فرمودہ تفسیر کے مقابلے میں زمانہ صحابہ کرام کے بعد کے مفسرین کرام کی تفاسیر کو اہمیت نہیں دی جاسکتی بلکہ زمانہ صحابہ کے بعد کے کسی مفسر کی تفسیر کے مقابلہ میں صحابہ کرام کی تفسیر کو ترجیح و تفضل حاصل ہے۔

صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں کئی حضرات نے قرآن مجید کی تشریح و توضیح فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے مفسرین کرام کی فہرست بہت طویل ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت مبارکہ میں دس نفوس قدسیہ مفسر قرآن کی حیثیت سے زیادہ شہرت یافتہ ہیں۔ ان دس حضرات کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں۔

○ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق ○ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم ○ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان ○ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب ○ حضرت عبداللہ بن مسعود ○ حضرت عبداللہ بن عباس ○ حضرت ابی بن کعب ○ حضرت زید بن ثابت ○ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ○ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ان حضرات میں سے (۱) امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود اور (۳) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے قرآن عظیم کی تفسیر کے سلسلہ میں کثرت سے روایات وارد ہیں۔ چنانچہ :-

☆ امیر المؤمنین، مولائے کائنات سیدنا مولیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ”خدا کی قسم! تم لوگ مجھ سے جس بات کو دریافت کرو گے اس کی میں تمہیں خبر دوں گا۔ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ وہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔“

☆ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک قرآن سات حرفوں (قرأت سبعة) پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر و باطن نہ ہو اور بلاشبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔“

☆ قرآن مجید کی تفسیر از صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ”ترجمان القرآن“ کے معزز لقب سے نوازا ہے۔ ان کا مختصر تذکرہ ”منافقین آیات متشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں“ اس عنوان کے تحت صفحہ نمبر ۵۸ پر کیا گیا ہے۔

☆ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت و تفسیر کے سلسلہ میں اجلہ صحابہ کرام کی مجلس منعقد فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو نو عمری کے عالم شباب میں ہونے کے باوجود بھی اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ مدعو فرماتے تھے۔ پہلے آپ اجلہ صحابہ کرام کی رائے معلوم کرتے اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے طلب فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو رائے پیش فرماتے وہ ایسی جامع اور مانع ہوتی کہ تمام صحابہ کرام ان کی رائے سے اتفاق فرماتے اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ

حضرت سعید بن جبیر (۲) حضرت مجاہد (۳) حضرت عکرمہ اور (۴) حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

### دورتا بلعین کے بعد کے مفسرین :-

صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد کے جلیل القدر ائمہ و علماء تبع تابعین نے قرآن مجید کی تفسیر کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور تفسیر وفن تفسیر میں کتابیں تصنیف و تالیف کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان حضرات تبع تابعین کی تفسیر عین صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تفسیروں کے طرز پر تھیں۔ صحابہ و تابعین سے جو تفاسیر مروی تھیں ان میں انہوں نے ایک حرف کا فرق نہیں کیا بلکہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ صحابہ کرام و تابعین عظام کی مرویات قولی کو تحریری جامہ پہنایا لہذا ان حضرات کی تفسیروں کو تفاسیر صحابہ و تابعین کے جامع کی حیثیت سے دیکھا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ تبع تابعین کے دور میں جو حضرات مایہ ناز مفسرین کی شان سے مشہور ہوئے ان میں سے چند شہرہ آفاق مفسرین کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں (۱) حضرت سفیان بن عیینہ (۲) حضرت وکیع بن الجراح (۳) حضرت عبدالرزاق ابو بکر بن الہمام (۴) حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ (۵) حضرت اسحاق بن راہویہ (۶) حضرت روح بن عبادہ (۷) حضرت عبد بن حمید وغیرہم۔ علیہم الرحمۃ والرضوان۔

حضرات تبع تابعین کے زمانے میں تفسیر اور فن تفسیر پر تصنیف و تالیف کرنے کا جو سلسلہ آغاز ہوا تھا اس کو بعد کے زمانہ کے گروہ مفسرین نے ایسا فروغ دیا اور جو عرق ریزی فرمائی اس کے ثمرات کی حیثیت سے سیکڑوں کی تعداد میں صرف تفسیر وفن تفسیر کے عنوان پر کتابیں ارقام ہوئیں۔ جو ملت اسلامیہ کے لئے لازوال سرمایہ علم و فن ہے۔

حضرات تبع تابعین کے زمانہ سے ملحق جو زمانہ تھا یعنی تبع تابعین کے زمانہ کے فوراً بعد کا زمانہ اس زمانہ میں (۱) حضرت امام شیخ ابو جعفر بن جریر طبری (۲) حضرت ابن ابی حاتم (۳) حضرت عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد نیشاپوری (۴) حضرت محمد بن یزید بن ماجہ فزونی (۵) حضرت ابن مردویہ (۶) حضرت ابو شیخ محمد بن حبان اور (۷) حضرت بن المنذر رحمۃ

عنه تو یہاں تک فرماتے کہ ”مَنْ يُودِيْنِي فِيْ هَذَا كَأَدَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ“ یعنی ”اس آیت کے ان حقائق کو میرے سامنے اس طرح کون ادا کرے گا جیسا کہ ابن عباس نے ادا کیا ہے“

☆ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بلند مقام ہے۔

☆ مذکورہ دس اجلہ صحابہ کرام کے علاوہ ○ حضرت انس بن مالک ○ حضرت ابو ہریرہ ○ حضرت عبد اللہ بن عمر ○ حضرت جابر ○ حضرت سعید بن عاص ○ حضرت عبد اللہ بن حارث بن ہشام وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں اپنی بیش بہا خدمات پیش فرمائی ہیں۔

### (۴) تفسیر قرآن از تابعین

صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے قرآن مجید کی تفسیر سماعت کر کے اور اس کا صحیح مفہوم و مطلب معلوم کر کے تابعین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تفسیری روایتوں کو نقل فرمایا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ کے مفسرین عظام نے صحابہ کرام سے علم تفسیر سیکھا بلکہ باضابطہ علم تفسیر کی تعلیم لی۔ حضرت مجاہد کہ جن کے علم کا پایہ علم تفسیر کے سلسلہ میں ثبات و اعتماد کے درجہ میں پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:-

”میں نے تیس (۳۰) مرتبہ پورے قرآن کو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا۔ جس میں سے تین مرتبہ تو اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پر پڑھ کر اس کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ یہ آیت کب اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

☆ تابعین عظام میں جن حضرات کا شمار معتمد، مستند اور ثقہ مفسرین میں ہوتا ہے ان میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ چار شخصوں سے علم تفسیر حاصل کرو۔ (۱)

۱۵	الاكليل في استنباط التزويل	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۶	لباب المنقول في اسباب النزول	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۷	النسخ والمنسوخ	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۸	اسرار التزويل	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۹	تفسير جلالين شريف	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۲۰	البرهان في علوم القرآن	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۲۱	طبقات المفسرين	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۲۲	فوائد الابكار	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۲۳	طلوع الثريا باظهار ما كان خفيا	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۲۴	تفسير روح البیان	شيخ اسمعيل حقى بروسوى (م ۱۱۳۷ھ)
۲۵	تفسير طبرى	امام شيخ ابو جعفر بن جرير طبرى شافعى (المتوفى ۳۱۰ھ)
۲۶	عنایت القاضى حاشية على البيضاوى	امام علامه احمد شهاب الدين خفاجى المصرى (م ۱۰۶۹ھ)
۲۷	مختارات النوازل	امام شيخ برهان الدين ابوالحسن على بن ابى بكر مرغينانى
۲۸	احكام القرآن	شيخ اكبر امام ابو بكر بن العربى
۲۹	الاشارات في علم القرآن	امام احمد بن محمد خطيب المصرى القسطلانى (م ۹۲۳ھ)
۳۰	كتاب النشر	امام ابوالخير محمد بن محمد بن الجزرى
۳۱	نهايات الدراريات	امام ابوالخير محمد بن محمد بن الجزرى
۳۲	تفسير مدارك التزويل	امام علامه ابوالبركات عبداللہ بن محمود نيشاپورى (المتوفى ۷۱۰ھ)
۳۳	تفسير الوجيز	علامه امام سمين
۳۴	تفسير حسيني	علامه حسين كاشفى حنفى
۳۵	تفسير لباب التاويل	امام محى السنه علاء الدين على بن محمد بن ابراهيم بغدادى

اللہ علیہم نے صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کرام کی تفاسیر سے مستند اور منسوب کر کے بلکہ ان حضرات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایسی مبسوط اور جامع تفاسیر لکھیں جو بعد میں آنے والوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے طرز تفیسیر کو اپناتے ہوئے تفیسیریں لکھنی شروع ہوئیں اور فن تفسیر کی کتابیں تصنیف کرنے کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری ہوا اور تفسیر کی کتابیں صرف عربی زبان تک محدود نہ رہتے ہوئے دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیریں زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں۔

ذیل میں ہم صرف عربی زبان کی چند مشہور و معروف اور معتمد و معتبر تفاسیر کے نام مع اسماء مفسرین پیش کرتے ہیں۔ تفسیر کے ساتھ فن تفسیر کی کتب بھی شامل ہیں۔

۱	تفسیر ابن جریر	امام علامہ شیخ ابو جعفر بن جریر طبری (المتوفى ۳۱۰ھ)
۲	التفاسم والانواع	ابوالشیخ محمد بن حبان (المتوفى ۳۵۲ھ)
۳	الکشف والبیان فی تفسیر القرآن	ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبى نیشاپوری (المتوفى ۲۴۷ھ)
۴	تفسیر ابن کثیر	امام حافظ ابوالغداء اسمعيل قرشى دمشقى (المتوفى ۷۷۴ھ)
۵	تفسیر معالم التزويل	امام ابو محمد حسین بغوی (المتوفى ۵۱۶ھ)
۶	تفسیر بیضاوی	قاضى امام ناصر الدين ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعى (م ۶۸۵ھ)
۷	تفسیر خازن	امام علاء الدین علی بن محمد بغدادى (المتوفى ۷۲۵ھ)
۸	تفسیر کبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازى شافعى (م ۶۰۶ھ)
۹	تفسیر غائب القرآن المعروف تفسیر نیشاپوری	علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری (م ۷۵۰ھ)
۱۰	الاتقان بانواع علوم القرآن	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۱	تفسیر مجمع البحرین	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۲	الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۳	مفہمات القرآن فی مبہمات القرآن	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)
۱۴	ترجمان القرآن	اماجلال الدين عبدالرحمن بن كمال بن ابى بكر سيوطى (م ۹۱۱ھ)



اس آیت میں صاف اور صریح وضاحت فرمادی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں اسے صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بے علم اور جاہل کے لئے قرآن مجید کی مثالیں سمجھنا مشکل و دشوار ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم درکار ہے۔ اسی لئے تو حدیث کا ارشاد ہے کہ:-

حدیث:-

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ:-

”قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔“ (حوالہ:- مشکوٰۃ شریف، صفحہ: ۳۵)

”قرآن سیکھو“ اس جملہ سے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ یہ ارشاد گرامی صحابہ کرام سے ہے۔ کب ہے؟ کہاں ہے؟ جواب یہ ہے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پہلے سرزمین عرب پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اہل عرب کی زبان عربی تھی۔ ہر شخص عربی زبان پڑھ یا بول سکتا تھا۔ ان کی مادری زبان عربی تھی لہذا قرآن شریف ناظرہ پڑھنا ان کے لئے کوئی دشوار کام نہ تھا بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری ترجمہ اور الفاظ کے معنی و مطلب سے بھی واقف تھے۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ”قرآن سیکھو اور سکھاؤ“ یعنی قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سیکھو مراد نہیں بلکہ تم ناظرہ یا لفظی ترجمہ جانتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہو لہذا اس کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے علوم ظاہری باطنی، اسرار و رموز اور معنی و مطلب سے واقفیت رکھنے والے علماء سے قرآن مجید کی وضاحت و تفسیر کا علم سیکھو اور جب تم اس علم سے واقفیت حاصل کر لو تو دوسروں کو سکھاؤ۔ گروہ منافقین کے بعض جہلاء اس حدیث سے صرف ناظرہ پڑھنا اور آیات کا ترجمہ معلوم کرنا کے معنی اخذ کرتے ہیں۔ جو سراسر غلط ہے۔ جس زمانہ

تفسیر اور فن تفسیر کے عنوان سے اکابر علماء ملت اسلامیہ کو کتنی دلچسپی تھی اور اس عنوان پر کتابیں لکھنے میں انہوں نے کیسی سعی بلیغ فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس حقیقت سے ہو جائے گا کہ اس عنوان میں خاتم الحفاظ، امام اجل، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اکیل کل بتیس (۳۲) کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے چودہ (۱۴) کتابوں کے ہی نام ہم نے مندرجہ فہرست میں درج کئے ہیں۔ الحاصل! اس عنوان میں ملت اسلامیہ کے ائمہ و علماء نے اتنی کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ جس کا حصر ممکن نہیں۔

اگر بقول امام منافقین زمانہ مولوی اسماعیل دہلوی ”ہر شخص پھر چاہے وہ بے علم اور جاہل ہو، قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی وضاحت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے“ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ خیر القرون سے لے کر آج تک صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، علماء عظام اور مفسرین کرام نے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے رات دن ایک کر کے اتنی محنت و مشقت کیوں کی؟ تفسیر اور فن تفسیر کے عنوان پر معرکتہ الآراء و نادیر زمن کتب تصنیف کرنے کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کیوں کیا؟ ان کو کیا ضرورت تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے اتنی عرق ریزی کرتے؟ بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ماہرین علم تفسیر کے سامنے زانوئے تلمیذ کیوں تہ کئے؟ صرف اسی لئے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے معنی، مطلب اور مراد کی صحیح تفہیم کے لئے وسیع علم ہونا درکار ہے۔ بے علم اور جاہل قرآن کو کیا سمجھے گا؟ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ“

(پارہ: ۲۰، سورۃ العنکبوت، آیت: ۳۳)

ترجمہ:- ”اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔“ (کنز الایمان)

امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-  
”جو شخص قرآن شریف میں اپنی رائے کے مطابق معنی بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے معنی اور مطلب میں اپنی رائے کو دخل دینا جہنم میں اپنا ٹھکانہ مقرر کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد اقدس ہے کہ:-

حدیث:-

امام ترمذی نے حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدَائِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ“

ترجمہ:- ”جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور اتفاقاً وہ قول صحیح بھی ہو جب بھی وہ کہنے والا خطا کا رہے۔“ (حوالہ:- مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۵)

یعنی کسی شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت میں بغیر کسی علم کے صرف اپنی رائے کو دخل دیتے ہوئے اس آیت کی وضاحت و تفسیر بیان کی اور اتفاقاً اس کے بیان کردہ وضاحت تفسیر ماثورہ کے مطابق تھی پھر بھی وہ گنہگار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس نے گپ لگائی اور وہ گپ سچ نکلی پھر بھی وہ خطاوار ہے کیونکہ اس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا ہے۔ جو ممنوع و مذموم ہے۔

لیکن افسوس! صد افسوس!! ہزار افسوس!!! کہ:-

دور حاضر کے منافقین نے جہلاء مبلغوں کی فوجیں کھڑی کر دی ہیں جو فنون قرآنیہ اور قرآن فہمی سے یک لخت جاہل ہوتے ہیں۔ دوچار آیتوں کے تراجم رٹ لیتے ہیں اور نمبر خطابت و مسند و عظم پر چڑھ جاتے ہیں اور مطلق العنان مقرر و مفسر کی حیثیت سے لشٹم پشٹم ایسے غلط سلسلے معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ ہی کہنا پڑتا ہے۔

ظاہری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تب قرآن پڑھنے والے خالص عربی زبان کے ماہر تھے۔ آیت کا لفظی معنی وہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کا حکم فرما کر اشارۃً و کنایۃً تنبیہ فرمادی کہ اے قرآن مجید کے پڑھنے والو! تم قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری اور لفظی معنی پر ہی اکتفاء مت کرو بلکہ قرآن مجید کے صحیح تفہیم کے لئے اہل علم حضرات سے قرآن کی آیتوں کے اسرار و رموز معلوم کرو تا کہ تمہیں قرآن فہمی حاصل ہو اور قرآن کی آیتوں کے مطلب و مراد کو سمجھ سکو۔

دراصل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”قرآن سیکھو اور سکھاؤ“ کا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ ایسا جامع اور مانع ہے کہ صرف ایک جملہ میں حضور اقدس نے بہت کچھ فرمادیا ہے۔ پہلی بات تو علم القرآن سیکھنے کے متعلق جو مندرجہ بالا مذکور ہوئی۔ دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مقدس جملہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی رائے کو دخل دینے سے منع فرمادیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیتوں کے لفظی معنی تو اُس زمانہ کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے لہذا قرآن مجید کی آیت کے لفظی ترجمہ کے ضمن میں کوئی اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دے اس لئے حکم فرمایا کہ قرآن کی وضاحت پہلے تم سیکھو تا کہ تم اپنی رائے کو دخل نہ دو بلکہ وہ کہو جو تم نے اہل علم حضرات مفسرین سے سنا اور سیکھا۔ بعدہ لوگوں کو بھی وہی سیکھاؤ جو تم نے سیکھا ہے تا کہ دوسرے لوگ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینے سے اجتناب و پرہیز کریں۔

قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دینے کی سخت ممانعت اور وعید وارد ہے ”منافقین آیات متشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں۔“ اس عنوان کے تحت صفحہ نمبر ۵۶ پر ہم نے تین احادیث کریمہ تلاوت کیں ہیں۔ ان تین احادیث میں سے ایک حدیث کا صرف ترجمہ معزز قارئین کرام کی یاد دہانی کے لئے اعادۃً پیش خدمت ہے۔

حدیث:-

(۲) آیات متشابہات (۳) آیات منسوخات اور (۴) آیات ناسخات پر ہی بہت مختصر مگر کافی دانی و شافی گفتگو کی ہے۔ طول تحریر کے خدشہ و خوف کی وجہ سے دیگر اقسام پر کچھ بھی بحث نہیں کی۔ آیات مبہمات کا عنوان ہی اتنا طویل ہے کہ صرف اسی عنوان کی تفصیلی بحث کے لئے ایک ضخیم کتاب درکا ہے۔ الحاصل! قارئین کرام کو یہاں تک کی گفتگو سے یقین کے درجہ میں یہ بات باور ہو چکی ہوگی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت اور تفسیر کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ جب تک اتنا علم نہ ہو کہ آیات کے اقسام کی تمیز، آیت میں جس واقعہ کا اشارہ تکرار ہو اُس واقعہ کی مکمل واقفیت، حقیقت و مجاز کا فرق، وغیرہ علوم و اسرار کے فہم کی استعداد نہ ہوگی وہاں تک وہ آیت کے مطلب و مراد کی بوتک نہیں پاسکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب خود نہیں سمجھ سکتا تو دوسروں کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو گمراہیت کے دلدل میں پھنستا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پھانستا ہے اور فضلاً و اضلاً کا مصداق بنتا ہے۔ ایسا جاہل و کم علم شخص جب قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ اور وضاحت کرتا ہے تب قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور ایسی مہلک اور جان لیوائی ایمان ٹھوکریں کھاتا ہے کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت عظیمہ **تَقُلُ إِنَّمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** اس آیت کے علاوہ دیگر بہت سی آیتوں کے تراجم میں منافقین زمانہ نے وہ افراتفری اور کھلبلی مچائی ہے کہ جس کو سن کر اہل ایمان کی روح ایمانی مجروح ہو جاتی ہے۔ آیت متشابہ کا مطلب و مراد واضح ہونے کے بجائے مزید دھندلا ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ہم وہ چند آیات بطور مثال پیش کرتے ہیں جن میں منافقین زمانہ نے افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے گمراہیت کی ”آگ لگائے تماشا دیکھے“ والی مثل کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔

یہاں تک کہ گفتگو سے قارئین کرام اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے کہ دورِ حاضر کے منافقین قرآن مجید کی منسوخ اور متشابہ آیات کے من گھڑت تراجم اور من چاہی وضاحت کر کے ملت اسلامیہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہدایت و نجات کی صراطِ مستقیم پر یا ضلالت و گمراہی کی سنگلاخ راہِ دشوار پر؟ مثلاً:-

نمبر	اللہ اور رسول کا فرمان ہے کہ:-	منافقین زمانہ کا کہنا ہے کہ:-
۱	قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے علم چاہئے، ہر شخص میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں بلکہ علم والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ (پارہ: ۲۰، سورۃ العنکبوت، آیت: ۴۳)	اللہ و رسول کے کلام کو سمجھنے کے لئے علم نہیں چاہئے بلکہ ہر نادان اور جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ عالموں کے سوا اللہ و رسول کا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ بات غلط ہے۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۳)
۲	جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ (مشکوٰۃ شریف)	ہر عام و خاص یعنی ہر جاہل و عالم اللہ و رسول کے کلام میں جستجو کریں اور اس کو سمجھیں۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۵)
۳	قرآن مجید کی بعض آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور بعض آیتوں کے معنوں میں اشتباہ ہے یعنی جن کے معنی صاف اور مراد واضح نہ ہو۔ (پارہ: ۳، سورۃ ال عمران، آیت: ۷)	قرآن مجید کی باتیں بہت صاف اور صریح ہیں ان کا سیکھنا مشکل نہیں۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۳)

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے؟ یا منافقین زمانہ کی بات ماننی ہے؟

قارئین کرام کی خدمت عالی میں فقیر راقم الحروف کی ایک مزید گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے اقسام میں سے ہم نے صرف چار (۴) اقسام (۱) آیات محکمات

طور پر لفظ ”مکر“ عربی زبان میں ”خفیہ تدبیر کرنا“ اور دشمن کو غافل کر کے اس پر ضرب لگانے کی تدبیر“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی مذموم نہیں بلکہ مستحسن ہیں۔ لیکن لفظ ”مکر“ اردو زبان میں بُرے اور فبیح معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام کی شان میں ایسے الفاظ کا اردو زبان میں استعمال سخت ممنوع ہے۔ اس کی وضاحت ذیل میں درج ہے۔

منافقین زمانہ نے قرآن نہی سے ناواقفیت ہونے کے باوجود بھی ”کو اچلا ہنس کی چال اپنی ہی بھول گیا“ والی مثل کے مصداق بنتے ہوئے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کرنے کی شوخی اور بے باکی کر کے اللہ و رسول کی شان میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہر مؤمن کے ایمانی جذبات کو شدید ٹھیس لگتی ہے۔ ایسے جاہل کٹھ ملاؤں کے تراجم کو علمی ترجمہ اور ان ملاؤں کو مفسر اعظم کا لقب دیتے ہوئے منافقین کی ٹولی کے اجہل مبلغین ان تراجم پڑھنے کی تلقین و ترغیب دلا کر قوم کو گمراہیت کے جال میں پھانسنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان اندھی تقلید کرنے والوں کے لئے یہی کہنا مناسب ہے کہ کو اناک لے گیا، ناک کو نہیں دیکھتے کوئے کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں۔

ذیل میں منافقین زمانہ کے پیشواؤں کے چند تراجم پیش خدمت ہیں:-

آیت ۱:- اللہ تعالیٰ کی شان میں لفظ ”مکر“ کا استعمال:-

”وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ“

(پارہ ۳: سورہ ال عمران، آیت: ۵۴)

اس آیت کا ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے استاذ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے اس طرح کیا ہے کہ:-

”اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤب سے بہتر ہے۔“

اس ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لفظ ”مکر“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم اردو لغت میں ”مکر“ کے کیا معنی ہیں وہ ٹھولیں:-

## ”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ“ کی طرح دیگر آیات قرآنیہ میں بھی منافقین زمانہ کے غلط تراجم

قرآن مجید کو صحیح معنی، مطلب، مفہوم اور مراد میں سمجھنے کے لئے کئی قوانین، اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ وسیع پیمانے پر علم حاصل ہو خصوصاً قرآن مجید میں مذکور واقعات کی مکمل اور صحیح واقفیت، احکام شریعت مثلاً اور منوانہی، فرائض منہیات، حلال و حرام کی بالاستیعاب معلومات وغیرہ لازمی اور ضروری ہے۔ ان لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ آیت کا ترجمہ کرتے وقت ایسے الفاظ کا قطعاً استعمال نہ کیا جائے جن سے بارگاہ الوہیت اور بارگاہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام میں کسی قسم کی توہین و بے ادبی نہ ہو، توہین و بے ادبی ہونا تو بہت بڑی بات ہے لیکن اُن الفاظ کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیئے جو اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی شان کے لئے لائق اور زبیا نہ ہوں۔ علاوہ ازیں ترجمہ اور تفسیر کرنے والے کے لئے اتنا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں کسی کی صفت ذکر کی گئی ہو تو وہ تمیز کر سکے کہ یہ حقیقہ کہا گیا ہے یا مجازاً۔ اگر حقیقت و مجاز کے فرق کی نیکی صلاحیت نہیں ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قرآن مجید کے ترجمہ، تفسیر، تشریح اور توضیح کے سلسلہ میں ہاتھ میں قلم تھام کر اسے ایمان کے لئے مہلک شمشیر بڑاں بنائے۔ لہذا لغت کا علم بھی ضروری ہے۔ صرف عربی زبان کی لغت پر ہی اکتفاء نہ کرے بلکہ جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہو اس زبان کی لغت سے بھی کامل طور پر واقفیت کا حامل ہو کیونکہ زبان یعنی بھاشا کے بدلنے سے لفظی ترجمہ میں توہین کا شائبہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یعنی ایک لفظ کسی زبان میں اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ دوسری زبان میں بُرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے لہذا ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب و پرہیز بھی لازمی ہے۔ مثال کے

(حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۱۴)  
 قارئین کرام انصاف فرمائیں! جو شخص اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ”سُبُوْح“ اور ”قُدُّوْس“ مانتا ہو، وہ شخص اللہ رب العزت کے لئے دھوکہ دینا اور فریب کرنا کے لغوی معنوں والی صفت ”داؤ کرنا“ کا انتساب کر سکتا ہے؟

آیت ۳:- اللہ تعالیٰ کے لفظ ”دعا“ کا استعمال:-

”إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ“

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۱۴۲)

ترجمہ از مولوی محمود الحسن دیوبندی:-

”البتہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دعا دے گا“  
 اس ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو ”دعا دے گا“۔ کسی کو دعا دینا فعل فیتج اور معیوب ہے۔ لغت میں ”دعا دینا“ کے کیا معنی ہیں وہ دیکھیں:-

⊛ دعا دینا = دھوکہ دینا، فریب دینا، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۳۰)

اللہ سبحنہ و تعالیٰ کی مقدس ذات کی صفت میں ایسے الفاظ منسوب کرنا سخت توہین و بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی تفصیلی وضاحت بخوف طوالت تحریر نہیں کرتے۔ جن حضرات کو اس عنوان کی مفصل تشریح درکار ہو وہ امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا رسالہ ”سُبْحٰنُ الْمَقْبُوْحِ عَنْ عَيْبِ كِذْبِ الْمَقْبُوْحِ“ کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

منافقین زمانہ نے مندرجہ بالا آیت کے ترجمہ میں بڑی گڑبڑی کی ہے اور شان الوہیت میں نادرست، ناراست، ناشائستہ، نامناسب اور نامعقول الفاظ کا استعمال کر کے سوء ادبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب قرآن نامہنی اور ادب و احترام کے فقدان کا نتیجہ ہے۔

اب اس آیت کا ایمانی و عرفانی ترجمہ ملاحظہ ہو۔

⊛ مکر = دھوکا، فریب، دغا، چھل، چالاک، عیاری، چال، حیلہ، بہانہ، جھوٹ، بہروپ، بھیس، ریا، نفاق، دورنگی، نفاق، خلاف واقع بات۔

(حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۲۷)

مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کافروں کی دغا، دھوکہ اور فریب پر مشتمل حرکت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور حکمت کو، ایک ہی لفظ، ”مکر“ سے متصف کیا ہے۔ جس لفظ ”مکر“ کا استعمال دغا، دھوکہ اور فریب جیسی متبذل صفات کے لئے ہوتا ہے وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال کر کے بارگاہ الوہیت میں بے ادبی کی ہے۔

آئیے! اس آیت کا ایمانی و عرفانی ترجمہ دیکھیں:-

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے چھپی تدبیر والا ہے۔“

(کنز الایمان از:- امام احمد رضا محدث بریلوی)

آیت ۲:- اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”داؤ“ کا استعمال:-

”وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ“

(پارہ: ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۳۰)

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ:-  
 ”اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔“

اس ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے لئے ”داؤ کرنا“ کی صفت منسوب کی گئی ہے۔ ”داؤ کرنا“ متبذل صفت ہے، جس کی نسبت خدائے تعالیٰ کے لئے جائز نہیں۔ لغت میں ہے کہ:-

⊛ داؤ کرنا = دھوکہ دینا، فریب کرنا، کشتی میں بیچ کرنا۔

طاہری لغوی معنوں پر اکتفاء کر کے سبکدوش ہو گئے۔ میرٹھی صاحب نے آیت کے الفاظ کا حسب ذیل طریقہ سے ترجمہ کر دیا:-

✪ وَ= اور ✪ عَصَى= نافرمانی کی ✪ آدَمُ= آدم نے ✪ رَبِّهِ= اپنے رب کی ✪ فَعْوَى= پس گمراہ ہوئے۔ اس طرح ترجمہ کرنے سے جملہ بنا ”اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے“ عربی لغت میں ”عَصَى“ کے معنی ”نافرمانی کی“ کے ضرور ہوتے ہیں۔ لفظ ”عَصَى“ فعل ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ”فَعْوَى“ کے معنی ”گمراہ“ ہونے کے ہوتے ہیں لیکن عربی زبان کی لغت کی ایسی وسعت ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ”عَصَى“ کا صرف ایک معنی ہی نہیں بلکہ کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں سے ایک معنی ”لغزش“ بھی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور لغزش چونکہ لفظ ”عَصَى“ کے معنی میں وارد ہیں لیکن ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی ہونے کے باوجود دونوں میں معنوی اور عرفی اعتبار سے بہت فرق ہے۔ ”نافرمانی“ اس جرم کو کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا حاکم کے حکم اور قانون کو خاطر میں نہ لائے اور لا اعتنائی سے گناہ پر جرأت کرے اور قصداً و عمداً حکم اور قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس جرم کے ارتکاب کے وقت اسے معلوم ہو کہ میں حکم اور فرمان قانون کو توڑ رہا ہوں۔ جب کہ لغزش ان قباحتوں سے ملوث نہیں ہوتی۔ لغزش کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بہکاوے میں آ کر یا سہواً قانون کی کامل طور پر بجا آوری میں ڈگمگا جائے اور اس کے استقلال میں فرق آجائے۔ علاوہ ازیں نافرمانی کا اطلاق گناہ کے مستقل عادی، رزیل، جرائم پیشہ اور قصداً قانون توڑنے کی ذہنیت رکھنے والے عوامی اور نجیبی، ملکی سطح کے افراد پر ہوتا ہے۔ نیک، پارسا، فرمانبردار، ذی شعور، مطیع، متقی، پرہیزگار، ذی مرتبت، مقرب، معزز، معظم، اولوالعزم اور اعلیٰ درجات کے حامل اشخاص سے جب حکم اور قانون کی کامل طور سے بجا آوری میں فرق واقع ہوتا ہے تو اسے ”لغزش“ کہا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر، اولوالعزم، رفیع الدرجات اور ذی مرتبت ”نبی“ تھے۔ علاوہ ازیں نافرمانی کا لفظ حکم نہ ماننے اور سرکشی کرنے کے معنی میں ہے۔ حکم نہ ماننا اور سرکشی کرنا یقیناً گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبی گناہوں سے

”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔“ (کنز الایمان)

آیت ۴:- حضرت آدم کیلئے ”گمراہ“ اور ”نافرمانی“ کے الفاظ کا استعمال:

”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۲۱)

دیوبندی مکتبہ فکر کے نامور مصنف اور مورخ جنہوں نے ”تذکرۃ الرشید“ کے نام سے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی اور ”تذکرۃ الخلیل“ کے نام سے مولوی خلیل احمد صاحب اینٹھوی کے سوانح عمری لکھی ہے، وہ مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے۔“

حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولوالمرتبہ کا بھی پاس اور لحاظ نہ کرتے ہوئے جناب میرٹھی صاحب نے ”نافرمانی“ اور ”گمراہ“ کے توہین آمیز الفاظ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر خدا ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ”معصوم“ ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یقیناً گناہ ہے۔ علاوہ ازیں تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کا ”گمراہ“ ہونا محال ہے۔ یہ بات تو بے پڑھے لکھے عوام بھی جانتے ہیں۔ جو بات عوامی سطح کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ایسی سیدھی بات سے بھی منافقین زمانہ کے بڑے بڑے القاب اور ٹائٹل والے ملا اور مولوی حضرات ناواقف ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔

فارسی زبان کی ایک مشہور کہادت ہے کہ ”یک من علم را دہ من عقل باید“، یعنی ”ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیئے“۔ ”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ کا ترجمہ کرتے وقت مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے عقل پر پردہ ڈال رکھا ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت عقل و فہم کو لحظہ بھر بھی زحمت نہیں دی اور آیت کے الفاظ کے

”حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس راندہ درگا ہو کر مردود ہوا تھا۔ اسے یقین کی درجہ میں معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب ہی مجھ پر تباہی آئی ہے لہذا اس کے دل میں انتقام کی آگ شعلہ زن تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی ان کی طرف عداوت اور اس کے مکر و فریب سے متنبہ و آگاہ فرما دیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ

”فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۱۷)

ترجمہ:- ”تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے“ (کنز الایمان)

حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بدلا لینے کے لئے شیطان بے چین و بے قرار تھا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے لہذا میں بھی کوئی ایسی چال چلوں کہ حضرت آدم کو بھی جنت سے نکلتا پڑے۔ لہذا اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کی چال چلی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے ایک درخت کے پاس نہ جانے کی ممانعت فرمائی تھی ”وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ (پارہ: ۱، البقرہ، آیت: ۳۵) ترجمہ:- ”اور اس بیڑ کے پاس نہ جانا“ (کنز الایمان)۔ لہذا شیطان نے حضرت آدم کو اس پیڑ کے معاملہ میں دھوکہ دینے کی تدبیر و ترکیب کی۔ ”فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۲۰) ترجمہ:- ”تو شیطان نے اُسے وسوسہ دیا۔ بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔“ (کنز الایمان) یعنی شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل یادانا کھالیں گے تو ہمیشہ کے لئے آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ شیطان کی اس تجویز کا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف انکار فرما دیا لہذا ”وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ“ (پارہ: ۸، سورۃ الاعراف، آیت: ۲۱) ترجمہ:- اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ

یقینی طور پر ”معصوم“ ہیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات گرامی کو ”نافرمانی“ کی صفت سے متصف و منسوب کرنا بارگاہ نبی میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ مذکورہ آیت میں وارد لفظ ”فَعَوَى“ کا ترجمہ میرٹھی صاحب نے ”گمراہ ہونے“ کیا ہے۔ لفظ ”فَعَوَى“ پر علم صرف و نحو کے ضوابط و اصول کے تحت بحث نہ کرتے ہوئے اختصاراً عرض کرنا ہے۔ کہ عربی زبان کی وسیع لغت کے اعتبار سے ”فَعَوَى“ لفظ کے متعدد معنی ہیں۔ مثلاً

☆ مقصد پورا نہ ہونا ☆ مراد و مطلب نہ ہونا ☆ کسی چیز کا گم ہو جانا ☆ ہاتھ سے نکل جانا ☆ کسی شے کا فوت ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام معنوں سے لا ابالی ہو کر میرٹھی صاحب نے صرف ”گمراہ ہونے“ کا معنی ہی اخذ کیا۔ گمراہیت سے ایسا لگاؤ ہے کہ دیگر موزوں اور واقعہ سے مناسبت رکھنے والے معنوں سے انحراف کر کے ”گمراہ ہونے“ کے گمراہ کن معنی کرنے کی گمراہیت اپنائی۔

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں زمانہ ماضی کے کسی واقعہ کا تذکرہ ہو تو اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت مترجم کے ذہن میں اس واقعہ کی من و عن تفصیل ہونی چاہئے تاکہ وہ اس واقعہ کی مناسبت سے آیت کا ترجمہ کر سکے۔ اور آیت کا ترجمہ ایسا ہو کہ صرف ترجمہ سے ہی اس واقعہ کی اصل نوعیت کا نقشہ سامنے آجائے یعنی ترجمہ کرنے والا آیت کی تفسیر کی معلومات اور واقفیت سے مناسب الفاظ میں موزوں ترجمہ کرے یعنی تفسیر سے ترجمہ سمجھے اور ترجمہ پڑھنے والا ترجمہ پڑھ کر ہی تفسیر کی قدرے معلومات حاصل کرے۔ اگر ترجمہ کرنے والا اصل واقعہ کو ذہن سے ہٹا کر صرف لفظی ترجمہ کرے گا تو آیت کا مفہوم و مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور ایک قسم کا انتشار و تردد قائم ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت کے ترجمہ میں مولوی جناب عاشق الہی میرٹھی صاحب نے گڑبڑی برپا کی ہے۔

آیت کریمہ ”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے گیہوں کا دانہ تناول فرمایا نتیجتاً آپ کو جنت سے عالم دنیا میں تشریف لانا پڑا۔ اب اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے وہ معلوم کریں:-

نہ تھی لہذا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی قیاس فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو درخت سے کچھ لے کر نہیں کھایا تھا بلکہ حضرت ءآ نے آپ کو جو دیا تھا وہی کھایا تھا۔ بہر صورت ان تینوں صورتوں میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عمداً و قصداً اللہ کی نافرمانی کرنے کے ارادے سے کچھ نہیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا وہ قیاس کی بناء پر کیا تھا اور آپ سے اجتہاد میں خطا ہوئی تھی اور اجتہادی خطا شرعاً گناہ نہیں۔ لہذا اس اجتہادی خطا کو ہرگز ”نافرمانی“ نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس کو ادب کے دائرہ میں رہتے ہوئے ”غزش“ ہی کہنا پڑے گا۔

☆ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں ”دخول ابدی“ یعنی ہمیشہ رہنے اور کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے مقصد سے ہی ”شجر خلد“ سے کھایا تھا۔ لیکن آپ کا جنت میں دائمی رہنے کا مقصد پورا نہ ہوا اور آپ کو جنت سے باہر تشریف لانا پڑا۔ اس وقوعہ کو مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ”گمراہ ہونے“ سے معنوں اور تعبیر کیا ہے۔ یعنی ”جنت سے باہر آئے“ کا مطلب ”گمراہ ہونے“ کیا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے عالم دنیا میں تشریف لائے تب گمراہ تھے؟ دور حاضر کے منافقین حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گمراہ ہونے کا قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ میرٹھی صاحب نے آیت کا ترجمہ کرتے وقت اصل واقعہ کو پیش نظر نہیں رکھا اور ”غوی“ لفظ کا لغوی معنی ”گمراہ“ کر کے بکھیرا کھڑا کر دیا۔ اس آیت کے لفظ ”غوی“ کا ترجمہ ”گمراہ ہونے“ کرنا اصل واقعہ سے ذرہ بھر بھی مناسبت نہیں رکھتا، علاوہ ازیں اللہ کے مقدس نبی کی شان میں گمراہ ہونے“ لکھنا یا کہنا سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ منافقین زمانہ کو انبیاء کرام کی شان میں توہین آمیز جملے لکھنے یا کہنے میں کون سا لطف آتا ہے؟ غالباً انہوں نے انبیاء کرام کی شان میں توہین کرنے کا نام ہی ”توحید“ رکھ دیا ہے۔ ہر وقت اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ لگ لپٹ کر کسی طرح بھی انبیاء کرام کی شان میں

ہوں۔“ (کنز الایمان) یعنی شیطان نے خدا کی جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے بایں خیال حضرت آدم اور حضرت ءآ کو جنت سے عالم دنیا میں تشریف لانا پڑا۔ یعنی آپ نے جس مقصد کے لئے درخت سے کھایا تھا وہ مقصد یعنی جنت میں ہمیشہ کے لئے رہنے کا مقصد پورا نہ ہوا اور آپ کو جنت کی سکونت ترک فرما کر جنت سے باہر تشریف لانا پڑا۔“

یہ ہے اصل واقعہ۔ اب اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس واقعہ کا جس آیت میں ذکر ہے یعنی ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ اس کا مولوی عاشق الہی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمہ ”اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پیش گمراہ ہونے“ کو ملاحظہ فرماؤ اور اصل واقعہ اور میرٹھی صاحب کے ترجمہ کا تقابل کرو تو کسی طرح بھی تطبیق و توافق نہیں پایا جاتا کیونکہ:-

☆ حضرت آدم نے شیطان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ”شجر خلد“ (جنتی درخت) کا دانہ یا پھل کھایا۔ اس کو مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ”رب کی نافرمانی“ سے موسوم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب نہ جانے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے باوجود بھی حضرت آدم نے اس درخت سے کھایا اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور یہ ”رب کی نافرمانی“ ہے۔

اس فاسد وضاحت کے رد و ابطال میں دلائل قاہرہ ساطعہ سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن راہ اختصار اپناتے ہوئے عرض ہے کہ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ ”لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ کی جو ممانعت ہے وہ تزیہی ہے تحریمی نہیں۔ اگر آپ اس ممانعت کو تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے۔ اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ اس درخت سے کچھ کھانا یا نہیں کھانا ایسی کوئی وضاحت حکم میں



اگر کسی شخص نے انگریزی زبان سیکھ لی اور لغت کی بھی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی پھر وہ بازار سے کسی بگ اسٹال سے طبابت یعنی ڈاکٹری کے فن کی دو چار کتابیں خرید لایا اور اس کو پڑھ ڈالو تو طاہری بات ہے کہ اس کو فن طبابت کی قدرے معلومات حاصل ہوگی۔ وہ شخص صرف اتنی ہی معلومات کے بل بوتے پر دو خانہ کھول کر بیٹھ جائے اور اپنے کو طبیب حازق سمجھ کر لوگوں کے علاج معالجے شروع کر دے اور رفتہ رفتہ وہ جراحی (Oparetion) کرنا شروع کر دے تو کیا انجام ہوگا؟ کیا کوئی عقلمند ایسے جعلی جراح (Surgeon) کے پاس آپریشن کرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ایسے سرجن کے آپریشن ٹیبل پر لیٹنا اور جنازہ میں لیٹنا دونوں برابر ہے یعنی سامنے سے چل کر موت کی آغوش میں لیٹنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ”نیم حکیم خطرہ جان“ ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے قوانین صرف ونحو اور لغت کی قدرے معلومات حاصل ہونے پر کوئی شخص اپنے کو ماہر مفسر اور مترجم گردان کر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی جرأت کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان کا طوطا ہی اڑ جائے گا۔ ایسے جفا شعار، کور چشم و باطن، گستاخ و بے ادب کا ترجمہ پڑھنے سے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ ”نیم ملا خطرہ ایمان“ ہوتا ہے۔ دور حاضر کے منافقین کے پرانے پرانے چوٹی کے سیانے پیشواؤں کے قرآنی تراجم کا جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن نہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے گمراہ کن تراجم کو دھوم دھانی سے روحانی اور عرفانی تراجم میں شمار کرانے اور کرنے کا دھوم دھڑکا مچایا جاتا ہے۔ اہل ایمان ایسے مفسد العقائد اور مہلک الایمان تراجم سے کنارہ کش ہو کر اجتناب و احتراز کریں۔

تنتقیص کی جائے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی یہی جستجو کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی توہین کا پہلو مل جائے۔ حالانکہ پورے قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی بھی لفظ میں کسی بھی نبی و رسول کی توہین و تنتقیص تو درکنار بلکہ ان مقدس حضرات کی شان ارفع و اعلیٰ کے لئے موزوں نہ ہو ایسا خطاب بھی نہیں فرمایا گیا۔ اس آیت کے لفظ ”غوی“ کا ”گمراہ ہونے“ ترجمہ واقعی حیرت و تعجب خیز ہے۔ اگر منافقین زمانہ سے اس ”گمراہ ہونے“ کے ضمن میں سوالات کیئے جائیں کہ گمراہ ہونے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کب گمراہ ہوئے؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ گمراہی اعتقادی تھی یا عملی تھی؟ اگر اعتقادی تھی تو کن عقائد میں تھی؟ اگر عملی تھی تو اوامر میں تھی یا نواہی میں؟ گمراہی علانیہ تھی یا خفیہ تھی؟ اس گمراہی کا دوسروں پر کیا اثر پڑا؟ یہ گمراہی عارضی تھی یا مستقل؟ عارضی تھی تو کتنے عرصہ تک تھی؟ پھر کب ہدایت حاصل ہوئی؟ اور کیونکر ہوئی؟ وغیرہ وغیرہ سوالات پیش کر کے قرآن و حدیث کے ثبوت سے جوابات طلب کیئے جائیں تو دن میں تارے نظر آئے لگیں گے۔

اس آیت کا امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایسا ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے کہ اس ترجمہ سے اصل واقعہ کو مکمل طور سے مناسبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے مقدس نبی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادب کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:-

”اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہتا اس کی راہ نہ پائی۔“ (کنز الایمان)

**تفسیر:-** ”یعنی اس درخت کے کھانے سے دائمی حیات نہ ملی۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۷۶)

الحاصل! قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی ہر کس و ناکس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ وسیع پیمانے پر علم ہونے کے ساتھ ساتھ نور ایمان کی بصیرت ہونا بھی لازمی ہے۔ آیت کے الفاظ کے لغوی معنی لکھ دینے سے ترجمہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف لفظی و لغوی ترجمہ کر کے اپنے آپ کو ”ترجمان القرآن“ یا ”مترجم قرآن“ کہلانے والے ”ٹوٹی ٹانگ، ہاتھ نہ پاؤں، کہے چلوں گھوڑوں کے ساتھ“ والی مثل کے مصداق بنتے ہیں۔

میں کر دی ہے۔ منافقین زمانہ کے جہلاءِ مبلغین میں سے اکثر و بیشتر کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیاتِ تشابہات کس کو کہتے ہیں۔ لہذا وہ ہمیشہ علمی بحث سے گریز ہی کرتے ہیں۔ ایسے گریز پا بھگوڑوں کو آسان علمی دلیل سے دبوچنا چاہیے۔ بلکہ آیت کے ظاہری لفظی معنوں کو پیش کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے، وہی طریقہ بطور حجت اختیار کر کے ”جس کی جوتی اس کے سر“ والی مثل اپنانی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت کے ظاہری لفظی معنی پیش کر کے منافقین زمانہ کو مات دینے کے لئے ذیل میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ جن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے سے منافقین زمانہ دم بخود ہو کر رہ جائیں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ وحیہ)

### ○ دلیل نمبر ۱:-

عام طور سے مسلمان کو ”مؤمن“ کہا جاتا۔ مؤمن کی جمع مؤمنین ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان کو ”مؤمن“ اور مسلمانوں کو ”مؤمنین“ کہا گیا ہے۔ مؤمن کا لفظ مسلمان کے معنی میں رائج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ”مؤمن“ ہوں تو اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ عوام و خواص لفظ مؤمن کو مسلمان کے معنی اور مطلب میں استعمال کرتے ہوئے بولتے ہیں مثلاً پیارے ”مؤمن بھائیو“ یا ”معزز مؤمن بھائیوں کو معلوم ہو“ وغیرہ۔ الحاصل مسلمان کو قرآنی اصطلاح میں اور عام اصطلاح میں بھی مؤمن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔ ہم صرف ایک آیت تلاوت کرتے ہیں:-

☆ **”وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ“**

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۲۱)

ترجمہ:- ”اور بے شک مسلمان غلامِ مشرک سے اچھا ہے۔“ (کنز الایمان)

**نتیجہ:-** اس آیت میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔

☆ **”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ**

**الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ“**

(پارہ: ۲۸، سورۃ الحشر، آیت: ۲۳)

ترجمہ:- ”وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ ملک ہے، قدوس ہے،

## ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے لفظی معنی کو دلیل بنا کر حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے خود اپنی جال میں پھنستے ہیں

دور حاضر کے منافقین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور اپنے اس باطل نظریہ کے ثبوت میں سورۃ الکہف اور حم سجدہ کی آیت مقدسہ **”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“** کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منافقین زمانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو ہیں و بے ادبی کرنے کی غرض سے زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین اور منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنے اس باطل عقیدہ کو مناسب ٹھہرانے کے لئے قرآن مجید کی آیت کا ناجائز طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ بھولے بھالے عوام الناس کو مغالطہ دینے کے لئے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ **☆ قُلْ = کہہ دو** **☆ اَنَا = میں** **☆ بَشَرٌ = آدمی (بشر)** **☆ مِثْلُكُمْ = تمہارے جیسا۔** یعنی ”کہہ دو میں آدمی ہوں تمہارے جیسا۔“ اس طرح قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنی طرف سے ”اپنے جیسا بشر“ نہیں کہتے بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ منافقوں کے اس مکرو فریب کے جال میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اور گمراہی کی راہ سنگلاخ پر چل پڑتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت آیاتِ تشابہات میں شمار ہوتی ہے لہذا اس کے ظاہری لفظی معنوں کو دلیل بنا کر بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ جس کی تفصیلی وضاحت ہم نے اوراق سابقہ

لئے ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لئے ہم نے لفظ ”مؤمن“ کے ظاہری لفظی معنی والی دلیل پیش کی ہے۔ تاکہ ان کے دماغ کی گرمی اتر جائے اور ان کی بے تکی منطق کا استیصال بھی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مندرجہ آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ کو بھائی کے معنی یا مسلمان کے معنی میں مؤمن کہنا ہرگز درست نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں معروض کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں حقیقت اور مجاز کا فرق کرنا اشد ضروری ہے، لہذا:-  
جب لفظ ”مؤمن“ کی نسبت مسلمان کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی ”ایماندار“ یا ”ایمان لانے والا“ ہوں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ”مؤمن“ کی صفت منسوب کی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے ”امان بخشے والا“ یا ”امان دینے والا“

### دلیل نمبر ۲:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں میں رَوْفٌ، رَحِيمٌ، شَهِيدٌ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان تینوں صفاتی اسماء کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ مثلاً:-

☆ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (پارہ: ۲۸، سورۃ الحشر، آیت: ۲۲)

☆ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (سورۃ الفاتحہ، آیت: ۲)

☆ وَاللّٰهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ (پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۳۰)

☆ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا

(پارہ: ۲۱، سورۃ العنکبوت، آیت: ۵۲)

مندرجہ بالا آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین صفاتی نام رحیم، رَوْف اور شہید مذکور ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رَوْف ہے اور شہید ہے۔ شہید بمعنی گواہ کے ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی دیگر دو آیات کریمہ تلاوت کرتے ہیں:-

☆ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفُ الرَّحِيمِ

(پارہ: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۱۲۸)

ترجمہ:- ”بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا

سلام ہے، مؤمن ہے، مہمّن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔“

**نتیجہ:-** اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں لفظ ”مؤمن“ کا استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن ہے۔

سورۃ حشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو ”مؤمن“ اور سورۃ بقرہ کی آیت: ۲۲۱ میں مسلمان کو بھی ”مؤمن“ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ بھی مؤمن ہے اور مسلمان بھی مؤمن ہے۔ اب ایک مزید آیت کریمہ تلاوت کریں:-

☆ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۱۰)

ترجمہ:- ”مسلمان مسلمان بھائی ہیں“ (کنز الایمان) یعنی مؤمن سب آپس میں

بھائی بھائی ہیں۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

سورۃ البقرہ میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کو مؤمن کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس طرح تم قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت ”اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی اخذ کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اسی طرح سورۃ البقرہ، سورۃ الحشر اور سورۃ الحجرات کی مندرجہ بالا تینوں آیات کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر اللہ کو اپنا بھائی کہو گے؟ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہنا درست ہے؟ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہا تو اس نے شان الوہیت میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے یا نہیں؟ ایسا کہنے والا شخص ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟

قارئین کرام سے التماس ہے کہ ہم نے مندرجہ بالا تین آیات مقدسہ لفظ ”مؤمن“ کے تعلق سے صرف منافقین زمانہ کو ساکت و مہوت کرنے کے لئے پیش کی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کے لئے ”اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت پیش کر کے اس کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر جو لوگ اُچھل کود کرتے ہیں، ان کے اُچھلنے کودنے کو لگام دینے کے

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی متصف کیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہاں بھی مساوات اور برابری کا رونا دھونا کرو گے؟ اگر کسی کا نام عبد اللہ یا عبد الرسول ہوتا ہے تو تم بلا کسی تا مل، بلا کسی تاخیر، بلا کسی جھجک اور بلا کسی وضاحت کے دھڑا دھڑا شرک کے فتوے صادر کرتے ہو، تو اگر کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی رحیم یا نبی رؤف یا رؤف و رحیم نبی کے القاب سے ملقب کیا تو ان القاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مساوات ہوتی ہے یہ بہانہ کر کے اور حیلے حوالے کر کے شرک کے فتوے کے پتھر برسائو گے؟

قارئین کرام کی خدمت عالی میں وضاحت پیش کرتے ہوئے عرض ہے کہ:-

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رؤف و رحیم و شہید ہے۔ اور بے شک اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رؤف و رحیم و شہید ہیں۔ لیکن یہاں حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رؤف و رحیم و شہید ذاتی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطائی رؤف و رحیم و شہید ہیں۔ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ حقیقی اور ذاتی رؤف و رحیم و شہید رب تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم کو اپنی عطا سے رؤف و رحیم و شہید بنایا۔ اگر حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق سمجھ میں آ گیا تو توحید و رسالت کے تعلق سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، تصرف و اختیارات وغیرہ کے تعلق سے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں وہ باسانی سمجھ میں آ جائیں گے اور نور ایمان کی ضیاء و حلاوت حاصل ہوگی اور اگر حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تو ہر معاملہ میں شرک کے شرارے ہی نظر آئیں گے اور رفتہ رفتہ وہ شرارے کوہ آتش فشاں بن کر ایوان ایمان کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔

### ○ دلیل نمبر ۳:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”رَبُّ“ ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، مالک وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا کثرت سے ذکر ہے:-

☆ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (سورۃ الفاتحہ، آیت: ۱)

مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان“ (کنز الایمان)  
اس آیت کریمہ میں حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤف اور رحیم کی صفت سے متصف کیا گیا ہے۔

☆ ”فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا“ (پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۴۱)

ترجمہ:- ”تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں

ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”شہیداً“ (گواہ) فرمایا گیا ہے۔

مندرجہ بالا کھل چھ آیات سے ثابت ہوا کہ

○ اللہ تبارک و تعالیٰ ○ رحیم ہے ○ رؤف ہے ○ شہید ہے

○ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ○ رحیم ہیں ○ رؤف ہیں ○ شہید ہیں

یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے۔ کسی کے گھر کی ایجاد کردہ بات نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس پر قرآن مجید کی آیات مبینات شاہد عادل ہیں۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

قرآن مجید کی آیت ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر تم حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی جرأت کرتے ہو، تو کیا اب ان چھ آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر یہ کہو گے کہ قرآن مجید میں بھی معاذ اللہ شرک کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رؤف، رحیم اور شہید کہا گیا ہے اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو بھی رؤف رحیم اور شہید کہا گیا ہے۔ عبد اللہ نبی اور عبد الرسول نام رکھنے پر تم نے شرک کا واویلہ اور غوغا صرف اس لئے مچا رکھا ہے کہ اللہ کا بندہ اور رسول کا بھی بندہ؟ یہ ممکن ہی نہیں

کیونکہ اس میں مساوات یعنی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی برابری کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی مندرجہ چھ آیات میں جو اللہ کی صفقیں رؤف، رحیم اور شہید بیان ہوئی ہیں، انہیں صفات سے

جائے گی؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو سوال ہے کہ کیوں مانی جائے گی؟ اور ”نا“ میں جواب ہے تو یہ بتائیں کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تمام سوالات کے جوابات قرآن وحدیث کے دلائل سے مرحمت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔

قارئین کرام کی خدمت میں وضاحت عرض ہے کہ:-

اس آیت میں ماں باپ کو ضرور رب کہا گیا ہے لیکن مجازاً کہا گیا ہے۔ کیونکہ رب لفظ کے لغوی معنی ہیں پالنے والا یا پرورش کرنے والا۔ چونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اس معنی میں ماں باپ کو رب کہا گیا ہے یعنی پالنے والے یا پرورش کرنے والے اور یہ معنی مجاز پر محمول ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے۔ اس حقیقت کی بناء پر اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ معنی حقیقت پر محمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی اور حقیقی رب یعنی پالنے والا ہے اور رب حقیقی کی عطا سے ماں باپ مجازی اور عطائی رب یعنی پرورش کرنے والے ہیں۔ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے سے آیت کا مفہوم، مطلب اور مراد اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔

○ **دلیل نمبر ۴:-**

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی خالص عربی زبان کی لغت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کئی لفظ کے ایک معنی بھی ہوتے ہیں۔ جس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہوں اس لفظ کا معنی واقعہ کی نوعیت، محل و موقعہ، انداز بیان، مخاطب اور مخاطب کی حیثیت، حقیقت و مجاز، طنز و استنہام، مبتداء و خبر، شرط و جزاء، اطناب و ایجاز، تذلیل و تکریم، وعید و بشارت، زجر و تنبیہ، تشبیہ و استعارہ، وغیرہ جیسے ضروری امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور آیت کی تفسیر میں وارد اصل واقعہ کی مکمل واقفیت رکھ کر اس سے مناسبت رکھنے والے موزوں طور پر ہی کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر لفظ ”کریم“۔ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اتنے متعدد اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا بالغ النظر اور وسیع علم کا حامل نہیں تو وہ ترجمہ کرنے میں ٹھوکرے کھائے گا۔ حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے وارد ہے اور یہی لفظ

ترجمہ:- ”سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔“ (کنز الایمان)

☆ **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ**

(پارہ: ۲۷، سورۃ الرحمن، آیت: ۱۷)

ترجمہ:- ”دونوں پورب کارب اور دونوں پچھم کارب“ (کنز الایمان)

☆ **وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ** (پارہ: ۲۷، سورۃ نوح، آیت: ۲۶)

ترجمہ:- ”اور نوح نے عرض کی اے میرے رب“ (کنز الایمان)

☆ **قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي** (پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۲۵)

ترجمہ:- ”عرض کی اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے“ (کنز الایمان)

اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر قرآن مجید میں ”رب“ کا لفظ وارد ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی قرآن میں ”رب“ کہا گیا ہے۔

☆ **وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا**

(پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳)

ترجمہ:- ”اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن

میں پالا“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ماں باپ کے لئے ”رب“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

قرآن مجید کی آیت مقدسہ ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر تم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو کیا سورۃ بنی اسرائیل کی مندرجہ بالا آیت کی بناء پر اپنے والد کو ”ربی“ یعنی ”میرا رب“ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اپنے ماں باپ کے لئے مطلق رب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو ”رب“ کہتے ہیں، اسی معنی میں اپنے ماں باپ کو ”رب“ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے؟ اور وہ یہ جواب دے کہ میرا رب میرا باپ ہے اور وہ اپنے باپ کو اپنا رب ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیت کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے؟ کیا اس کی دلیل مانی

”وَجَاءَتْهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ“ (پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۱۷)

ترجمہ:- ”اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۹۳)

اس آیت میں ”مُعَزَّزٌ“ یعنی عزت دار، با وقعت، بڑا شریف، بزرگ کے معنی میں لفظ

کریم کا استعمال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں وارد ہے۔

☆ لفظ ”کریم“ کا استعمال خسرو خیر ملک، خادم سلطان عرب، جلیل القدر

ملانکہ حضرت سیدنا جبرئیل علیہ السلام کی مدح و ثنا کے طور پر بھی ہوا ہے۔

”اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ كَرِيْمٍ“ (پارہ: ۳۰، سورۃ التکویر، آیت: ۱۹)

ترجمہ:- ”بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۵۷)

نوٹ:- اس آیت میں رسول بمعنی فرشتہ کے ہے۔

اس آیت میں ”عزت والے“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال حضرت سیدنا جبرئیل

علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کیا گیا ہے۔

☆ قارئین کرام کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں خیرات کرنے والے مرد

و عورت کو جو ثواب ہوگا، اس ثواب یعنی اچھے بدلے اور اجر کو بھی لفظ

”کریم“ سے متصف فرمایا گیا ہے۔

اِنَّ الْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

يُضَعِفُ لَهُمْ وَاَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

(پارہ: ۲۷، سورۃ الحديد، آیت: ۱۸)

ترجمہ:- ”بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں

نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ ان کے دونے ہیں اور ان کے لئے عزت کا

ثواب ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں لفظ ”کریم“ کا استعمال صدقہ اور خیرات کرنے والے مؤمنین کے

کریم سے ابو جہل جیسے کافر کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اور دونوں جگہ لفظ ”کریم“ کا صحیح استعمال ہوا ہے لیکن معنی، مطلب اور مراد کا فرق عظیم ہے۔ قارئین کرام کی فرحت طبع کے خاطر لفظ ”کریم“ کے تعلق سے ہم قرآن مجید کی مختلف آیات بطور مثال پیش کر کے اس پر بہت ہی اختصاراً بحث کرتے ہیں:-

☆ ”کریم“ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کے

ساتھ اس کی اضافت کر کے عام بول چال میں بھی یہ لفظ رائج اور مستعمل

ہے۔ مثلاً اللہ کریم، رب کریم وغیرہ۔ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اللہ

تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر وارد ہے:-

”يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ“

”(پارہ: ۳۰، سورۃ الانفطار، آیت: ۶)

ترجمہ:- ”اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ”کرم والے“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی

صفت کے طور پر ہوا ہے۔

اب ہم ناظرین کرام سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ اپنی تمام توجہات براہ کرم مرکوز

فرما کر مطالعہ فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ کتنے مختلف معنوں میں

اور متفرق انداز میں استعمال ہوا ہے۔

☆ لفظ ”کریم“ کا استعمال قرآن مجید کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔

”اِنَّهٗ لَقْرٰنٌ كَرِيْمٌ“ (پارہ: ۲۷، سورۃ الواقعة، آیت: ۷۷)

ترجمہ:- ”بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ”عزت والا“ کے معنی میں لفظ کریم کا استعمال قرآن مجید کی صفت و

تعریف کے طور پر ہوا ہے۔

☆ جلیل القدر بنی و رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو

لفظ ”کریم“ کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔

(پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۲۴ تا ۲۶)

ترجمہ:- ”اور دریا کو یونہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبو یا جائے گا، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، اور کھیت اور عمدہ مکانات“ (کنز الایمان) تفسیر:- ”تا کہ فرعون راسنتوں سے دریا میں داخل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا اور ان کا تمام مال و متاع اور سامان یہیں رہ گیا۔ عمدہ مکانات یعنی آراستہ پیراستہ مزین مکانات۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۹۴)

اس آیت میں فرعون اور فرعونوں کے ”عمدہ مکانات“ یعنی آراستہ پیراستہ اور مزین مکانات کو ”مقامِ کریم“ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قوم فرعون کے ”عمدہ مکانات“ کے لئے بھی لفظ ”کریم“ کا استعمال کیا گیا ہے۔

☆ رئیس الکفار والمشرکین، عدو نبی، ابو جہل لعین اور دیگر کفار کو بھی طنز یعنی طعنہ دیتے ہوئے لفظ ”عزیز“ ”کریم“ سے مخاطب کیا گیا ہے۔

”ذُقْ طَٰفًا فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ“

(پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۴۹)

ترجمہ:- ”چکھ، ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔“ (کنز الایمان) تفسیر:- ”ابو جہل کو ملائکہ یہ کلمہ اہانت اور تذلیل کے لئے کہیں گے کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ بطحا میں میں بڑا عزت والا کرم والا ہوں۔ اس کو عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا اور کفار سے بھی یہ کہا جائے گا“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۹۵)

اس آیت میں ابو جہل و دیگر کفار کے لئے لفظ ”عزیز اور ”کریم“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ”عزیز“ کا ”عزت والا“ اور لفظ ”کریم“ کا کرم والا۔ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

”کریم“ کی طرح ”عزیز“ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے:-

”وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ“ (پارہ: ۲۵، سورۃ الجاثیہ، آیت: ۳۷)

اجرو ثواب کو ”عزت والے“ ثواب سے سراہنے کے لئے کیا گیا ہے۔

☆ خدائی کا دعویٰ کرنے والے مغرور فرعون کی فوج کے ہلاک ہونے والے فرعونی سپاہیوں کے عمدہ مکانات یعنی آراستہ پیراستہ اور مزین گھروں کو بھی قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ سے متصف کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قوم بنی اسرائیل کے فرمانبردار افراد کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور راہ میں دریائے نیل واقع اور حائل ہوا تو حالت یہ تھی کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے آرہا تھا۔ آپ کے تمام ہمراہی گھبرا گئے، تب آپ نے عظیم معجزہ ظاہر کرتے ہوئے دریا پر اپنا مقدس عصا یعنی ڈنڈا مارا تو دریا میں بارہ راستے بن گئے۔ ان راستوں پر چل کر قوم بنی اسرائیل پار ہونے لگی۔ قوم بنی اسرائیل کو دریا میں تراشیدہ راستوں میں چل کر جاتی ہوئی دیکھ کر فرعون کا لشکر بھی قوم بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑا۔ قوم بنی اسرائیل دریا پار کر کے جب سامنے والے کنارے پر پہنچی تب فرعون کا لشکر بیچ دریا میں تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے سامنے والے کنارے پر پہنچتے ہی حکم الہی سے دریا پھر اپنی سابقہ حالت پر آ گیا اور دریا میں جو راستے تھے وہ ہموار پانی کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور فرعون کا پورا لشکر غرق دریا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ فرعون کا مع اپنے لشکر کے ہلاک ہو جانے پر ان کے ہرے بھرے باغات، سرسبز و شاداب کھیت، چشمے اور عیش و آرام کے سامان سے آراستہ اور عالی شان مزین مکانات اور دیگر مال و متاع مصر شہر میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے کہ:-

وَ اَتَذِكُ الْبَحْرَ رَهَوْا ط اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرَقُوْنَ ۝ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنْبٍ وَّ عُيُوْنٍ ۝ و زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

اس جملہ طنزیہ کو آسان مثال سے یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اپنے کو نیک، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد سمجھتا ہو اور ہر جگہ اپنے زہد و تقویٰ کا فخر یہ ڈھنڈورا بیٹتا پھرتا ہو اور چند دنوں بعد وہ کسی طوائف کے کوٹھے پر نشہ کی حالت میں کسی رنڈی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور لوگ اس کی پٹائی کریں اور اس کو اپنے زہد و تقویٰ کا غرور یاد دلاتے ہوئے کہیں کہ لے اب ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ، تو تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے یعنی تو وہی تو ہے جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار کہتا تھا لیکن آج تیری قلعی کھل گئی ہے۔ اب ذرا کہہ تو سہی کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس وقت اس نام نہاد متقی اور بناوٹی پرہیزگار کو اپنی اصلیت کا احساس ہوگا اور متقی ہونے کی جو شوخی مارتا تھا اس پر ندامت ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ابو جہل اور دیگر کفار کو قیامت میں طعنہ دیتے ہوئے اور عار دلاتے ہوئے، ذلیل و خوار کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ ”أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ یعنی ”ہاں ہاں! تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔“ اس آیت میں لفظ ”عزیز“ اور لفظ ”کریم“ کا استعمال ابو جہل کی تعظیم و تکریم کے مطلب اور مراد میں نہیں کیا گیا بلکہ تذلیل و توبیخ کے مطلب و مراد میں استعمال کیا گیا ہے۔

❖ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ کا استعمال اعلیٰ درجہ کی سبزیاں یعنی عمدہ ترکاریوں کی تعریف میں ”نفس“ کے معنی میں بھی ہوا ہے۔

”وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ“

(پارہ: ۲۱، سورہ لقمان، آیت: ۱۰)

ترجمہ:- ”اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفس جوڑا اُگایا۔“

(کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی عمدہ اقسام کے نباتات پیدا کئے۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

حَلّ لغت:-

❖ نباتات = سبزیاں، ترکاریاں (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۳۴۹)

❖ نفس = عمدہ، اعلیٰ درجہ کی، قیمتی، پاکیزہ، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۳۶۹)

❖ جوڑا = ایک سی دو چیزیں، جفت، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۲۸۳)

ترجمہ:- ”اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔“ (کنز الایمان)

تو جو لفظ ”عزیز“ اللہ تعالیٰ کے لئے ”عزت والا“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہی لفظ ”عزیز“ کا ”عزت والا“ کے ہی معنی میں ابو جہل اور دیگر کفار کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو لفظ ”کریم“ اللہ تعالیٰ کے لئے ”کرم والا“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہی لفظ ”کریم“ کا ”کرم والا“ کے ہی معنی میں ابو جہل اور دیگر کفار کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

ابو جہل اور کفار کو ”عزیز“ یعنی ”عزت والا“ کہا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ بات بڑی تعجب اور حیرت کی ہے۔ کیونکہ ان کفار کے لئے اللہ کے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے لئے کسی قسم کی عزت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں تو صاف اور صریح طور پر وضاحت فرمادی گئی ہے کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہے:-

”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ“ (پارہ: ۲۸، سورہ المنافقون، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے۔“

(کنز الایمان)

جب عزت اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لئے ہے تو یقیناً کفار دنیا و آخرت کی عزت سے محروم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ کفار اور کفار کے سردار ابو جہل سے ”أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ کہہ کر کیوں خطاب کیا جائے گا؟ جو اب اعرض ہے کہ یہ جملہ طنزیہ ہے یعنی ابو جہل کو طعنہ دینے کیلئے کہا گیا ہے کیونکہ اس کو اپنی عزت کا بہت غرور گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ پورے مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ عزت اور کرم والا میں ہی ہوں لیکن جب قیامت میں اُسے عذاب کے فرشتے ذلیل و خوار کرتے ہوئے گھسیٹیں گے اور اس کی ہتک عزت اور اہانت و حقارت کریں گے تب اسے اس کے غرور و شوخی کو یاد دلاتے ہوئے طعنہ دیں گے کہ دنیا میں تو اپنے کو عزت و کرم والا سمجھتا تھا۔ تو لے آج تو اپنی شوخی کا نتیجہ دیکھ لے اور ”ذوق“ یعنی کچھ، دردناک عذاب چکھ۔ اس آیت کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر ابو جہل و دیگر کفار کو ”عزت والا“ اور ”کرم والا“ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔



اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو کیا سورۃ الدخان کی آیت ”ذُقْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر ابو جہل اور دیگر کفار کو اللہ تعالیٰ جیسا عزت والا اور کرم والا مانو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لئے تم یہ کہتے ہو کہ حضور کو قرآن نے جب بشر کہا ہے، تو ہم کہیں تو اس میں کونسی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تمہارے اس نظریہ کی بناء پر تمہارے نقش قدم پر چلکر کوئی سر پھرا اور عقل کا مارا یہ کہے کہ اللہ ”عزیز“ اور ”کریم“ ہے اور قرآن نے ابو جہل اور دیگر کفار کو ”عزیز“ اور ”کریم“ کہا ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ جیسے عزت اور کرم والے ہیں، تو ایسا کہنا بے ادبی اور گستاخی ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟ حالانکہ وہ یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہری لفظی معنی کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہے۔ کیا اس طرح کسی آیت کے ظاہری لفظی معنی کو بطور سند و دلیل پیش کر کے اتنی بڑی بات کہنا مناسب ہے؟

(۲) قرآن مجید میں ۱۰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۱ حضرت جبرئیل علیہ السلام ۱۲ جنت کو ۱۳ عرش کو ۱۴ رزق کو ۱۵ اجر و ثواب کو ۱۶ فرعون کی قوم کے آراستہ و مزین مکانوں کو ۱۷ زمین سے اگنے والی ترکاریوں اور سبزیوں کو لفظ ”کریم“ سے متصف کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے بھی لفظ ”کریم“ کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ کریم کا ظاہری لغوی معنی کرم والا ہوتا ہے۔ کیا ظاہری لغوی معنی کو دلیل و سند بنا کر اللہ تعالیٰ کی صفت ”کریم“ کا دوسروں پر اسی معنی میں اطلاق کیا جاسکتا ہے؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو کیوں؟ اور اگر نہیں کیا جاسکتا تو کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ اگر اسی معنی میں اطلاق نہیں کیا جاسکتا تو پھر قرآن مجید میں مختلف افراد اور اشیاء کو ”کریم“ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت و تاویل کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر تاویل اور حقیقت و مجاز کا فرق کرنا ضروری ہے تو پھر ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی وضاحت و تاویل کرنی بھی لازمی اور ضروری ہے یا نہیں؟ ”ہاں“ اور ”نا“

اس آیت میں لفظ ”کریم“ کا استعمال زمین سے اگنے والی سبزیوں اور ترکاریوں کی ”نفاست“ یعنی عمدگی اور پاکیزگی کے اظہار کے لئے کیا گیا ہے۔

۱۰ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بے مثل اور نادر زمن حسن و جمال اور خیرہ چشم کردینے والی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے آپ کے لئے ”مَلِكٌ كَرِيمٌ“ کا جملہ استعمال کیا تھا۔ جس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ“ (پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، آیت: ۳۱)

ترجمہ:- ”یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بے مثال خوبصورتی اور حسن و جمال کا وصف بیان کرنے کے لئے ”معزز“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال کیا گیا ہے۔

۱۱ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ کا استعمال جنت کو عزت کی جگہ کے وصف سے متصف کرنے کے لئے ”عزت“ کے معنی میں بھی کہا گیا ہے:-

”وَنَدَخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا“ (پارہ: ۵، سورۃ النساء آیت: ۳۱)

ترجمہ:- ”اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں“ (کنز الایمان)

اس آیت میں جنت کو عزت کی جگہ سے متصف کرنے کے لئے ”عزت“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال ہوا ہے۔

صرف لفظ ”کریم“ کے تعلق سے کل بارہ (۱۲) آیات قرآنیہ تلاوت ہوئی ہیں۔ ایسی تو کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں لفظ ”کریم“ کا محل و موقع کے اعتبار سے مختلف معنی مطلب اور مراد میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن طول تحریر کے خوف سے اس بحث کو اطناب نہیں دیتے ۱۰ ”رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“ (پارہ: ۱۸، سورۃ النور، آیت: ۱۱۶) ۱۱ ”لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ“ (پارہ: ۱۰، سورۃ الانفال آیت: ۷۴) وغیرہ آیات کے ضمن میں تفصیلی وضاحت نہ کرتے ہوئے اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کریمہ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء تم حضور

مذکورہ آیات میں ”جاننے والا“ اور ”علم والا“ کے معنی میں لفظ ”علیم“ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں بھی ہیں جن میں لفظ ”علیم“ کا اطلاق اللہ کے سوا دوسروں پر بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً:-

☆ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے مصر کے اقتصاد اور انتظامی امور کے سلسلہ میں مصر کے بادشاہ سے فرمایا کہ خزانوں کو میرے حوالے کر دیا جائے کیونکہ:-

”إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ“ (پارہ: ۱۳، سورۃ یوسف، آیت: ۵۵)

ترجمہ:- ”بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا مقولہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ”بے شک“ کی قید اور تاکید جملہ کی ابتدا میں لگا کر فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ”علیم“ یعنی علم والا ہوں۔

☆ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا یعنی لکڑی کا ڈنڈا رہتا تھا، اسے آپ زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ زندہ اژدھا یعنی زبردست سانپ بن جاتا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ دیکھا تو اس نے معجزہ کو سحر یعنی جادو سے تعبیر کیا۔ فرعون کے زیر دست بے شمار ساحرا اور جادوگر تھے لہذا اس نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں ملک کے تمام ماہرین جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر غلبہ اور فتح حاصل کر لوں۔ لہذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چیلنج (Challenge) دیتے ہوئے جو کہا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ“ (پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۱۲)

ترجمہ:- ”کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ”علم والا“ کے معنی میں لفظ ”عَلِيمٌ“ کا استعمال حضرت موسیٰ علیہ

دونوں صورتوں میں وجہ کیا ہے؟ تمام جوابات قرآن وحدیث کی دلیل پیش کر کے دیں۔

ناظرین کرام سے التماس ہے کہ ہم نے منافقین زمانہ کے سامنے صرف دو ہی سوال رکھے ہیں۔ حالانکہ اس ضمن میں کثیر تعداد میں سوال قائم کئے جاسکتے ہیں لیکن ہم نے صرف دو سوال پر ہی اکتفا اس لئے کیا ہے کہ ان دونوں سوالات کے جوابات دینے میں ان کا پسینہ چھوٹ جائے گا اور یقینی طور پر وہ جواب دینے سے عاجز و قاصر رہیں گے۔ کیونکہ اگر لفظ ”کریم“ کی تاویل کرتے ہیں تو ان کو ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی تاویل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور اگر لفظ ”کریم“ کی تاویل نہیں کرتے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور ”سانپ کے منہ میں چھچھوند، ننگے تو اندھا، اُگلے تو کوڑھی“ جیسی صورت درپیش ہوگی اور ”نہ اُگلے بنے، نہ ننگے بنے“ جیسی حالت ہوگی۔

### دلیل نمبر: ۵

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”علیم“ ہے۔ ”علیم“ کے معنی ہوتے ہیں ① جاننے والا ② علم والا ③ واقف ④ صاحب علم وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”عَلِيمٌ“ کا متعدد مقام پر ذکر ہے۔ مثلاً:-

☆ ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ ترجمہ:- ”اور وہی ہے سنتا جانتا“ (کنز الایمان)

(① پارہ: ۸، سورۃ انعام، آیت: ۱۱۵، اور ② پارہ: ۱۷، سورۃ الانبیاء آیت: ۴)

☆ ”وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (پارہ: ۱۸، سورۃ النور، آیت: ۲۱)

ترجمہ:- ”اور اللہ سنتا جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

☆ ”إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (پارہ: ۲۵، سورۃ الشوری، آیت: ۱۲)

ترجمہ:- ”بیشک وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

☆ ”وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۲)

ترجمہ:- ”اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

ہے۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ”جاننے والا“ اور ”علم والا“ کے معنوں میں لفظ ”علیم“ کا استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں دوسروں کے لئے بھی لفظ ”علیم“ کا استعمال ہوا ہے۔ جس طرح تم ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اسی طرح سورہ یوسف کی دو اور سورہ اعراف کی ایک یعنی مذکورہ تین آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر تم یہ کہو گے کہ زیادہ علم والے عالم کا علم اللہ تعالیٰ جیسا ہے؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے؟

قارئین کرام کی معلومات کے لئے عرض ہے کہ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ”علیم“ مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی ضرور علیم کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں فرق عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علیم یعنی جاننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس کا علم ذاتی اور حقیقی ہے۔ وہ حقیقی علیم ہے۔ کیونکہ اس کا علم ابدی، ازلی، اور سرمدی ہے۔ مخلوق میں سے بعضوں کو ”علیم“ کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا علم عطائی ہے۔ علیم ذاتی و حقیقی رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے علم عطا فرما کر ”علیم“ بنایا ہے۔ لہذا وہ مجازی اور عطائی علیم ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اور ذاتی علیم ہے۔ آیت کے لفظ ”علیم“ کے ظاہری اور لفظی معنی کی بناء پر ہرگز ہرگز مساوات و برابری ثابت نہیں کی جاسکتی۔

### دلیل نمبر: ۶

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی ناموں سے دو نام (۱) سَمِيعٌ یعنی سننے والا اور (۲) بَصِيرٌ یعنی دیکھنے والا بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں صفاتی ناموں کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے مثلاً:-

☆ ”إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۝ بَصِيرٌ“ (پارہ: ۲۸، سورہ الحج، آیت: ۱)  
 (پارہ: ۱۷، سورہ الحج، آیت: ۷۵)

الصلاة والسلام کے مقابلہ میں جمع ہونے والے فرعون کے جادوگروں کے لئے کیا گیا ہے۔ آیت میں ”سَاحِرٍ عَلِيمٍ“ کے الفاظ وارد ہیں یعنی علم والے جادوگر۔ مندرجہ دونوں آیات کے ضمن میں کسی صاحب کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ”علیم“ کہا ہے، اسی طرح فرعون نے اپنے جادوگروں کی اہمیت جتانے کے لئے اپنے جادوگروں کو ”علیم“ کہہ کر سراہا ہے۔ ان دونوں آیت میں ماضی میں وقوع پذیر واقعہ کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام اور فرعون کے مقولہ نقل کئے گئے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو ”علیم“ نہیں کہا ہے۔ ایسے معترض صاحب کی تسکین اور اطمینان کے لئے:-

☆ اب ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کو ”علیم“ فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت میں ماضی کے کسی واقعہ کے ضمن میں کسی کا مقولہ نقل نہیں کیا گیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا صاف اور صریح مقدس ارشاد ہے، جو رب تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں پر انعام و اکرام کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”نَزَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“

(پارہ: ۱۳، سورہ یوسف، آیت: ۷۶)

ترجمہ:- ”ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۴۴۱)

اس آیت اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ہر عالم سے بڑھ چڑھ کر زیادہ علم والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ علم والے عالم کو قرآن میں ”عَلِيمٌ“ فرمایا گیا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ”علیم“ ہے وہ علیم رب ہی اپنے علم والے بندوں کو ”عَلِيمٌ“ فرما رہا ہے۔ نیز اس آیت میں ”علم والا“ کے معنی میں زیادہ علم والے عالم کے لئے لفظ ”علیم“ کا استعمال کیا گیا

انسان مطلق کے لئے اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرو گے؟ اگر کوئی عقل کا مارتہمارے نقش قدم پر چل کر سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر یہ کہے کہ انسان دیکھنے اور سننے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی مثل ہے، معاذ اللہ جیسے کہ تم کہتے ہو کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بنا پر ہم بشر ہونے کے معاملہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ تو جو شخص عام انسان کے دیکھنے اور سننے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرے، اس کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(۲) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے، اسی طرح عام

انسان کو بھی ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ”سَمِيعٌ“

اور ”بَصِيرٌ“ ہونے میں اور انسان کے ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ میں کیا فرق ہے؟

(۳) اگر فرق ہے تو سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ کی کیا تاویل و توضیح ہوگی؟ اگر سورۃ الدھر کی

مذکورہ آیت کی تاویل کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“

ہونے میں انسان کی مساوات اور برابری ناممکن، محال، اور خارج از امکان ثابت

کی جائے گی۔ تو پھر ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی تاویل کر کے حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بشر ہونے کے معاملہ میں ہمسری اور برابری محال

اور غیر ممکن کیوں ثابت نہیں کی جائے گی؟

(۴) جب سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ کے ظاہری لفظی معنی کو سند اور دلیل بنا کر سننے اور دیکھنے

کے معاملہ میں اللہ کے ساتھ انسان کی مساوات و ہمسری ثابت نہیں کی جاسکتی تو پھر

کیا وجہ ہے کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی کو دلیل بنا کر بشر ہونے کے

معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ

کرتے ہو؟ اور حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کیوں ثابت کرتے ہو؟

ناظرین کرام توجہ فرمائیں کہ سورۃ الدھر میں انسان کو ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا

گیا ہے۔ وہ مجازاً کہا گیا ہے۔ اس آیت کو سند یا دلیل بنا کر قطعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی

ترجمہ:- ”بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

☆ ”إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (پارہ: ۳، سورۃ ال عمران، آیت: ۳۵)

ترجمہ:- ”بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے“ (کنز الایمان)

☆ ”إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ“ (پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۹۶)

ترجمہ:- ”بیشک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

☆ ”إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرٌ“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۳۵)

ترجمہ:- ”بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ”سَمِيعٌ“ اور

”بَصِيرٌ“ مذکور ہوئے ہیں۔ ان آیات میں ”سننے والا“ کے معنی میں لفظ ”سَمِيعٌ“ کا اور

”دیکھنے والا“ کے معنی میں لفظ ”بَصِيرٌ“ کا استعمال کیا گیا۔ لیکن ان دونوں صفات سے عام

انسان کو بھی قرآن میں متصف کیا گیا ہے۔ جیسا کہ:-

☆ ”إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعًا مَبْصِيرًا“ (پارہ: ۲۹، سورۃ الدھر، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے کہ وہ اسے جانچیں تو

اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔“ (کنز الایمان)

سورۃ الدھر کی اس آیت میں ”سنتا“ اور ”دیکھتا“ کے معنی میں عام انسان کو ”سَمِيعٌ“

اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”سَمِيعٌ“ اور

”بَصِيرٌ“ بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ میں مطلق انسان کو بھی

”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔ لہذا جس طرح تم آیت مبارکہ ”قُلْ إِنَّمَا

أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سے ہمسری اور مساوات ثابت کرتے ہو، کیا سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ کی بنا پر بھی

تفسیر:- ”یعنی قرآن میں دی گئی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جن کی عادت مکابره و عناد ہے اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں اور باوجودیکہ یہ مثل نہایت ہی بر محل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے اللہ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے سے مراد یہ ہے کہ جو غور اور تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کو تمثیل کسی قدر والی چیز سے دی جائے اور حقیر چیز کی تمثیل کسی ادنیٰ چیز سے دی جائے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸)

سورۃ البقرہ کی مندرجہ بالا آیت کی تفصیلی وضاحت نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنی، مطلب اور مراد میں سمجھنے کے لئے وسیع علم درکار ہے۔ صرف لفظی ظاہری معنی کی معلومات حاصل ہو جانے پر آدمی یہ گمان کرے کہ میں قرآن فہمی کے فن میں ماہر اور کامل ہو گیا ہوں۔ تو ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا جیسا کہ دور حاضر کے منافقین گمراہ ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے منافقین کی گمراہیت، ضلالت اور بے دینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہر معاملہ کو تنگ نظری سے دیکھا اور اسلام کے وسیع النظر دائرے کو بھی تنگ کر دیا۔ حقیقت اور مجاز کا فرق کرنے کے بجائے ہر معاملہ کو حقیقت پر محمول کیا اور توحید پرستی کے غلط وہم و گمان میں انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین کی عالی بارگاہ میں توہین و تنقیص کر کے خود ہی دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مثلاً انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علم، اختیارات، تصرف، خبرگیری، دستگیری، حاضر ناظر وغیرہ خصائص سے صرف اس بناء پر منکر و منحرف ہوئے کہ اگر اللہ کے لئے بھی علم غیب مانا جائے اور رسول اللہ کے لئے بھی علم غیب مانا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوات و ہمسری ہوگی اور یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ انہوں نے حقیقت و مجاز کا فرق نہیں سمجھا اور نہ ہی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کی بلکہ صرف حقیقت پر محمول کر کے شرک کا بے دھڑک فتویٰ صادر کر دیا۔ اگر ہر معاملہ کو حقیقت پر ہی محمول کرنے کی تنگ نظری اور عصبیت سے کام لیا جائے تو پھر کسی شخص کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ کیونکہ:-

مساوات ثابت نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ الدھر کی مذکورہ آیت کی تاویل کرنا ضروری اور لازمی ہے اور حقیقت و مجاز کا فرق کرنا اشد ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس کی عطا اور فضل و کرم سے انسان بھی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيْرٌ“ اس کی مقدس ذات کی طرح ازلی، ابدی، سرمدی، دائمی، باقی، غیر فانی، حقیقی، ذاتی، دوامی، جاویدانی، قدیمی، مستقل، غیر حادث، برقرار، کامل، اکمل، اور غیر مُنْقَصَتْ ہے جب کہ انسان کی سماعت و بصارت غیر ازلی، غیر ابدی، غیر سرمدی، غیر دائمی، غیر باقی، فانی، مجازی، عطائی، غیر دوامی، غیر جاویدانی، عارضی، حادث ناقص، اور مُنْقَصَتْ ہے۔

اگر قرآن مجید کی آیات کے صرف ظاہری معنی اور لفظی ترجمہ کو ہی آدمی لپٹا اور چپٹا رہے گا تو بجائے ہدایت کے گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کی آیات کے انداز بیان، حقیقت و مجاز کا فرق اور دیگر ضروری امور جو بالتفصیل اور اوراق سابقہ میں مذکور و بیان ہوئے ہیں ان کا التزام ضروری ہے۔ صحیح قرآن فہمی کے بغیر قرآن بیانی کے جو ہر دکھانا ایمان کے لئے مہلک ہے۔ اگر ایمان اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے گا تو نور ایمان کی ضیائیں حاصل ہوں گی۔ اور عداوت رسول کی فاسد نظر اور نقص جوئی کی قبیح نیت سے اگر قرآن پڑھا جائے گا تو ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا اور گمراہیت و بے دینی کی تاریکی و ظلمت میں بھٹکتا رہے گا۔ بے شک! قرآن مجید ہدایت ہے لیکن جو محبت رسول کی نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لئے ہی قرآن ہدایت ہے اور جو رسول دشمنی اور نبی کی عداوت کی حاسد اور فاسد نظر سے قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن سے ہرگز ہدایت نہیں مل سکتی بلکہ وہ قرآن سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:-

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهِ كَثِيْرًا

(پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶)

ترجمہ:- ”اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔“

قرآن مجید میں ہے کہ:-

- اللہ بھی ”مُؤْمِنٌ“ ہے اور مسلمان بھی ”مُؤْمِنٌ“ ہے (دیکھو دلیل نمبر ۱، ص: ۲۴۳)
- اللہ ”رَوْفٌ“ اور ”رَحِيمٌ“ ہے اور رسول اللہ بھی ”رَوْفٌ“ اور ”رَحِيمٌ“ ہیں۔ (دیکھو دلیل نمبر ۲، ص: ۲۴۵)
- اللہ تعالیٰ ”شَهِيدٌ“ (گواہ ہے اور رسول اللہ بھی ”شَهِيدٌ“ (گواہ) ہیں۔ (دیکھو دلیل نمبر ۲، ص: ۲۴۵)
- اللہ تعالیٰ ”رَبٌّ“ ہے اور ماں باپ کو بھی ”رَبٌّ“ کہا گیا ہے۔ (دیکھو دلیل نمبر ۳، ص: ۲۴۷)
- اللہ تعالیٰ ”كَرِيمٌ“ ہے اور قرآن میں (۱) حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام (۲) حضرت جبرئیل علیہ السلام (۳) اجروثواب (۴) فرعونینوں کے آراستہ پیراستہ اور مزین مکانات (۵) ابوجہل اور کفار (۶) عمدہ اقسام کی سبزیاں اور ترکاریاں (۷) فرشتہ (۸) جنت (۹) عرش اعظم (۱۰) رزق وغیرہ کو بھی ”كَرِيمٌ“ کہا گیا ہے۔ (دیکھو دلیل نمبر ۴، ص: ۲۴۹ تا ۲۵۸)
- اللہ تعالیٰ ”عَلِيمٌ“ (جاننے والا، علم والا) ہے۔ اور قرآن مجید میں (۱) حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام (۲) فرعون کے جادوگروں (۳) بڑے علم والے وغیرہ کو بھی ”عَلِيمٌ“ کہا گیا ہے۔ (دیکھو دلیل نمبر ۵، ص: ۲۵۸/۲۶۱)
- اللہ تعالیٰ ”سَمِيعٌ“ (سننے والا) اور ”بَصِيرٌ“ (دیکھنے والا) ہے۔ لیکن قرآن مجید میں مطلق انسان کو ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔ علاوہ ازیں چند اُن امور کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ ہم روزمرہ کی بول چال میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر بلا جھجک اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً:- (بہت ہی اختصاراً)

○ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ”مولانا“ کہا گیا ہے۔

- (۱) ”أَنْتَ مَوْلَانَا“ (پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۸۶) ترجمہ:- ”تو ہمارا مولیٰ ہے“ (کنز الایمان)
- (۲) ”هُوَ مَوْلَانَا“ (پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۵۱) ترجمہ:- ”وہ ہمارا مولیٰ ہے۔“ (کنز الایمان)
- (۳) ”ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا“ (پارہ: ۲۶، سورۃ محمد، آیت: ۱۱) ترجمہ:- ”یہ اس لئے کہ مسلمان کا مولیٰ اللہ ہے۔“ (کنز الایمان)
- لیکن ہم مسجد کے امام کو، مدرسہ کے معلم کو، وعظ کہنے والے مقرر کو، نکاح پڑھانے والے کو، اور دیگر اشخاص کو ”مولانا“ یا ”مولانا صاحب“ کہہ کر پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”حَيٌّ“ (زندہ) بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-
- (۱) ”هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ (پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۵۵)
- (پارہ: ۳، سورۃ ال عمران، آیت: ۲) ترجمہ:- ”وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا“ (کنز الایمان)
- لیکن ہر جاندار جو موت کی آغوش میں نہیں گیا اور بقید حیات ہے اس کو ہم ”حَيٌّ“ بمعنی زندہ کہتے ہیں۔ مثلاً میں زندہ ہوں، میرے دادا بزرگوار زندہ ہیں، بکری کا بچہ زندہ ہے وغیرہ وغیرہ۔
- ایسی تو متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ جیسے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”حَكِيمٌ“ ہے لیکن مریضوں اور بیماروں کا علاج کرنے والے کو ہم ”حکیم“ یا ”حکیم صاحب“ کہتے ہیں۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”حَاكِمٌ“ (حکومت والا) ہے لیکن ہم حکومت کے صاحب اقتدار افسران اور عہدہ داروں کو ”حاکم“ کہتے ہیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”مُصَوِّرٌ“ (صورت دینے والا بنانے والا) ہے لیکن جانداروں کی تصویریں بنانے والے پینٹر (Painter) کو ہم ”مُصَوِّرٌ“ کہتے ہیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”نَاصِرٌ“ (مددگار) ہے لیکن کسی کی مدد کرنے والے سخی اور فیاض شخص کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص

## حضور اقدس ﷺ کیسے بشر تھے؟

حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی اے محبوب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں یعنی انسان ہونے میں یعنی آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے ضرور یہ فرمایا ہے کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ لیکن یہ ارشاد کیوں فرمایا، کن کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی، ان تمام باتوں کی تفصیلی بحث ہم نے اوراق سابقہ میں کر دی ہے۔ اوراق سابقہ میں ہم نے ایک ضروری وضاحت یہ بھی کر دی ہے کہ یہ آیت کریمہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ جس کے ظاہری لفظی معنوں کو سند یا دلیل نہیں بنا سکتے بلکہ اس کی مناسب تاویل و توضیح کرنی ضروری ہے۔ لیکن دورِ حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کے لئے ہمیشہ آیات متشابہات ہی پیش کرتے ہیں اور اس کے من گھڑت معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں اور یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ:-

”انبیاء و اولیاء و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ

سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں۔“

حوالہ:- ”تقویۃ الایمان“ مصنف:- مولوی اسماعیل دہلوی،

ناشر:- دارالسلفیہ، ممبئی ص: ۹۹

منافقین زمانہ کے امام اول فی الہند ملا اسماعیل دہلوی نے تمام انبیاء و اولیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں کے لئے یہ کہا کہ ”وہ سب انسان ہیں اور عاجز بندے ہیں“۔ اس جملہ کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام میں حضور اقدس، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی شمار ہو گیا۔ امام المنافقین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ یعنی

غریبوں کا ”ناصر“ یعنی مددگار ہے۔ وغیرہ وغیرہ

جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان صفات عالیہ سے مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں تب ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کی یہ صفات عطائی اور مجازی ہیں۔ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے سے تمام اعتراضات و اختلافات رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی کا فرق کر دینے سے شرک کے خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو اپنی عطا و کرم سے غیب کا علم فرمایا ہے اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی عطائے خاص سے ”عَالِمٌ مَّالِكَانَ وَمَا يَكُونُ“ بنایا ہے تو اس میں شرک کا الارم (Alarm) اور گھنٹا بجا کر شور و غوغا کیوں مچایا جاتا ہے؟

الحاصل! اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مثلاً علیم، کریم، مؤمن، رؤف، رحیم، سمیع، بصیر، مولانا، حبی، حکیم، حاکم، ناصر وغیرہ کا مخلوق پر مجازاً اطلاق کرنے کے باوجود بھی خالق اور مخلوق میں کسی قسم کی مساوات و ہمسری ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ہمسری ثابت کرنا تو دور کی بات ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بندوں پر قرآن میں ہی اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمسری اور برابری کا کوئی امکان بلکہ امکان کا بلکہ ساشائے بھی نہیں بلکہ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کے فرق کے تحت ان آیات کی مناسب تاویل کی جائے گی۔ اسی طرح ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کے ظاہری اور لفظی معنی کی بنا پر ہرگز ہرگز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

## ”حضور اقدس کی نورانی بشریت“

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشکل انسان دنیا میں ضرورتاً تشریف لائے لیکن آپ ہمارے تمہارے جیسے بشر نہ تھے بلکہ آپ ایسے نوری بشر تھے کہ آپ جیسا بشر اللہ نے دوسرا کوئی نہ پیدا فرمایا ہے اور نہ پیدا فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب اکرم کے نور کو پیدا فرمایا ہے ذیل میں ایک طویل حدیث پیش خدمت ہے:-

### حدیث:-

امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ یعنی حافظ الاحادیث، احد الاعلام، محدث عبدالرازق ابو بکر بن ہمام نے اپنی مشہور کتاب ”مصنف“ میں حضرت سیدنا واہب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ:-

”قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبَرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ ۝ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ ۝ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقَدَرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ۝ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لُوحٌ وَ لَا قَلَمٌ وَ لَا جَنَّةٌ وَ لَا نَارٌ وَ لَا مَلَكٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَا أَرْضٌ وَ لَا جَنِيٌّ وَ لَا إِنْسِيٌّ ۝ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَ مِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ وَ مِنَ الثَّلَاثِ الْعَرْشَ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءِ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ مِنَ الثَّانِي

انسان کہنے کا کتنا شوق ہے کہ صرف ”انسان ہیں“ نہیں لکھا بلکہ ”انسان ہی ہیں۔“ کا جملہ لکھا ہے۔ لفظ انسان کے ساتھ ”ہی“ کی اضافت کر کے انسان ہونے کی بات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ بلکہ آگے چل کر بے ادبی کی جرأت و بیباکی کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ ”اور عاجز بندے ہیں“ اب ہم لفظ ”عاجز“ کے معنی لغت میں دیکھیں:-

○ عاجز:- ○ کمزور ○ بے بس ○ مجبور ○ لاچار ○ جس سے کچھ نہ ہو سکے ○ مغلوب ○ تھکا ماندہ ○ غریب ○ مسکین ○ مایوس ○ ناامید ○  
(حوالہ:- (۱) فیروز اللغات، ص ۸۸۷ (۲) لغات کشوری، ص ۲۸۹ (۳) کریم اللغات، ص: ۱۰۷)

لفظ ”عاجز“ کے جتنے بھی معنی ہم نے لغات سے نقل کئے ہیں، ان میں سے کسی ایک معنی میں بھی لفظ ”عاجز“ کو انبیاء کرام اور سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے استعمال کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ دور حاضر کے منافقین تو ہیں و تنقیص انبیاء کرام کے معاملہ میں زمانہ ماضی کے منافقین پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ زمانہ ماضی کے صرف منافقین ہی نہیں بلکہ زمانہ ماضی کے کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے، ہیں۔ کیونکہ زمانہ ماضی کے گستاخ انبیاء کرام کو صرف ”بشر“ کہتے تھے جب کہ دور حاضر کے گستاخ ”عاجز بشر“ کہتے ہیں۔

اب ہم ناظرین کرام کی خدمت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کے تعلق سے ایمان افروز بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیشک بشکل بشر ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بشر ہونے کا اہلسنت و جماعت کو قطعاً انکار نہیں۔ لیکن آپ کی ذات مقدسہ کوئی معمولی بشریت کی متحمل نہ تھی بلکہ آپ ”نوری بشر“ تھے۔ آپ کی نوری بشریت پر نوع بنی آدم کو ناز ہے۔ آپ کی پیدائش نور سے ہے بلکہ آپ سراپا نور ہیں لیکن آپ کا بنی نوع انسان پر احسان و کرم ہے کہ آپ نے اپنے نورانی وجود کو بشریت کے جامے میں مستور فرما کر بشکل انسان ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو کر اپنی نورانی جلوے سے بہر مند فرمایا۔



ہے۔

- (۱) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی شافعی نے ”دلائل النبوة“ میں،
- (۲) امام احمد بن محمد المصری القسطلانی نے ”مواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ“ میں،
- (۳) امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی کی نے ”افضل القری“ میں،
- (۴) امام علامۃ التمس محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی نے ”شرح مواہب اللدنیہ“ میں،
- (۵) علامہ حسین بن محمد بن حسن دریا بکری نے ”الخمیس فی احوال النفس نفیس“ میں،
- (۶) علامہ فاسی نے ”مطالع المسرات“ میں،
- (۷) شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة“ میں،

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پوری کائنات کو حضور اقدس کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ما حاصل یہ ہے کہ جب لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، چاند، سورج، زمین، آسمان، جنات، انسان، وغیرہ یعنی کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کی تخلیق نور الہی سے ہوئی۔ اللہ کی ذات کے سوا جب کچھ نہ تھا اور خالق کائنات، رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اس لئے پیدا فرمایا کہ:-

الْكُرْسِيِّ وَ مِنَ الثَّلَاثِ بَاقِي الْمَلِكَةِ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الثَّانِي الْاَرْضَيْنِ وَمِنَ الثَّلَاثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ (الخ الحديث بطوله)

ترجمہ:- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ ۝ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ۝ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ ۝ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیئے۔ ۝ پہلے حصہ سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ ۝ پھر چوتھے حصہ کے چار حصے کیئے۔ ۝ پہلے حصہ سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی اٹھانے والے فرشتے اور تیسرے سے باقی تمام فرشتے بنائے۔ ۝ پھر اس چوتھے حصہ کے چار حصے بنائے ۝ پہلے حصہ سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینیں اور تیسرے سے جنت و دوزخ بنائے۔ ۝ پھر اس چوتھے حصہ کے چار حصے کیئے۔“


= آخر حدیث تک =

(بحوالہ:- ”صَلَاتُ الصَّافَاءِ فِي نُورِ الْمُصْطَفَى“ مصنف:- اعلیٰ حضرت، امام

احمد رضا محدث بریلوی، ص: ۳)

اس حدیث کو مندرجہ ذیل جلیل القدر ائمہ ملت اسلامیہ نے اپنی معرکتہ الآراء اور معتمد و مستند کتب میں صحیح اسناد سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن، صالح، مقبول اور معتمد کہا

گئی ہے۔ مندرجہ بالا حدیث نبوی کے قبل جو حدیث شریف پیش کی گئی ہے اس حدیث نبوی شریف میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کیا چیزیں اور کس طرح پیدا کی گئی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس کو ایک نظر میں سمجھنے کے لئے ذیل کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں:-



اس نقشہ سے قارئین کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ نورِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس طرح حصص ہوئے اور کون سے حصہ سے کیا چیز بنی، الغرض لوح و قلم،

حدیث قدسی:- اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

”كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“

ترجمہ:- ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس مجھے اس امر سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا“

اس حدیث قدسی کی تشریح میں علامہ امام عبدالکریم الجلیلی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تب یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ حادث ہونے کی وجہ سے مخلوق میرے ذات کی معرفت حاصل نہ کر سکے گی، لہذا:-

”فَخَلَقَ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ حَبِيبًا اخْتَصَّ التَّجَلِّيَّاتِ ذَاتِهِ وَخَلَقَ الْعَالَمَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِيبِ لِنَصْحِ النَّسْبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فَيَعْرِفُوهُ بِتِلْكَ النَّسْبَةِ“

ترجمہ:- ”تو اس نے اس محبت سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کو اپنی ذات کی تجلیوں کے فیض سے مخصوص فرمایا۔ اور اپنے حبیب سے تمام عالم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ حبیب خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت (واسطہ) بن جائے اور مخلوق اس حبیب کی نسبت سے اپنے خالق کی معرفت پاسکے۔“

(حوالہ:- جواہر البحار، (عربی) جلد ۱، ص: ۲۳۹)

حدیث:- امام ابوالحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس، جان عالم و رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ وَمِنْ نُورِيَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ“

ترجمہ:- ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔“ (حوالہ:- بیان المیلاد النبوی (عربی) ص: ۲۳)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات پیدا کی

تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ:-

”يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ  
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا“

ترجمہ:- ”اے حبیب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔“ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ ”اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔“

(حوالہ:- موضوعات کبیر، ص: ۵۹)

مذکورہ روایت سے ملتی جلتی بہت سی روایت ملت اسلامیہ کے جلیل القدر ائمہ اور علماء کی کتب معتمدہ و معتبرہ مثلاً ① علامہ زرقانی کی ”شرح المواهب اللدنیہ“ ② قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی کی ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ ③ امام جلال الدین سیوطی کی ”الخصائص الكبرى“ ④ شاہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ”مدارج النبوة“ ⑤ شرح الشفاء ⑥ مکتوبات امام ربانی ⑦ عراقس البیان ⑧ جواہر البحار وغیرہ کتب میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک وارد ہے کہ:-

”لَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ الرُّبُوبِيَّةَ“ یعنی ”اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔“

المختصر! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نور ہی کی پوری کائنات میں ضیا باریاں ہیں۔ کائنات کی ہر شئی اپنے وجود اور بقا کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی مرہون منت اور احسان مند ہے۔ اگر حضور اقدس کی ذات گرامی نہ ہوتی تو کائنات کا وجود تک نہ ہوتا۔ بقول:-

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

(از:- امام عشق محبت، حضرت رضا بریلوی)

عرش و کرسی، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، چاند، سورج و ستارے، فرشتے اور تمام مخلوق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے صدقہ میں ظہور میں آئی ہے۔ بقول:-

ہے انہیں کے نور سے سب عیاں، ہے انہیں کے جلوہ میں سب نہاں  
بنے صبح تابش مہر سے، رہے پیش مہر یہ جاں نہیں

(از:- امام عشق و محبت، حضرت رضا بریلوی)

کائنات کی کوئی بھی شئی اپنے وجود میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیلی اور خیراتی ہونے سے خارج نہیں۔ پوری کائنات حضور اقدس کے نور کے طفیل و بدولت ہی وجود میں آئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہی کائنات کو وجود بخشا ہے۔

حدیث قدسی:- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”مجھے اپنی ذات کی قسم! میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ:-

”لَا عَرَفَهُمْ كَرَامَتِكَ وَمَنْزِلَتِكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ  
الدُّنْيَا“

ترجمہ:- ”تا کہ انہیں آپ کی اس عظمت و کرامت اور منزلت و مرتبت سے آگاہ کروں جو میرے یہاں ہے، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔“ (حوالہ:- ”خصائص کبریٰ فی المعجزات خیر الوری“، (عربی) از:- علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، جلد: ۱، ص: ۱۹۳)

حدیث قدسی:- حضرت علامہ علی بن سلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی المعروف بہ ملا علی

قاری اپنی کتاب میں ”دیلمی“ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے اللہ

قرآن میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی واضح دلیل ہیں:-

“يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ”
(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۷۴)
ترجمہ:- ”اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔“ (کنز الایمان)
تفسیر:- واضح دلیل سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، جن کے صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۹۰)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بُرْهَانِ رَبِّ“ یعنی ”اللہ کی دلیل“ کے معزز، مقرب اور معظم لقب سے ملقب فرمایا گیا ہے۔ اسی ایک لقب سے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اختیارات و کمالات ثابت ہو جاتے ہیں۔ اہل دانش اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دلیل کا قوی یعنی مضبوط ہونا یا دلیل کا ضعیف یعنی کمزور ہونے کا انحصار دلیل والے یعنی صاحب دلیل پر ہے یعنی دلیل کرنے والا جتنا قوی ہوگا، اتنی ہی قوی اس کی دلیل ہوگی اور اگر صاحب دلیل ضعیف ہے تو اس کی دلیل کمزور یعنی عاجز ہوگی۔ مثال کے طور پر بڑے اور نامور وکیل کی دلیلیں قوی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اس وکیل کے وسیع علم کی بناء پر اس کی دلیلیں اتنی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہیں کہ مقدمہ میں کامیابی اور فتح حاصل ہوتی ہے جب کہ چھوٹے اور ناتجربہ کار نو تعلیم یافتہ کی دلیلیں کمزور اور عاجز ہوتی ہیں۔ بڑے اور تجربہ کار کہنہ مشق وکیل کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ اس کی دلیل کمزور یعنی عاجز ہیں۔ بلا مثال و تمثیل جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”اللہ کی دلیل“ ہیں، تو اللہ کی دلیل کبھی بھی ”عاجز“ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ وہ ”عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ ہے۔

قرآن میں حضور اقدس کو ”نور“ کہا گیا ہے:-

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کریمہ کے ظاہری لفظی معنی سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں میں غیرت کا زہر برابر بھی شائبہ ہوتا تو وہ ہرگز ایسے ناشائستہ جملے کبھی نہ کہتے کیوں کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا خطاب کفار اور مشرکین سے ہے کیونکہ کفار و مشرکین کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر زمانہ میں اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے آئے ہیں۔ لہذا ان سے ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمایا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کے کسی بھی مؤمن امتی نے اپنے نبی کو ”بشر“ نہیں کہا لہذا مؤمنین سے یہ فرمایا گیا ہے:-

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ“
(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۵)
ترجمہ:- ”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب“ (کنز الایمان)
تفسیر:- اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازی شافعی المتوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں کہ:- ”الْمَرَادُ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَ بِالْكِتَابِ قُرْآنٌ“ یعنی ”اس آیت میں نور سے مراد حضرت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔“ (تفسیر کبیر، پارہ: ۶، ص: ۱۸۹)

اس آیت کے علاوہ دیگر آیت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”نور“ فرمایا گیا ہے۔ اہل ذوق حضرات مندرجہ ذیل آیات کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں:-

○ پارہ: ۱۰، رکوع: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۳۳،

○ پارہ: ۱۸، رکوع: ۱۱، سورۃ النور، آیت: ۳۵،

○ پارہ: ۲۲، رکوع: ۳، سورۃ الاحزاب، آیت: ۴۵ و ۴۶،

○ پارہ: ۲۸، رکوع: ۹، سورۃ الصف، آیت: ۸،

نے اس ماہر وکیل کی تعریف کی ہے یا تو ہیں؟ اس شخص کی زبانی ایسی بات سن کر وہ وکیل اس سے خوش ہوگا؟ بلا مثال و تمثیل اگر کوئی منافق اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور لامحدود طاقت کا تو اعتراف کرتا ہو مگر اللہ کی ”دلیل“ کو کمزور اور عاجز کہتا ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کی ہے یا تو ہیں و گستاخی و بے ادبی کی ہے؟ کیا ایسے منافق کی ایسی بات سے اللہ تعالیٰ کبھی خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں بلکہ اس پر اپنا غضب و عتاب نازل فرمائے گا۔

ایک اہم نکتہ کی جانب بھی قارئین کرام کی توجہ ملتفت کرنا بھی ضروری ہے کہ سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت کی ابتداء میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کا کلمہ وارد ہے یعنی ”اے لوگو“، یعنی یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ تمام انسانوں میں مؤمن، کافر، مشرک، مرتد، منافق، یہود، نصاریٰ وغیرہ سب آگئے۔ یہ خطاب صرف مؤمنین سے نہیں بلکہ تمام نوع بنی آدم سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”عَلِيمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ“ ہے۔ سینہ میں چھپی ہوئی مخفی بات سے بھی وہ خبردار ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور حقیقت میں گستاخ ایسے منافق بھی پیدا ہوں گے، جو میرے حبیب اکرم اور محبوب اعظم کو ”عاجز بندہ“ کہیں گے۔ میرے محبوب اعظم کو کوئی بھی ایمان والا ”عاجز“ بندہ، نہیں کہے گا بلکہ کفار، منافقین و مشرکین ہی ایسے تو ہیں آمیز کلمات کہہ کر اور لکھ کر گستاخی کریں گے لہذا اس آیت کی ابتداء میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے بجائے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کا جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور تمام لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ یعنی ”اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی“ (کنز الایمان)۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”عاجز“ بندہ کہنے والوں کی سرکش زبانوں پر لگام ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”عاجز بندہ“ کہنے والو! ہوش میں آؤ، وہ اللہ کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر و قوی ہے، اور اللہ کی دلیل بھی قوی ہے، اللہ کی دلیل کبھی بھی کمزور و عاجز نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اس آیت میں ”دَلِيلٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ نہیں فرمایا

اس کی قدرت اور طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کے ایک حکم ”كُنْ“ سے یعنی ”ہو جا“ فرمانے سے ہی ”فَيَكُونُ“ یعنی ”سب کچھ ہو جاتا ہے۔“ اس رب العلمین، رب قدیر، قادر مطلق، قوی، باسط، حافظ، حفیظ، ناصر، نصیر، حی، قیوم، لہ ما فی السموات والارض، فعال لما یرید، احکم الحاکمین“ اور مالک و مولیٰ کی دلیل کبھی ”عاجز“ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی سر پھر اشریر اللہ کی دلیل کو ”عاجز“ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین اور گستاخی کرتا ہے۔ کیونکہ دلیل کو ”عاجز“ کہنا صاحب دلیل کو عجز سے معیوب کرنے کے مترادف ہے۔

امام منافقین زمانہ مولوی اسمعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ اور مہلک ایمان کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے صفحہ نمبر ۹۹ پر تمام انبیاء کرام کو معاذ اللہ ”عاجز“ لکھ کر انبیاء کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے زعم اور مغالطہ میں درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں گستاخی و بے ادبی کر ڈالی ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء کرام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ”بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ یعنی ”تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل“ فرمایا ہے۔ رب کی دلیل اس کی قدرت کے مطابق قوی ہی ہوتی ہے۔ رب قوی کی دلیل کبھی بھی کمزور اور عاجز نہیں ہو سکتی۔ رب کو عاجز کہنے والا درپردہ اور فی الحقیقت رب قوی و قدیر کو ہی عاجز کہہ رہا ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے قہر، عذاب، غضب اور عتاب کا مستحق بن رہا ہے۔ منافقین زمانہ کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لئے اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی شان گھٹانا اور ان کی شان گھٹا کر یہ اطمینان باطل حاصل کرنا کہ ہم نے اللہ کی شان بہت بڑھادی اور اللہ کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا لیکن یہ سب ان کا خوابی خیال ہے۔ جو ہباء منشوراً کی طرح کافور ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی کی دلیل کو عاجز کہنا اور پھر یہ گمان کرنا کہ میں نے اس کی تعریف کردی نری بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ماہر اور کہنہ مشق تجربہ کار وکیل سے یہ کہے کہ جناب میں آپ کے علم اور آپ کی ذہانت کا قائل ہوں لیکن آپ کی دلیلیں کمزور و عاجز ہیں، تو کیا اس

گیا بلکہ ”بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ فرمایا گیا ہے۔ ”دلیل“ اور ”برہان“ کے معنی میں بہت فرق

ہے۔

## ”ایک اہم سوال؟“

ہوسکتا ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن میں کبھی نور کہا گیا ہے، کبھی اللہ کی برہان کہا گیا ہے، اور کبھی یہ حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی ذات گرامی کی اس طرح مختلف کیفیتیں کیوں بیان فرمائی گئی ہیں؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دو چار سطروں میں دے کر سمجھایا نہیں جاسکتا بلکہ تفصیل درکار ہے۔ تسلی بخش جواب حاصل کرنے کے لئے اوراق آئندہ کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ امید ہے کہ اس سوال کا شافی و وافی و کافی جواب حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ وحبیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

## ”حضور اقدس ﷺ کی تین حیثیتیں“

مندرجہ بالا جو سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب عرض خدمت ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے

کہ:-

- ☆ قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی ”بشر“ فرمایا گیا ہے۔
- ☆ قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اللہ کی دلیل“ اور ”نور“ بھی فرمایا گیا ہے۔

اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی یہ صورت درپیش ہوتی ہے کہ:-

- ☆ بعض احادیث میں حضور اقدس نے اپنی شان عبدیت اور بشریت کا اظہار فرمایا ہے۔

☆ دلیل = اس حجت (Argument) اور وضاحت (Explanation) کو کہتے ہیں جو قبول بھی کی جاسکتی ہے اور رد بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط حجت پیش کر کے اس کو توڑا جاسکتا ہے اور یہ حجت ہمیشہ غالب نہیں ہوتی بلکہ کبھی مغلوب بھی ہو جاتی ہے۔

☆ برہان = اس حجت کو کہتے ہیں جو ایسی واضح ہوتی ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جاسکتا اور اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کا تامل نہیں ہوتا۔ اس دلیل کے مقابلہ میں اس سے زیادہ قوی حجت پیش نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ حجت ایسی قوی اور مضبوط ہوتی ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے اور مغلوب نہیں ہوتی۔

دلیل اور برہان کے فرق کے تعلق سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ اہل ذوق حضرات تحقیق و توضیح کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر آب دار موتی و جواہر برآمد کرنے پر مستعد ہوں۔

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کے ظاہری لفظی معنی کو سند اور دلیل بنا کر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ”بشر“ کہنے کا شور و غوغا مچانے والے منافقین کو قرآن مجید کی آیت ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ اور ”قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا ان آیات کے دیکھنے سے ان کی بصارت زائل ہو گئی ہے؟ یا پھر جذبہ بغض و عناد کی وجہ سے قصداً و عمداً روگردانی و انحراف کرتے ہیں؟

انسانوں کے ساتھ مل جل کر انسانی زندگی بسر فرماتے ہیں۔ مثلاً مذہبی زندگی، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی، تجارتی زندگی، مجاہدانہ زندگی، عابدانہ زندگی، وغیرہ، یعنی آپ نے تمام نوع انسانی پر احسان و کرم فرماتے ہوئے انسانوں کے درمیان بشکل انسان جلوہ فرما رہے اور انسانیت کے اہم تقاضوں کو پورا فرمایا یعنی آپ نے انسانوں کو انسانی اخلاق حسنہ اور اللہ کی توحید کی صرف زبانی تعلیم ہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس پر عمل فرما کر انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بننے کی عملی تعلیم فرمائی۔ آپ نے مکہ معظمہ میں اپنے بچپن اور جوانی کے ایام اس نفاست اور پاکیزگی سے بسر فرمائے کہ آپ کے دامن عصمت پر کبھی بھی کسی امر مکروہ کی گرد تک نہ آئی۔ آپ نے رشتہ داروں کی معیت میں خاندانی اور گھریلو زندگی بسر فرمائی۔ نکاح فرمایا اور ازدواجی زندگی کو حسن اُسلوب کی زینت بخشی، آپ نے تجارت فرمائی اور تاجروں کو دیانت داری اور ایمان داری کا درس دیا، آپ کے ظالموں کے ظلم و ستم بھی برداشت فرمائے اور مظلوموں کو صبر و تحمل کا دامن تھا مے رہنے کی نصیحت و تلقین فرمائی، دشمنوں کی ستم ظریفیوں کا خندہ پیشانی نیک سلوک سے جواب دیا، اپنے وطن مالوف کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ ہجرت بھی فرمائی اور وقت کے تقاضا کے پیش نظر ”اعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ“ اور ”انسداد ظلم و ستم“ کے لئے جہاد بھی فرمایا لیکن کسی بھی حالت میں حق و ہدایت کی راہ استوا سے عدول و انحراف نہ کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید اور عبادت میں منہمک رہے اور انسانوں کو یہ درس دیا کہ سچا انسان وہ ہے جو اللہ کا بندہ اور پرستار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی آپ نے اتم و اکمل طریقہ سے بجا آوری فرمائی اور لوگوں کو عملی تعلیم دی۔ آپ نے اپنے نوری وجود کو بشری قالب میں مستور فرما کر، دونوں جہاں کے شہنشاہ اور کائنات کے مالک ہونے کے باوجود سادہ اور بے ریا زندگی کو پسند فرمایا۔ عیش و آرام اور تکلفات کو ترک فرما کر سادگی کو اختیار فرمایا۔ یہ سب آپ نے لوگوں پر احسان فرماتے ہوئے اور روح انسانیت کو جلا بخشنے اور کرم فرماتے ہوئے کیا اور لوگوں کو یہ حقیقت باور کرا دی کہ میں خدا کا محبوب ہونے کے باوجود انسانوں کے بیچ میں شانِ عبدیت سے متمکن ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہوں تاکہ تم بھی میرے نقش قدم پر چل کر توحید خالص پر استقلال و استحکام سے گامزن ہو کر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بنا لو۔

بعض احادیث میں اپنی شانِ نورانیت ظاہر کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔  
 بعض احادیث میں اپنی شانِ محبوبیت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔  
 بعض احادیث میں اپنی شانِ تقرب الی اللہ کی نشاندہی میں فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔  
 بعض احادیث میں بارگاہِ الہی میں اپنی وجاہت و منزلت کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ ”أَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عِنْدَ رَبِّي“ یعنی ”میرا مقام میرے رب کے ہاں تمام اولادِ آدم سے بڑھ کر ہے۔“

(ترمذی عن ابن عباس جلد: دوم، ص: ۲۰۱)

پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت و شکل انسانی میں دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن آپ کے ذات اقدس صرف بشری کیفیت تک ہی محدود نہ تھی بلکہ آپ بظاہر انسان یعنی بشر ہونے کے باوجود تین کیفیتوں کے حامل تھے وہ کیفیات کیا تھیں؟

○ علامہ، شیخ اجل، حضرت اسمعیل حقی بروسوی (المتوفی ۱۱۳۷ھ) علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی شہرہ آفاق اور مشہور و معروف ”تفسیر روح البیان“ میں پارہ: ۱۶، سورہ مریم، آیت: ۱ ”كَهَيْعَصَ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین کیفیتیں ہیں (۱) صورت بشری (۲) صورت حقی اور (۳) صورت ملکی۔ حضور اقدس کی ان تینوں حیثیتوں کو بالتفصیل سمجھنے کی کوشش کریں:-

حضور اقدس کی کیفیت صورت بشری:-

یعنی انسانوں جیسی کیفیت۔ یعنی ظاہری شکل و صورت میں آپ انسان ہی ہیں اور عام

بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اسی طرح آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی صورت بشری اور شانِ عبدیت کا اظہار فرمایا۔

### حضور اقدس کی کیفیتِ صورتِ حقیقی :-

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تقرب اور بارگاہِ الہی میں آپ کی قدر و منزلت اور عزت و وضاحت اور مرتبہ و رسائی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ہی اپنی زبانِ اقدس سے ارشاد فرمایا کہ: ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔“ (الحديث)

اس حدیث کے ضمن میں امام اجل، علامہ نبہانی قدس سرہ اپنی معرکہ الآراء و شہرہ آفاق تصنیف، کتاب مستطاب ”حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي مُعْجَزَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ“ میں امام احمد بن اور لیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ناقل کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ تَعَالَى“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا“ اس طرح آپ نے آئینہ حق نما کی حیثیت سے اپنے چہرہ پر نور میں ”اللہ کے نور“ کا جلوہ دکھایا اور اپنی صورتِ حقیقی ظاہر فرمائی۔

✪ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ”لَمْ يَعْرِفْنِي حَقِيقَةً غَيْرُ رَبِّي“ یعنی مجھے میرے رب کے سوا کسی نے بھی حقیقتاً نہیں پہچانا۔ ایسی کئی روایات کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں کہ جن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورتِ حقیقی کی کیفیت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

### حضور اقدس کی کیفیتِ صورتِ ملکی :-

یعنی وہ کیفیت کہ وہاں تک پہنچنے کی یا اس کیفیت سے واقف ہونے کی بلکہ اس کیفیت کی حقیقت کا تصور کرنے کی بھی کسی انسان یا فرشتہ میں استطاعت و صلاحیت نہیں۔ کیونکہ اس ملکی صورت کی کیفیت کے متعلق خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

”لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسِعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ“

آپ کی ہدایت و نصیحت لوگوں پر اثر پذیر تب ہی ہو سکتی تھی کہ خود آپ اس پر عمل فرمائیں۔ اگر آپ نے انسانی شکل و صورت اختیار نہ فرمائی ہوتی اور بصورت فرشتہ بذات خود ان اعمالِ حسنہ پر عمل فرماتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ لہذا آپ نے انسانی شکل و صورت اختیار فرما کر تمام اعمالِ حسنہ پر عمل کر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ سب کام انسانوں کو کرنے کے ہیں اور انسانوں سے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بصورت انسان دیکھ کر لوگوں کو ایک اُنس بھی ہوا اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے مشکل نظر آنے والے کام آسان محسوس ہوئے۔ انسان کی دنیوی حیات ”مَزْرِعَةُ الْآخِرَةِ“ یعنی آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں جتنا بویا جائے گا اسی کے مطابق آخرت میں پھل و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اس حقیقت کو لوگوں کو عملی طور پر سمجھانے اور اس حقیقت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لئے آپ نے بھی کثرت سے عبادت و ریاضت فرمائی۔ شب بھر نماز میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ طولِ قیام کی وجہ سے آپ کے پائے اقدس میں ورم آجاتا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ کے قدم ہائے مبارک میں شگاف پڑ جاتے۔ الغرض آپ نے شانِ عبدیت کے تمام تقاضوں کی تکمیل اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں حد درجہ سعی فرمائی۔

علاوہ ازیں گا ہے گا ہے عظیم معجزات کا بھی ظہور فرمایا۔ آپ کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کو تعظیم کا سجدہ کریں، تب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہود و نصاریٰ کی طرح قومِ مسلم بھی اپنے نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے حدودِ شرع کو متجاوز نہ کر جائیں۔ اس دورانِ اندیشی کو ملحوظ فرماتے ہوئے اور ہمیشہ کے لئے شرک کی نجاست کا سدباب فرمانے کے لئے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ”فَإِنَّمَا عَبَدَةُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“ یعنی ”میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول“ (بخاری و مسلم عن عمر بن الخطاب)

آپ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اعظم اور بے شمار فضائل و خصائص و کمالات کا حامل ہونے کے باوجود خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ اور رسول ہوں



## ”حضور اقدس کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات“

بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل و صورت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی صورت خاصہ سے نوازا ہے کہ ولادت باسعادت سے لے کر دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک کی آپ کی ظاہری حیات طیبہ کی ہر ہر ادا اور جسم اقدس کی نوری خصوصیت میں آپ کا مثل و ثنائی نہیں۔ امام جلیل، قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی اپنی کتاب ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ میں فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن اور صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا ہے اور حقیقت روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء کرام بشری اوصاف سے اعلیٰ ہیں۔“

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ”اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں کہ ”انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام و ظواہر چونکہ ظاہر احد بشریت پر متمکن ہوتے ہیں لیکن ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملاء اعلیٰ سے متعلق ہیں۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ ”تفسیر فتح العزیز المعروف بہ تفسیر عزیزئی“ میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام (ہمیشہ) حاصل ہو۔ بہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔“

ایسے ایمان افروز اقوال زریں سے ائمہ ملت اسلامیہ کی کتابیں لبریز ہیں۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام اقوال کو یہاں نقل کریں۔ اہل ذوق و شوق حضرات مندرجہ ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیں:-

ترجمہ:- ”میرے لئے اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کے کچھ اوقات ہیں۔ ان اوقات میں مجھے میرے رب سے جو نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس مقام پر نہ کوئی فرشتہ مقرب پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔“

یعنی اس اعلیٰ مقام و منزل تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ صرف حضور اقدس کی ہی اس مقام رفیع تک رسائی ہے۔ یہ ہے صورت ملکی کی کیفیت جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت بشری کے علاوہ دیگر دو کیفیات یعنی (۱) صورت حقی اور (۲) صورت ملکی بھی ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں صورت بشری سے کئی درجہ افضل و اعلیٰ اور ارفع و بالا ہیں۔ بلکہ یہ دونوں کیفیات صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”خصائص کبریٰ“ میں سے ہیں۔ حضور اقدس کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ دونوں کیفیتیں میسر نہیں ہوتیں، نہ ہو سکتی ہیں بلکہ ان حیثیات کی صحیح کیفیات سے بھی ہم واقف نہیں ہو سکتے لہذا ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ عظمیٰ اور مرتبہ عالی کو کما حقہ سمجھنے سے ہم عاجز و قاصر ہیں۔ حضور اقدس کے مرتبہ و مرتبہ کو، حضور اقدس کو اپنے فضل و کرم اور نعم و عطا کی بے شمار نعمتوں اور عظمتوں سے نوازنے والا خدا ہی جانتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت حقی اور صورت ملکی تو بہت دور کی بات ہے بلکہ حضور اقدس کی صورت بشری کو بھی ہم کما حقہ نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی بے مثل و مثال نوری بشریت عطا فرمائی ہے کہ:-

تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا  
کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم

(از:- امام عشق و محبت، حضرت رضا بریلوی)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کیسی ”نوری بشریت“ تھی اور آپ صفحہ ہستی میں بلکہ پوری کائنات میں کیسے بے مثل نوری بشرت تھے۔ وہ دیکھیں:-

(۱۳) ”مَدَارِجُ النُّبُوَّةِ“

از: شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین ترک محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۲ھ)

(۱۴) ”تَجَلَّى الْيَقِينِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ“

از: امام اہلسنت، مجددین و ملت امام احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی محدث بریلوی (المتوفی ۱۳۴۰ھ)

(۱۵) ”الْأَمْنُ وَالْعُلَى لِنَاعَتِي الْمُصْطَفَى بِدَافِعِ الْبَلَاءِ“

از: امام اہلسنت، مجددین و ملت امام احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی محدث بریلوی (المتوفی ۱۳۴۰ھ)

اب ہم مندرجہ بالا کتب سے چند اقتباسات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری بشریت کو ہم الگ الگ عنوان سے بیان کریں گے۔ امید ہے کہ قارئین کرام ایمان کی تازگی محسوس کریں گے۔ (انشاء اللہ وجیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

## ”بے مثل ولادت باسعادت“

ویسے تو اس دنیا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر زچہ خانہ نو وارد اطفال سے بھرا ہوتا ہے۔ آج تک کروڑوں، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں کی آمد کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بے شمار پیدا ہونے والے انسانوں میں کچھ افراد اپنے زمانہ کے منفرد شخص کی حیثیت سے شہرت یافتہ بھی ہوئے۔ کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہوا۔ کوئی کسی ریاست کا نواب بنا، کوئی عالمگیر پیمانہ پر سیاسی لیڈر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوا۔ بے شمار ماہرین فن، ادیب، تاجر، حکمراں، موجد، اتالیق، مقتدا، رہبر وغیرہ پیدا ہوئے لیکن تولد ہونے کے معاملہ میں سب کا حال یکساں تھا۔ بلکہ بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بین الاقوامی پیمانہ پر شہرت پائی

(۱) ”الشِّفَا بَتَّعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَى“

از: قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۴ھ)

(۲) ”شَوَاهِدُ النُّبُوَّةِ“

از: علامہ نور الدین عبدالرحمن جامی بن احمد محمد ایرانی (المتوفی ۸۹۸ھ)

(۳) ”نَسِيمُ الرِّيَاضِ شَرَحَ شِفَاءِ قَاضِي عِيَاضٍ“

از: علامہ امام احمد شہاب الدین خفابی المصری (المتوفی ۱۰۶۹ھ)

(۴) ”الْخَصَائِصُ الْكُبْرَى فِي الْمُعْجَزَاتِ خَيْرِ الْوَرَى“

از: خاتم الحفاظ، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۵) ”مَنَاهِلُ الصِّفَافِي تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الشِّفَا“

از: خاتم الحفاظ، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۶) ”خُلَاصَةُ الْوَفَائِي أَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطَفَى“

از: امام علامہ نور الدین عبداللہ سمہوری شافعی مدنی بن علی بن احمد سمہوری (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۷) ”وَفَاءُ الْوَفَاءِ بِأَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطَفَى“

از: امام علامہ نور الدین عبداللہ سمہوری شافعی مدنی بن علی بن احمد سمہوری (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۸) ”شِفَاءُ السَّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ“

از: محقق، نقی الدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی سبکی

(۹) ”مَوْجِبَاتُ الرَّحْمَةِ وَعَزَائِمُ الْمَغْفِرَةِ“

از: امام ابوالعباس احمد بن ابی بکر رواد بھنی صوفی

(۱۰) ”شَرَحَ شِفَاءِ أَمَامِ قَاضِي عِيَاضٍ“

از: علی بن سلطانی محمد ہروی کی المعروف ملا علی قاری (۱۰۴۴ھ)

(۱۱) ”قُوَّتُ الْقُلُوبِ فِي مَعَامَلَةِ الْمَحْبُوبِ“

از: امام عارف باللہ سیدی ابوطالب کی (المتوفی ۳۸۶ھ)

(۱۲) ”أَمْوَهِبُ اللَّذَنِيَّةِ عَلَى الشِّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“

از: امام اجل احمد بن محمد خطیب مصری قسطلانی (المتوفی ۹۲۳ھ)

حضور اقدس ختنہ کئے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔

(حوالہ: - شواہد النبوة اردو ترجمہ، ص: ۶۸)

☆ ابن عدی اور ابن عساکر نے بہ روایت حضرت عطاء بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون (ختنہ) کئے ہوئے پیدا ہوئے۔

(حوالہ: - خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

### جسم اقدس کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہ تھی:-

حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر بن عاصم کلابی سے روایت کی کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے اسحاق بن عبداللہ سے بیان کیا کہ حضور اقدس کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”حضور اقدس پاک و صاف پیدا ہوئے یعنی آپ کے جسم اقدس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی آلودگی نہ تھی اور جب آپ کو زمین پر رکھا تو آپ اپنے دست مبارک کے سہارے سے بیٹھ گئے۔“

(حوالہ: - خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۲۰)

### ولادت کے وقت نور کی بارش:-

(۱) ”بیہقی، طبرانی، ابونعیم اور ابن عساکر نے حضرت عثمان بن ابی العاص، رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی، گویا ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا،

لیکن ان کی پیدائش، ایام طفلی وغیرہ کے حالات سے ان کے اعزاء واقربا بھی ناواقف تھے۔ الحاصل! ہر پیدا ہونے والا عام انسان حسب معمول طریقہ پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کائنات میں ایک ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کی ولادت اقدس ایسی باسعادت، نفیس، پاکیزہ، صاف، ستھری، مقدس اور پر نور ہوئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہ کبھی پیش کی گئی ہے اور نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس مقدس ذات گرامی کی تخلیق خالق کائنات کا عظیم شاہکار اور نوع انسانی پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل و مثال بنایا ہے کہ اس محبوب اکرم کی زندگی کا ہر پہلو اور جسم اقدس کا ہر عضو مقدس بھی بے مثل و مثال ہے، حتیٰ کہ ان کی ولادت باسعادت بھی ایسی بے مثل و مثال ہوئی ہے کہ ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔

### ولادت کے وقت ہی معجزات کا ظہور:-

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس کا نور چراغ کی روشنی کو مات کر رہا ہے۔ اس رات میں نے چند علامات کا مشاہدہ کیا:-

اول:- جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو آپ نے فوراً سجدہ فرمایا۔

دوم:- جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو بزبان فصیح فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

سوم:- پورے گھر کو میں نے آپ کے چہرہ انور کے نور سے روشن اور منور پایا۔

چہارم:- میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں لیکن ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اے صفیہ! اپنے آپ کو زحمت مت دے کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو پاک و صاف پیدا کیا ہے۔

پنجم:- پھر میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ مولد لڑکی ہے لڑکا؟ تو میں نے دیکھا کہ

کہ حضور میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ بادل ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمی پچھونا بچھا ہے۔ اور گوہر شاداب کی تین کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر اور ایک بادل نے آ کر حضور کو ڈھانپ دیا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے۔ پھر جب روشن ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے کہ واہ! واہ! ساری دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی۔ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔“

(حوالہ:- الامن والعلی، از:- امام احمد رضا ص: ۵۸)

یہ حدیث خاتم الحفاظ، صاحب تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور مستند کتاب ”الخصائص الكبرى فی المعجزات خیر الوری“ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۲۳ تا ۱۲۵، پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

### خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا:-

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا۔ سحری کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کی گھڑی آئی تو خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے اور کعبہ نے مقام ابراہیم یعنی جس سمت مولد النبی (جس گھر میں حضور کی ولادت ہوئی) تھا اس طرف سجدہ کیا، میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دفعۃً دیوار کعبہ سے یہ آواز آئی کہ:-

وَلَدَ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ الَّذِي تَهْلِكُ بِيَدِهِ الْكُفَّارُ

جس کی وجہ سے ہر شے روشن ہو گئی۔ یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۸)

(۲) ”ابونعیم نے بہ روایت عطاء بن یسار اُم سلمہ سے اور انہوں نے حضرت آمنہ سے

روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام (یعنی ملک شام کے محل) روشن ہو گئے۔ اور میں نے ان کو دیکھ لیا“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۹)

### ولادت کے وقت ہی پوری دنیا حضور کے قبضہ میں:-

امام احمد و ابویعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:-

”لَمَّا خَرَجَ مِنْ بَطْنِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيَتْهُ فَعُيِّبَ عَنِّي وَجْهِي ثُمَّ تَجَلَّتْ فَإِذَا أَنَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفٍ أَبْيَضٍ وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ وَقَدْ قَبِضَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ مَفَاتِيحَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ قَبِضْ مُحَمَّدٌ عَلَى مَفَاتِيحِ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيحِ الرِّيحِ وَمَفَاتِيحِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ سَحَابَةٌ أُخْرَى غَشِيَتْهُ فَعُيِّبَ عَنِّي ثُمَّ تَجَلَّتْ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَيَّ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ مُطَوَّيَةٌ وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ بَخَّ بَخَّ قَبِضْ مُحَمَّدٌ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمْ يَبْقَ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا دَخَلَ فِي قَبْضَتِهِ“

ترجمہ:- ”جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ سجدے میں

پڑے ہیں۔ پھر ایک سفید بادل نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا

کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا  
(از: - امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی)

آپ مختون پیدا ہوئے:-

(۱) طبرانی نے اوسط اور ابو نعیم و خطیب اور ابن عساکر نے بروایت مختلفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”میرے رب کا مجھ پر جو انعام و اکرام ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے ستر کو کسی نے نہ دیکھا“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

اس روایت کو ایضاً نے ”المختارہ“ میں بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔

(۲) ابن عدی اور ابن عساکر نے بروایت عطا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔“ (خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

عالم شیرخواری میں گہوراہ میں کلام فرمانا:-

امام ابو الفضل، احمد بن علی بن حجر مکی عسقلانی المتوفی ۸۵۳ھ قدس سرہ اپنی مشہور اور معتبر کتاب ”ارشاد الساری شرح صحیح بخاری“ میں فرماتے ہیں کہ ”سیر واقدی میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا۔ اور ابن سبع نے ”الخصائص“ میں بیان کیا کہ آپ کے گہوارے (ہینڈولا) کو فرشتے ہلاتے تھے اور سب سے پہلا کلام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا“

وَيَتَطَهَّرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ“  
ترجمہ:- ”مصطفیٰ و مختار کی ولادت ہوگئی آپ کے ہاتھوں کفر ہلاک ہوگا، اور خانہ کعبہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کریں گے اور صرف مالک حقیقی کی عبادت کا حکم فرمائیں گے۔“ (حوالہ:- حاشیہ سیرۃ الحلبيہ، ص: ۲۲)

☆ ”خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی کہ اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوق در جوق توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت (شرک کے کاموں) سے پاک کر دے گا۔ اے عزیٰ! تو ہلاک ہو گیا اور تین شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہ رُکا۔“  
(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۲۲)

گہوارے میں سے جدھر اُنکلی کا اشارہ فرماتے اُدھر چاند جھک جاتا:

امام بیہقی ابن عساکر، صابونی اور خطیب نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا:-

”یا رسول اللہ! آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی اُنکلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ فرماتے چاند اُدھر جھک جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت چاند کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا ہوں۔“

(حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۷

(۲) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۸۰

چاند جھک جاتا جدھر اُنکلی اٹھاتے مہند میں

ہمارے شہر پور بند میں بھی اکثر مساجد میں ”موئے مبارک“ کی عظیم نعمت جلوہ گر ہے۔ ان مقدس موئے مبارک کا مطلقاً سایہ نہیں۔ حقیر فقیر سر پانچھیر راقم الحروف احقر العباد کو کئی مرتبہ موئے مبارک کو غسل دینے کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ تیز لائٹ (Powrful light) میں بالکل صاف اور سفید کاغذ پر بھی موئے اقدس کا سایہ نہیں پڑتا بلکہ خرد بین (Microscoap) سے دیکھنے پر بھی موئے اقدس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر ہر شہر میں موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ جو صاحب مشاہدہ کرنا چاہیں وہ آج بھی اس عظیم معجزہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے حیات النبی آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج بھی حیات ہیں کیونکہ موئے مبارک زندہ آدمی کے بال کی طرح بڑھتے ہیں بلکہ عجیب خصوصیت سے بڑھتے ہیں یعنی موئے مبارک میں شاخیں پھوٹی ہیں جس طرح درخت کی ڈالی میں شاخیں پھوٹ کر ادھر ادھر ہر سمت پھیلتی ہیں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے اقدس میں ہر طرف شاخیں پھیلتی ہیں اور بڑھ کر لمبی ہوتی ہیں۔ اس عظیم معجزہ کا آج بھی عینی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

خیر! جسم اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اس عظیم معجزہ کے ثبوت میں کثرت سے احادیث صحیحہ اور ائمہ دین کے اقوال صادقہ موجود ہیں۔ جن کا علی الاستیعاب بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ لہذا چند احادیث کریمہ اور چند اقوال ائمہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر پیش خدمت ہیں:-

احادیث کریمہ:-

(۱) امام الحدیث، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی (المتوفی ۲۷۹ھ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکتہ الآراء اور معتمد کتاب ”نوادیر الاصول“ میں حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ:-

”عَنْ ذَكْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص: ۱۳۷)

بے مثل ایام طفلی:-

”حضور اقدس کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ۵ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو ماہ کے ہوئے تو لڑکوں کی طرح سرین کے بل چلنے لگے ۶ جب پانچ ماہ کی عمر شریف ہوئی تو اٹھ کر پاؤں پر آہستہ آہستہ چلنے لگے ۷ چھ ماہ کی عمر شریف ہوئی تو تیز تیز چلنے لگے ۸ عمر شریف جب سات ماہ کی ہوئی تو آپ جدھر چاہتے خوشی سے اکیلے چلے جاتے ۹ جب نو ماہ کی عمر شریف ہوئی تو فصیح زبان میں گفتگو فرمانے لگے ۱۰ اور جب عمر شریف دس ماہ کی ہوئی تو لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی فرمانے لگے۔“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۵۷)

”جسم اقدس کا سایہ نہ تھا“

حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین عظام، ائمہ دین، علمائے کرام، اور ملت اسلامیہ کے تمام اولیاء، صلحاء، صوفیاء وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات میں بلا کسی شک و تردید متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”نوری جسم پاک“ کا سایہ نہیں تھا۔ سورج کی دھوپ میں، چاند کی چاندی میں اور چراغ کی روشنی میں بھی آپ کے جسم اقدس کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ آج بھی اپنی آن، بان اور شان و شوکت کے ساتھ روشن و ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے شریف (بال مبارک) آج بھی دنیا میں کئی مقامات میں بطور تبرک محفوظ ہیں۔ الحمد للہ!

کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔“

حوالہ:- (۱) تفسیر مدارک التنزیل، جلد: ۲، ص: ۱۰۳،

(۲) مدارج النبوة فارسی رکن ۲، ص: ۱۰۰،

(۳) مدارج النبوة، اردو ترجمہ جلد: ۲، ص: ۱۶۱

(۴) حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ:-

”قَالَ إِبْنُ سُبْعٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
ظِلَّةَ كَأَنَّ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا إِذَا مَشَى فِي  
الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ“

ترجمہ:- ”ابن سبغ نے فرمایا کہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں کہ

آپ نور تھے۔ سورج اور چاند کی روشنی میں جب چلتے تھے تب آپ کا

سایہ نظر نہیں آتا تھا۔“ (خصائص کبریٰ، عربی، جلد: ۱، ص: ۶۸)

#### اقوال ائمہ دین:-

(۱) امام الزماں، علامہ قاضی عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۴ھ) قدس

سرہ فرماتے ہیں کہ:-

”وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا فِي قَمَرٍ  
لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا وَأَنَّ الدُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا  
ثِيَابِهِ“

ترجمہ:- ”یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ آفتاب و ماہتاب کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ

حضور نور تھے اور آپ کے جسم اطہر اور کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔“

(الشفاء بعتریف حقوق المصطفى، عربی، جلد: ۱، ص: ۳۴۲)

(۲) امام حلیل، حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ نہ سورج کی

دھوپ میں نظر آتا نہ چاندنی میں“

(حوالہ:- (۱) المواہب اللدنیہ علی الشمائل الحمدیہ، عربی، مطبوعہ مصر، ص: ۳۰،

(۲) الزرقانی علی المواہب، عربی، مطبوعہ مصر، جلد: ۲، ص: ۲۲۰)

(۲) حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہما

نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا

ہے کہ:-

”لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَ لَمْ يَقُمْ  
مَعَ شَمْسٍ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ هَا وَ لَمْ يَمَسَّ السِّرَاجَ إِلَّا  
غَلَبَ ضَوْؤُهُ“

ترجمہ:- ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نہ سورج کی دھوپ میں

نہ چراغ کی روشنی میں اور آپ کا نور سورج اور چراغ کے نور پر غالب

رہتا تھا۔“

حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، عربی، جلد: ۱، ص: ۶۸،

(۲) جمع الوسائل، از امام علی بن سلطان محمد ہروی قاری کی المعروف بہ ملا

علی قاری، جلد: ۱، ص: ۲۰۶)

(۳) امام اجل، علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن محمودی (المتوفی ۱۰۷۰ھ) قدس

سرہ ”مدارک التنزیل“ میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن

عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:-

”قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَوْقَعَ  
ظِلَّكَ عَلَى الْأَرْضِ لِثَلَا يَضَعُ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَاكَ الظِّلِّ“

ترجمہ:- ”حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں

عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر

(أفضل القرئى، ص: ۷۲)

(۴) شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”وَنُبُوذُ أَنْ حَضَرَتْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَا سَيَّاهُ  
نَهَ دَرُ آفَتَابٍ وَنَهَ دَرُ قَمَرٍ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ ماہتاب کی چاندنی میں پڑتا تھا۔“

(مدارج النبوة، فارسی، جلد: ۱، ص: ۲۱)

(۵) امام ربانی، مجدد الف ثانی، حضرت شیخ فاروق نقشبندی سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے مکتوبات عالیہ جلیلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”أَوْ رَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّاهُ نُبُوذُ دَرِ عَالَمٍ  
شَهَادَتُ سَيَّاهُ هَرِ شَخْصٍ لَطِيفٍ تَرَأَسَتْ جُودِ لَطِيفٍ تَرِ  
أَزِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرِ عَالَمٍ نَبَاشِدُ أَوْ رَا  
سَيَّاهُ جِهَ صُورَتِ دَارِدُ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم شہادت میں ہر چیز (شخص) سے اس کا سایہ لطیف (باریک ر Delicate) ہوتا ہے اور حضور اقدس کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ لطیف کوئی چیز ہے، ہی نہیں پھر حضور کا سایہ کیوں کر پڑتا۔“  
(مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ نولکشور لکھنؤ، جلد: ۳، ص: ۱۴۷)

○ علاوہ ازیں ملت اسلامیہ کے جلیل القدر ائمہ و علماء مثلاً ○ امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب المصری القسطلانی ○ امام جلیل محقق تقی الملمتہ والدین علامہ ابوالحسن علی سبکی ○ علامہ امام علی بن سلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی المعروف بہ ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۴ھ ○ علامہ حسین بن محمد دیار بکری ○ علامہ جلال الدین رومی ○ علامہ سلیمان جمل ○ استاذ العلماء

”مَا جُرَّ بِظِلِّ أَحْمَدِ الْخِرْيَالِ ○ فِي الْأَرْضِ كَرَامَةً كَمَا قَدَّ  
قَالُوا ○ هَذَا عَجَبٌ وَلَمْ يَهْ مِنْ عَجَبٍ ○ وَالنَّاسُ بِظِلِّهِ  
جَمِيعًا قَالُوا ○ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِأَنَّهُ النُّورُ الْمُبِينُ  
وَكُونَهُ بَشَرًا لَا يُنَافِيهِ“

ترجمہ:- ”عظمت اور احترام کے باعث حضور اقدس کے جسم کا سایہ دامن زمین پر رگڑتا ہوا نہیں چلتا تھا، حالانکہ حضور کے سایہ کرام میں تمام انسان چین کی نیند سوتے ہیں، اس سے حیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس امر کی شہادت قرآن دیتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”نور مبین“ ہیں اور حضور کا سایہ نہ ہونا بشر ہونے کے منافی نہیں“

(نسیم الرياض، مطبوعہ مصر، جلد: ۳، ص: ۳۱۹)

(۳) امام اجل، شیخ شہاب الدین، ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، مکی، ہاشمی (المتوفی ۸۵۳ھ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُورًا أَنَّهُ  
إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَا يُظْهِرُ لَهُ ظِلٌّ لِأَنَّهُ لَا يُظْهِرُ  
إِلَّا لِكُشْفِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَصَهُ اللَّهُ تَعَالَى  
مِنْ سَائِرِ الْكُثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَيَسْرَهُ نُورًا صَرَفًا لَا  
يُظْهِرُ لَهُ ظِلًّا أَصْلًا“

ترجمہ:- ”اس بات کی تائید میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اپا نور تھے، اس واقعہ کا اظہار کافی ہے کہ حضور اقدس کے مبارک جسم کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا تھا اور نہ چاندنی میں نظر آتا تھا۔ اس لئے کہ سایہ کثیف (دبیز-Thick) چیز کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک کر کے انہیں ”نور محض“ بنا دیا تھا اور اسی لئے حضور اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)



الہیہ کا مظہر ہے“ (مدارج النبوة، فارسی، جلد: ۱، ص: ۳)

### چہرہ انور سورج کی طرح درخشاں:-

حضرت اُمّ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کے بعد اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار فرماتی ہیں کہ ”رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ مُتَبَلِّجَ الْوَجْهِ“ یعنی ”آپ کے چہرہ اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درخشندگی تھی۔“ (سبیل الہدیٰ، عربی، جلد: ۲، ص: ۵۶)

### چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن:-

”حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَا لِوَجْهِهِ وَ تَلَالُؤُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ“ ترجمہ:- ”مشاہدہ کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم، بزرگ، معظّم اور مہیب تھے۔ گویا کہ آپ کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن اور تاباں تھا۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۴)

### آفتاب کی طرح چمکنے والا چہرہ انور:-

”ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ربیعہ بنت مسعود کو جو صحابیہ تھیں، ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ”يَا بَنِي لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ“ ترجمہ:- ”اے بیٹے! اگر تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتا، تو پکارا اٹھتا کہ جیسے سورج چمک رہا ہے۔“

(الدارمی، عربی، جلد: ۱، ص: ۳۳)

و مرجع علماء، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی © امام راغب اصفہانی وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی معتبر و مستند کتب معتمدہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔

### ”نورانی چہرہ کا بے مثل جمال“

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانیت اور روشنی کی سامنے آفتاب اور ماہتاب کی روشنی کی بھی کوئی بساط نہیں۔ بلکہ چاند اور سورج میں جو روشنی اور تابانی ہے وہ بھی اسی رخ انور کی روشنی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بالخصوص آپ کا نورانی چہرہ اقدس جمال الہی کا مظہر اور ”ید اللہ“ کا سب سے بہترین شاہکار تخلیق ہے۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:-

### جس نے آپ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا:-

حضور اقدس، باعث ایجاد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا“۔ امام جلیل، علامہ نبہانی نے حضرت احمد بن ادریس کے حوالے سے مذکور حدیث شریف میں وارد لفظ ”الحق“ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ تَعَالَى“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھا“

### چہرہ اقدس انوار الہیہ کا آئینہ:-

عاشق رسول، حجۃ اللہ فی الہند، محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ چہرہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمال الہی کا آئینہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”أَمَّا وَجْهَهُ شَرِيفٌ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْآتٍ جَمَالِ الْهَيْ وَ مَظْهَرِ أَنْوَارِ نَامُتْنَاهِي وَ بُوْدُ“ یعنی ”آپ کا چہرہ انوار الہیہ کا آئینہ اور لامتناہی انوار

علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔“

(مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱)

### ”پسینہ مبارک کی خوشبو سب سے اعلیٰ مہک“

حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ سے ایسی دل کش اور نرالی خوشبو آتی تھی کہ اس خوشبو کے سامنے مشک و عنبر کی خوشبو کی کوئی حیثیت و وقعت نہ تھی بلکہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو اور دنیا کے سب سے قیمتی اور عمدہ عطر کی خوشبو بھی حضور اقدس کے عرق اطہر یعنی مبارک پسینہ کی خوشبو کے سامنے ہچ تھی۔ کتب احادیث میں اس عنوان سے متعلق متعدد روایات منقول ہیں۔ ان تمام روایات کا یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہذا چند روایات احادیث پیش خدمت ہیں:-

### تمام خوشبوؤں سے بہترین پسینہ اطہر کی خوشبو:-

”امام مسلم اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا۔ چونکہ حضور اقدس کو نیند کی حالت میں پسینہ بہت آتا تھا۔ تو جب آپ کو پسینہ آنے لگا تو میری والدہ ماجدہ ”اُمّ سلیم“ ایک شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں۔ اسی دوران حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے میری والدہ سے فرمایا کہ اے اُمّ سلیم! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اسے میں بطور خوشبو استعمال کروں کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔“

(حوالہ:- ① مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

② خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۶)

چاند سے بھی زیادہ منور چہرہ انور:-

”حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے۔ اس وقت آپ کے جسم اقدس پر سرخ جوڑا تھا۔ میں کبھی آپ کے روئے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کی تابانی کو۔ خدا کی قسم! میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ بہتر آپ معلوم ہوتے تھے۔ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۴)

### چہرہ انور کی روشنی سے گم شدہ سوئی مل گئی:-

”ابن عساکر نے حضرت اُمّ المؤمنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں رات میں سحری کے وقت سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی (Needle) گر گئی۔ میں نے چراغ کی روشنی میں گم شدہ سوئی تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور اسی روشنی کے اُجالے میں میں نے اپنی گم شدہ سوئی ڈھونڈ لی۔“

(خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الوری، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۹)

### سب سے زیادہ حسین اور جمیل:-

”بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبو اور خوش خُو تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ”مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ:- ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لانے سے پہلے ہی ہم جسم اقدس کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ حضور تشریف لارہے ہیں۔“

”بزاز اور ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مدینہ طیبہ کے راہ گیر راستوں کی خوشبو سے جان لیتے تھے کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں۔“

”دارمی نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورات کی تاریکی میں آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے ہم پہچان لیتے تھے۔“

”ابو نعیم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا پسینہ موتی کی طرح تھا اور خوشبو میں مثل مشک ختن تھا۔“

(حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ۱۶۷، اور ۱۶۸

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۸)

جسکے بدن کو حضور ہاتھ سے مس فرماتے، اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی:

”حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ ہم چار (۴) عورتیں عتبہ کی زوجیت میں تھیں اور ہم میں سے ہر ایک یہی کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ خوشبو میں بس کر عتبہ کے قریب جائیں۔ ہم سب اس کوشش میں بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتیں لیکن ہم میں سے کسی کی خوشبو ہمارے شوہر عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچتی تھی حالانکہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف روغن (تیل) کو اپنے ہاتھوں سے چھواتے اور اسے اپنی ڈاڑھی پر مل لیتے تھے مگر اس کی خوشبو ہم سب پر غالب رہتی تھی۔ اور حضرت عتبہ جب باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی خوشبو عتبہ کی خوشبو سے تیز نہیں۔“

دلہن کے لئے پسینہ اطہر کی خوشبو لگانے سے پورا شہر مہک اٹھا:-

”ابو یعلیٰ اور طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ براہ کرم تھوڑی خوشبو عطا فرما کر میری مدد فرمائیں، حضور اقدس نے فرمایا کہ اس وقت تو کچھ موجود نہیں، لیکن تم کھلے منہ کی شیشی اور درخت کی ٹہنی لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص دونوں چیزیں لایا۔ حضور اقدس نے دونوں کلائیوں سے مبارک پسینہ پونچھ کر شیشی کو بھر دیا۔ اور اس شخص کو شیشی عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دو اور اس سے کہو کہ یہ ٹہنی (لکڑی) کوشیشی میں ڈبو کر خوشبو لگائے۔ اس لڑکی نے جب پسینہ اطہر کی خوشبو لگائی تو پورا مدینہ منورہ شہر اس کی خوشبو سے مہک اٹھا اور اس شخص کے گھر کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ اس کے گھر کو ”بَيْتُ الْمُطِيبِينَ“ یعنی ”خوشبوؤں کا گھر“ کے نام سے شہرت ہو گئی اور اس کے گھر کا یہی نام رکھ دیا گیا۔“

(حوالہ:- ① خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۸

② مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

حضور اقدس جس راستہ سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا:-

”دارمی، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چند مخصوص علامتیں تھیں۔ حضور جب کوئی راستہ طے فرماتے تو وہ راستہ جسم اطہر کی خوشبو سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستہ سے گزرے ہیں۔“

”ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ

آتی ہے؟ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو نبیل اور بھینسے جیسا موٹا بدن لے کر گلی گلی اور ڈگر ڈگر تبلیغ نفاق کرتے گھومتے ہیں اور ان کے مکروہ جسم سے پسینہ کی ایسی قبیح بد بو آتی ہے کہ خود ان کے اعزاء و اقرباء بھی ان کے پسینہ کی بوئے بد اور تعفن سے بیزار ہو جائیں اور متلی و ابکائی محسوس کریں۔ ایسے لوگ کس منہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟

## ”مقدس کان کی قوت سماعت“

حضور اقدس، کان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کانوں (Ear) کی قوت سامعہ کا یہ عالم تھا کہ سرزمین مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہو کر آسمان کی آواز بغیر کسی رابطہ یا وسائل کے سماعت فرما لیتے تھے۔

آسمان کی چرچراہٹ سماعت فرمانا:-

”حضرت ابو ذر اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”إِنِّي أَرَى مَا لَا

تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنِّي أَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ“

ترجمہ:- ”میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اس

وقت میں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابو نعیم نے بھی روایت فرمایا ہے۔

(حوالہ:- خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۵)

اُمّ عاصم فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم سب خوشبو کے استعمال میں خوب کوشش کرتے ہیں لیکن تمہاری خوشبو تک ہماری خوشبو نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ”شرمی“ یعنی گرمی کے دانے نکل آئے تھے۔ (اس مرض میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے بدن میں چنگاریاں لگی ہوئی ہیں) تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے مرض کی شکایت کی تاکہ علاج فرمادیں۔ اس پر حضور اقدس نے فرمایا کہ اپنے اوپر کے بدن کے کپڑے اتار دو۔ میں اپنے بدن کے اوپر کے حصہ کے کپڑے اتار کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حضور اقدس نے میری پشت اور شکم پر اپنا دست اقدس (مبارک ہاتھ) ملا۔ اس وقت سے یہ خوشبو مجھ میں پیدا ہو گئی ہے۔

اس روایت کو امام ابو القاسم سلیمان بن احمد ایوب طبرانی (المتوفی ۳۶۰ھ) قدس سرہ نے اپنی کتاب ”معجم صغیر“ میں نقل فرمایا ہے۔“

(حوالہ مدارج النبوة اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

مشک و عنبر سے جسم اقدس کی خوشبو عمدہ اور بہتر:-

”حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ہر خوشبو خواہ مشک

ہو یا عنبر ہو، سونگھی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو اطہر سے عمدہ

اور بہتر کوئی بھی خوشبو نہ تھی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

نوٹ:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ہمسری کا دعویٰ کرنے والے

اپنی بغل (Armpit) میں اپنا ہاتھ رکھ کر، پسینہ سے تر کر کے، پھر ناک پر رکھ کر ہاتھ کو گہری

سانس لے کر سونگھیں اور تجربہ کریں کہ ہاتھ سے خوشبو آتی ہے یا دماغ پھٹ جائے ایسی بد بو

اس روز سے اس کنویں کے پانی کی یہ کیفیت تھی کہ ”فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ بِيْرًا  
أَعَجَبُ مِنْهَا“ یعنی تمام مدینہ منورہ میں ایسے شریں پانی والا ایک بھی کنواں نہ  
تھا۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۶ اور  
(۲) شواہد النبوة، از علامہ جامی، اردو ترجمہ، ص: ۲۴۸)

کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو پیدا ہوگئی:-

”امام احمد، ابن ماجہ، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک  
ڈول لایا گیا۔ حضور اقدس نے اس ڈول سے پانی نوش فرمایا پھر ایک کنویں میں  
کلی فرمادی۔ جس کے بعد سے اس کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو آنے  
لگی۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۶)

حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کی دکھتی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں:-

”بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  
روایت ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
”کل میں اسلام کا جھنڈا (علم) ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، جس کو اللہ اور  
اس کا رسول پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمادے گا۔“  
اس اعلان پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رات بھر یہ آرزو اور  
دعا کرتے رہے کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو۔

جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب  
کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہر طرف سے عرض کیا کہ وہ یہیں ہیں لیکن ان کی آنکھ  
اتنی درد کرتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور اقدس نے فرمایا  
کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے

شکم مادر سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سننا:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ  
تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ صَرِيْرَ الْقَلَمِ عَلَى  
اللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَأَنَا فِي ظِلْمَةِ الْأَحْشَاءِ وَكُنْتُ أَسْمَعُ  
سُجُودَ الْقَمَرِ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَنَا فِي ظِلْمَةِ الْأَحْشَاءِ“

ترجمہ:- ”قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شکم مادری  
میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا اور اسی طرح شکم مادر میں  
میں چاند کے عرش کے سامنے سر بسجود ہونے کی آواز بھی سنتا تھا۔“

”حضور اقدس کے لعاب دہن کا اعجاز“

حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن (تھوک مبارک/  
Holy Spit) کا وہ اعجاز اور کمال تھا کہ اگر ترش (کھاری) کنوے میں لعاب دہن کے  
چند مقدس قطرات ڈال دیئے جاتے، تو کھاری کنواں شیریں ہو جاتا تھا اور کنوے کے پانی میں  
ایک نرالی مہک اور خوشبو پیدا ہو جاتی تھی۔ علاوہ ازیں ہر قسم کی بیماری سے فوراً شفا اور تندرستی  
حاصل کرنے کے لئے لعاب دہن اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکسیر کا کام کرتا تھا۔ چند  
واقعات احادیث کتب معتبرہ مستندہ اور معتمدہ کے حوالوں سے پیش خدمت ہیں:-

کھاری کنواں مدینہ کا سب سے بیٹھا کنواں بن گیا:-

”ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں  
ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کی گزارش پر اپنا مقدس لعاب دہن ڈال دیا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس پھوڑے کی تکلیف کے متعلق عرض کیا کہ اس پھوڑے سے مجھے سخت تکلیف ہے۔ نہ تلواری کا دستہ پکڑ سکتا ہوں اور نہ ہی گھوڑے کی لگام تھام سکتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ پٹی کھول دو! میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پٹی کھول دی۔ حضور اقدس نے اپنا مقدس لعاب دہن وہاں لگا دیا۔ فوراً درد جاتا رہا اور میرا ہاتھ اس قدر صحت یاب ہو گیا کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ درد کہاں ہے۔“ (حوالہ: شواہد النبوة، از: علامہ جامی، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۵)

## ”مقدس آنکھوں کا معجزہ“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے تمام حجابات ہٹا دیئے تھے۔ آپ سر زمین مدینہ منورہ میں جلوہ افروز رہتے ہوئے عرش اعظم کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ فوق السماء یعنی آسمان کے اوپر اور تحت الثریٰ یعنی زمین کے نیچے (پاتال) میں کیا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ اپنی نوری اور مقدس آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی کوئی چیز یا واقعہ آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں آپ جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے اور رات کی تاریکی میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھتے تھے۔

### جنگ موتہ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما دیا:-

بیت المقدس (ملک شام) سے دو منزل کے فاصلہ پر ”بلقاء“ کے قریب ”موتہ“ نام کا ایک مقام ہے۔ اس مقام میں ۸۰۰ھ میں ”جنگ موتہ“ ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں اسلامی لشکر ارسال فرمایا تھا

اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ حضور اقدس نے حضرت علی کے سر کو اپنی مبارک ران پر رکھا اور اپنا مقدس لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ اسی وقت فوراً ان کی آنکھ سے درد جاتا رہا اور انہیں شفا لگنی حاصل ہو گئی۔ اس دن کے بعد حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی درد چشم اور دردِ سر لاحق نہ ہوا۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۲۱۲)

### یمن کا کھاری کنواں یمن کا سب سے میٹھا کنواں بن گیا:-

”حضرت محدث ابن السکن نے حضرت ہمام بن نفیل السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن (Yaman) سے مدینہ منورہ آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! ہم نے پانی کے لئے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی نہایت کڑوا اور نمکین ہے۔ جو پینے کے قابل نہیں۔ حضور اقدس نے ایک برتن میں پانی لیا اور نوش فرمانے کے بعد مجھے عنایت فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس برتن کے پانی کو اس کنویں میں ڈال دینا۔ میں مدینہ طیبہ سے یمن واپس لوٹا اور حسب حکم جب وہ پانی ہم نے کنویں میں ڈالا، تو وہ کنواں اتنا شیریں ہو گیا کہ ”فہی اعمذب ماء بالیمن“ یعنی ”یمن کے تمام کنوؤں سے اس کا پانی مٹھاس میں بڑھ گیا۔“ (شواہد النبوة، از علامہ جامی، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۳)

### ہاتھ کا پھوڑا فوراً دور ہو گیا:-

”حضرت شریحیل جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک پھوڑا تھا۔ جس کی وجہ سے مجھے سخت درد اور تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے

کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یعلیٰ سے فرمایا کہ اگر تم اپنی خدمت یا فرض منصبی کی بجا آوری (Duty) کے طور پر وہاں کے حالات بتانا چاہتے ہو تو بتا سکتے ہو، حالانکہ میں جنگ موتہ کے تمام حالات سے باخبر ہوں اور اے یعلیٰ! اگر تم کہو تو میں تم کو تمام حالات مفصل طور پر صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ حضرت یعلیٰ نے عرض کی کہ ”پھر تو میں حضور آپ کی ہی مبارک زبان سے سننا پسند کروں گا۔“

اس گزارش پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے تمام حالات اور کیفیات کی منظر کشی پیش فرمادی۔ جسے سن کر حضرت یعلیٰ بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! فِدَاكَ اُمِّي وَ اَبِي یعنی میرے ماں، باپ آپ پر قربان ہوں۔ میدان جنگ کے مکمل اور تفصیلی حالات جس صحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے ہیں میں یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کے میدان میں موجود ہو کر دیکھنے والا بھی اس طرح تمام واقعات و حالات بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے زمین کے تمام تجابات اٹھا دیئے ہیں اور میں مجموعی حیثیت سے مجاہدوں کے پورے لشکر کو اور انفرادی طور پر لشکر کے ہر فرد (شخص) کو دیکھتا رہا ہوں۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹۷، اور ص: ۴۹۸)

آگے پیچھے اور رات کی تاریکی میں دیکھنا:-

① ”ابن عدی، بیہقی اور ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اُم المؤمنین، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی (اندھیرے) میں اسی طرح دیکھتے تھے، جس طرح لوگ روشنی اور نور میں دیکھتے ہیں۔“

② ”بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس

اور یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب اسلامی لشکر کے امیر بنیں۔ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں امیر بنالیں۔ اور واقعی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن حضرات کے نام لئے وہ شہید ہو گئے۔

③ ”امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جنگ موتہ میں جب اسلامی لشکر کے مجاہدین کا لشکر کفار سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے تمام تجابات اٹھ گئے تھے اور جنگ موتہ کے تمام حالات یک چشم خود اس طرح ملاحظہ فرما رہے تھے، گویا کہ آپ میدان جنگ میں خود تشریف فرما ہو کر معائنہ فرما رہے ہوں۔ اپنے صحابہ سے فرماتے جاتے تھے کہ ”زید بن حارثہ نے علم اٹھایا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اب جعفر بن ابی طالب نے علم لیا ہے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھا ما ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔“ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی، مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے جنگ موتہ کا حال بیان فرماتے جاتے تھے اور اپنی مقدس آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ”اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار (سَيْفٌ مِّنْ سُبُوفِ اللّٰهِ) یعنی خالد بن ولید نے علم لیا ہے، ان کے ہی ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔“ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ”سيف اللہ“ (اللہ کی تلوار) مشہور ہو گیا۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۶۰ اور

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۲۸)

④ ”بیہقی اور ابو نعیم نے بروایت موسیٰ بن عقبہ حضرت ابن شہاب سے اور صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت سے روایت کیا کہ حضرت یعلیٰ بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے جنگ موتہ کے مجاہدین کی خبریں لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

## ”حضور اقدس کے دیگر جسمانی خصائص“

جسم اقدس پر کبھی مکھی نہ بیٹھی اور کپڑوں میں جوں نہ پڑی:-

- ”امام قاضی عیاض نے ”کتاب الشفاء“ میں اور غرنی نے اپنی کتاب ”المولد“ میں بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ حضور اقدس کے مقدس جسم پر کبھی بھی مکھی نہ بیٹھتی تھی۔“
  - ”ابن سبع نے ”الخصائص“ میں اسے ان الفاظ سے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی اور حضور اقدس کے خصائص میں اتنا زیادہ کیا کہ جوں آپ کو نہ کاٹی تھی۔ (یعنی کپڑوں میں جوں نہ پڑتی تھی)“
- (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۹)

حضور اقدس طبعی طور پر جماہی سے منزہ تھے:-

- ”امام بخاری نے تاریخ میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی تصنیف میں اور ابن سعد نے یزید بن الاصم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جماہی (Yawn) نہیں آئی۔ ابن ابی شیبہ نے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جماہی نہیں لی۔“
- (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۹)

## دستِ اقدس (ہاتھ) کا پر کیف اعجاز

- ”حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیری اور سیاہ رات میں اسی طرح دیکھتے تھے، جیسے روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔“

- ”امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم! تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ بلاشبہ میں پشت کے (پیٹھ کے) پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔“
  - ”ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اپنی پشت کی جانب سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔“
  - ”عبدالرزاق نے اپنی جامع میں اور حاکم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”پیشک! میں اپنی پشت کی جانب سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔“
  - ”حمیدی نے اپنی مسند میں اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں اور بیہقی نے مجاہد سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ”الَّذِينَ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ“ کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی صفوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے اپنے سامنے کی طرف دیکھتے تھے۔“
- (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۵، ۱۵۶ اور (۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶)



آتے تھے اور حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کا وہ حصہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم پھیرا تھا، اس حصہ کو ورم والے مقام سے مس (Touch) کرتے تھے، تو فوراً ان بیماروں کا ورم جاتا رہتا تھا۔“

”ایک گنج (Bald) لڑکا خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ اس لڑکے کے سر میں گنج تھا۔ حضور اقدس نے اس بچے کے سر پر اپنا دست کرم پھیرا، تو وہ اسی وقت ٹھیک اور صحت یاب ہو گیا اور اس کے سر کے بال برابر نکل آئے۔“ اسی طرح جو بیمار اور دیوانے بچے خدمت اقدس میں لائے جاتے اور اگر ان میں سے کوئی بچہ جسے دیوانگی یا آسیب ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سینہ پر دست مبارک مارتے، تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا اور بچہ تندرست ہو جاتا تھا۔“

(مذکورہ: ۵، واقعات بحوالہ: مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۶۷ اور ۳۶۸)

ٹوٹا ہوا پاؤں دست اقدس پھیرتے ہی درست ہو گیا:-

”صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ رسول اور دشمن اسلام ابورافع یہودی کو اس کے گھر جا کر قتل کیا تب چاندنی رات تھی ابورافع یہودی کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیک اس کے مکان سے جلدی جلدی نکلنے کے لئے تیز رفتاری سے زینہ اتر رہے تھے، تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے اور ان کے پاؤں کی پنڈلی (Calve) ٹوٹ گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ وہاں سے بھاگ نکلے اور اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم حضرت عبداللہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا، تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔“

(حوالہ: - (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ۳۵۸ اور (۲) خصائص الکبریٰ

، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۴۵)

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ تو میں نے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا آپ نے ابھی عطر کی ڈبیہ سے اپنا دست اقدس نکالا ہے۔ اور جو کوئی بھی آپ سے مصافحہ کرتا وہ تمام دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو پاتا۔ آپ جس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے تمام بچوں میں ممتاز اور معروف ہو جاتا۔“

(حوالہ: - مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۸)

”حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا کی، تو ان کی اسی (۸۰) سال کی عمر ہوئی وہاں تک وہ جوان تھے اور اسی (۸۰) سال کی عمر میں ہنوز جوانی کی حالت میں انتقال فرمایا۔“

”حضرت قیس بن جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت قیس کی عمر ایک سو (۱۰۰) سال کی ہوئی تب ان کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے مگر وہ حصہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک پھیرا تھا، اس حصہ کے بال سیاہ تھے۔“

”حضرت عابد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”جنگ حنین“ کے دن زخمی ہو گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو ان کے چہرے پر پھیر کر چہرے کو پاک اور صاف فرما کر دعا فرمائی۔ اس دن کے بعد حضرت عابد کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا اور ان کا لقب ”غر“ یعنی ”چمکنے والا“ مشہور ہو گیا۔“

”حضرت حظلہ بن جذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ جن لوگوں کے چہروں پر ورم (سو جن / Swelling) آ جاتا تھا، یا جن بکریوں کے تھن (پستان / Breast) میں ورم آ جاتا، ان کو حضرت حظلہ کے پاس لے

جامہ کیوں پہنایا گیا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی تفصیلی وضاحت آئندہ صفحات میں ہم پیش کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”نوری بشریت“ کا عام انسانوں کی بشریت سے کوئی علاقہ بعید بھی نہیں۔ کہاں اس ”نورٌ مِنْ نُورِ اللّٰهِ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری بشریت اور کہاں ہماری تمہاری عام بشریت؟ مساوات اور ہمسری کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن دورِ حاضر کے منافقین اپنی اوقات کیا ہے؟ اس حقیقت کو فراموش کر کے ”یہ منہ اور مسور کی دال“ والی مثل پر عمل پیرا ہو کر معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے باطل اور مضحکہ خیز دعویٰ کو مناسب ٹھہرانے کے لئے قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کی مفصل وضاحت اور اوراق سابقہ میں ہم نے پیش کر دی ہے۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیت کریمہ پیش کر کے دورِ حاضر کے منافقین بھولے بھالے سادہ لوح اور کم علم لوگوں کو بہکانے کے لئے ایسا بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق نبی بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں لہذا بشر ہونے کے معاملہ میں ہم بھی نبی کی طرح ہیں۔ ان کی یہ بات زمانہ ماضی کے کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ کی بولی کی ترجمانی اور عکاسی ہے۔ صرف انسان ہونے کی حقیقت کی بناء پر ہرگز ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً:-

◎ ”یا قوت (Ruby)، نیلم (Sapphier)، زمرد (Emerald)، الماس (Diamond) اور دیگر قیمتی جواہرات زمین سے برآمد ہونے کی وجہ سے معدنیات (Mineral) ہی ہیں اور ایک قسم کے پتھر ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے مکانوں کے بیت الخلاء (Latrine) کے فرش میں جو چھایا جاتا ہے۔ وہ بھی پتھر (Stone) ہی ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جو پتھر قیمتی جواہرات کی شکل میں ہے وہ بادشاہوں کے تاج کی زینت بن کر اپنی اہمیت کا لوہا منواتا ہے۔ زیورات میں جڑا جاتا ہے اور زیورات کے ساتھ تجوری میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے جبکہ بیت الخلاء

زخمی آنکھ کا رخسار پر لٹک جانا اور دست اقدس نے درست فرما دیا:

”ابن سعد نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ جنگ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ ان کی آنکھ کا پورا ڈھیلا نکل کر رخسار پر لٹک پڑا۔ حضرت قتادہ بن نعمان اپنی لٹکی ہوئی آنکھ کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی اس لٹکی ہوئی آنکھ کو اس کے حلقے میں رکھ دیا اور اپنا دست اقدس اس پر پھیر دیا تو ان کی آنکھ اسی وقت ایسی درست ہو گئی کہ گویا آنکھ کو کوئی صدمہ پہنچا ہی نہ تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۸۶)

المختصر! ایسے بیشمار واقعات کتب احادیث و سیر میں مذکور و مرقوم ہیں جن کا بالکل یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں جسم اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر نورانی اعضاء کے معجزات، خصائص، فضائل اور کمالات اتنی کثیر تعداد میں مروی ہیں کہ جن کو بیان و حصر میں لانے کے لئے دفاتر درکار ہیں۔ معزز قارئین کی ضیافت طبع کی خاطر فقیر نے چند واقعات ارقام کر دیئے ہیں، جن کے مطالعہ سے یہ بات اظہر من الشمس ثابت ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ بے مثل و مثال ”نوری بشریت“ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کسی کو بنایا ہے اور نہ بنائے گا۔ عام انسان تو درکنار بلکہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت میں سے بھی کسی ایک کو اپنے محبوب اکرم کی مثل نہ بنایا۔

بے شک! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوع انسانی کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے ”انسان اور بشر“ ہی تھے۔ آپ نوع ملائکہ یا جنات سے نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ حقیقت نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشری

سے ملوث ہوتا رہتا ہے۔ لہذا جوتے کا چمڑا اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کو مکان کے اندر داخلہ کی اجازت دی جائے۔ ہر شخص جوتے مکان کے بیرونی حصہ میں اتارنے کے بعد ہی مکان کے اندرونی حصہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب کوئی عقل کے پیچھے لٹھ لیے پھرنے والا اور عقل کا مارا یہ کہے کہ قرآن مجید کی جلد سازی میں استعمال شدہ چمڑا اور جوتے کا چمڑا دونوں چمڑے کی اقسام سے ہونے کی وجہ مساوی اور ہمسری ہیں اور دونوں میں ”أَنَا جِلْدٌ مِّثْلُكُمْ“ کی مساوات وہ ہمسری ہے، تو ایسے شخص کے لئے یقین کے درجہ میں یہی کہا جائے گا کہ جناب کی عقل کا چراغ گل ہو گیا ہے۔

### قابل غور و فکر حقیقت:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ہمسری کا دعویٰ کرنے والے دور حاضر کے منافقین شاید اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ صرف انسان ہونے کے ناطے امتی کا نبی کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت میں بھی مساوات اور ہمسری نہیں۔ بعض انبیاء کرام کو بعض انبیاء کرام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یعنی باعتبار درجات و مراتب تمام انبیاء کرام مساوی اور ہمسری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:-

”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلِمِ اللَّهِ  
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“

(پارہ: ۳، سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۵۳)

ترجمہ:- ”یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔“ (کنز الایمان)

(پاخانہ) کا فرش بھی پتھر ہی ہے لیکن مکان میں رہنے والے متعدد افراد دن اور ات میں کئی مرتبہ اپنے بول و براز سے اُسے نجس سے نجس تر بناتے رہتے ہیں۔ اب کوئی سر پتھر اور شر پسند یہ کہے کہ بادشاہ کے تاج کا جواہر اور بیت الخلاء کے فرش کا پتھر دونوں ہمسراور مساوی ہیں کیونکہ دونوں مَعْدَن (Mine) سے نکلنے کی وجہ سے اقسام مَعْدِنِیَات سے ہیں اور دونوں میں ”أَنَا مَعْدَنٌ مِّثْلُكُمْ“ کی مساوات اور ہمسری ہے ایسے شخص کے لئے صرف یہی کہا جائے گا کہ جناب والا سے عقل و فہم کوسوں دور ہے۔ بلا مثال و تمثیل جو شخص صرف انسان ہونے کی بناء پر نبی اور رسول سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتا ہے اس شخص کے لئے بھی یہی کہا جائے گا کہ اس جناب کی بھی عقل کے طوطے اڑ گئے ہیں۔

”قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ضرور ہوتا ہے اور اللہ کا یہ کلام یعنی قرآن مجید کتابی شکل میں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ کتاب کی ہیئت یہ ہوتی ہے کہ مطبوعہ اوراق (Printed Pages) کو جلد کی شکل میں باندھتے ہیں اور اوپر کو گتتا (موٹے کاغذ کا تختہ = Card Board) لگا کر گتتا کے اوپر چمڑے کا غلاف جڑا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے تب وہ با وضو ہی قرآن مجید کو مس کرتا ہے۔ علاوہ ازیں تلاوت سے قبل اور بعد میں قرآن مجید کو بوسہ دیتا ہے۔ اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو! جو شخص قرآن مجید کو با وضو چھوتا ہے اور تعظیم و محبت سے چومتا ہے، وہ اس چمڑے کو چھوتا اور چومتا ہے جو جلد سازی (Binding) میں استعمال کر کے قرآن مجید کی جلد کی باہری حصہ میں چسپاں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جلد میں آویختہ ہونے کی وجہ سے وہ چمڑا عظمت و تکریم کے قابل بن گیا۔

اسی طرح ہمارے پاؤں میں پہنے جانے والے جوتے، چپل میں بھی چمڑے کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جوتے کا چمڑا پاؤں سے رونداجاتا ہے اور راہ میں پڑی ہوئی نجاست اور گندگی

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے امتی ہونے کی تمنا فرمائی“

جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی نبی اور رسول نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کی جماعت تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اپنی افضلیت اور برتری کے باوجود بھی انہوں نے حضور اقدس سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا، البتہ اس رسول اعظم اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ضرورت تمنا فرمائی ہے۔

○ محقق علی الاطلاق، الشیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ارتقام فرماتے ہیں کہ:-

”حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب توریٰ شریف کی تختیوں میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے تقریباً ستر (۷۰) صفات کو پڑھا، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ”اے خدا! اس امت کو میری امت بنا دے“۔ فرمان باری تعالیٰ آیا کہ ”اے موسیٰ! اس امت کو تمہاری امت کیسے بناؤں، وہ امت تو نئی آخر الزماں احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔“ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا ”اے رب! تو مجھے ہی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے بنا دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو خوبیاں مرحمت فرمائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتَكَ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِىْ وَ  
بِكَلَامِىْ فَاْخُذْ مَا اٰتَيْتَكَ وَ كُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ“

(پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۴۴)

ترجمہ:- ”فرمایا اے موسیٰ! میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔“

تفسیر:- (۱) ”معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مراتب جدا گانہ ہیں۔ بعض حضرات سے بعض افضل ہیں۔ یعنی خصائص و کمالات میں درجے متفاوت ہیں۔“

(۲) ”اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا“ سے مراد حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔“

(۳) ”آیت میں حضور اقدس کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمانا اور نام مبارک کی تصریح و توضیح کا نہ کیا جانا، اس سے بھی حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے کہ اس ذات والاکی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق نہ آئے اور کوئی اشتباہ راہ نہ پاسکے اور حضور اقدس کے وہ بے شمار خصائص و کمالات ہیں جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق اور افضل ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۵ اور ص: ۷۶)

قارئین کرام مندرجہ بالا آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بغور و فکر مطالعہ فرمائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجات، کمالات، مراتب اور خصائص تک کسی بھی نبی یا رسول کی رسالتی نہیں۔ یہ کسی کے گھر کی ایجاد کردہ بات نہیں، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات اور مخلوق میں سے کوئی بھی حضور اقدس کا ہمسر نہیں۔ تو دور حاضر کے منافقین کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ کس منہ سے حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں؟ جب کسی بھی نبی اور رسول نے حضور اقدس سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا، تو دور حاضر کے منافقین نہ جانے اپنے کو کیا سمجھ کر ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تعجب ہے کہ جس بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی مقدس بنی کے ساتھ ہمسری اور برابری کا بھی باطل دعویٰ کرتے ہیں۔

## حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس کے امتی بن کر تشریف لائیں گے

حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام باعظمت نبی ہیں اور فی الحال حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر زندہ اٹھالیا ہے۔ جس کا تفصیلی بیان قرآن شریف، پارہ: ۳، سورۃ ال عمران، آیت: ۵۴ تا ۵۵ میں ہے۔ قارئین کرام کی فرحت طبع کی خاطر عرض ہے کہ چار انبیاء کرام وہ ہیں جن کی وفات ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

⑤ ”چار انبیاء کرام وہ ہیں، جن کی وفات ابھی واقع نہیں ہوئی۔ ان چار میں سے دو حضرت سیدنا ادریس اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہا الصلاۃ والسلام آسمان پر زندہ اٹھالیئے گئے ہیں۔ اور دو یعنی حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہا الصلاۃ والسلام یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہیں۔ دریا، سمندر حضرت سیدنا خضر کے اور خشکی حضرت سیدنا الیاس کے متعلق ہے۔ (علی نبینا وعلیہا الصلاۃ والسلام)۔ یہ دونوں صاحبان ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور حج کے بعد آب زمزم تشریف نوش فرماتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔“

(حوالہ:- فتاویٰ رضویہ شریف، جلد: ۱۲، ص: ۲۲ اور ۲۰۶)

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگرچہ آپ اپنے حال پر نبی اور رسول ہوں گے لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضور اقدس کا اتباع کریں گے اور ہمارے نبی کریم، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب! میں اس پر راضی ہو گیا۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، از:- شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۸۷)

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر رسول و نبی نے حضور اقدس سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ کی امت میں ہونے کی تمنا کی اور ان کی یہ تمنا تعظیم و محبت کی بناء پر تھی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کی بناء پر کی گئی اس تمنا کا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا عظیم صلہ اور بدلہ عطا فرمایا، جس کا ذکر مندرجہ بالا آیت میں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونے کی آرزو اور تمنا فرمائی اور دور حاضر کا دو ٹوکے کا پٹی امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کر کے اپنے منہ سے دھٹا بائی بنتا ہے۔

## منافقینِ زمانہ کا دعویٰ کہ عمل میں امتِ نبی سے بڑھ سکتا ہے

دور حاضر کے منافقین کے مقتدا اور پیشوا و نیز دارالعلوم دیوبند کے بانی آنجنمانی مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ:-

”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل۔ اس میں بظاہر بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

حوالہ:- ”تحذیر الناس“

از:- مولوی قاسم نانوتوی، مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ، دیوبند (یو پی) ص: ۵

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ورد جاری رکھتے ہوئے مذکورہ عبارت پر غور فرمائیں کہ کتنے خطرناک انداز میں نبی سے ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عبارت کی ابتداء میں مطلق ”انبیاء“ کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور تمام انبیاء میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی مُفسدِ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنی امت پر جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف علم ہی کی وجہ سے حاصل ہے اور عمل کے معاملہ میں تو امتی اپنے نبی سے مساوی یعنی برابر اور یکساں ہو سکتا ہے بلکہ نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ دور حاضر کے منافقین اپنی نمازوں کی تعداد، ذکر واذکار و دیگر اوراد و وظائف کو روزانہ شمار کرتے ہیں اور پھر اس پر کیا کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کا حساب کرتے ہیں اور پھر اس کا میزان (جوڑ-Total) لگاتے ہیں اور اپنے عمل پر

علاوہ ازیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حضرت آدم یا حضرت نوح یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام یا کسی بھی نبی یا رسول کے زمانے اس دنیا میں تشریف لے آتے، تو ان پر اور ان کی امتوں پر واجب ہو جاتا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کریں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے عہد و پیمان لیا کہ آپ کی نبوت سب کو محیط اور آپ کی بالادستی سب پر ہے۔“

(خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶)

الحاصل! حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور علو مرتبت سے آگاہ کر کے ان پر ایمان لانے کی ہدایت و تلقین فرمائی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مداح و نیاز مند تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کے لئے ”امت محمدیہ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونے کی آرزو اور تمنا فرمائی تھی۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمسر ہوں۔ حالانکہ وہ تمام حضرات منصب نبوت و رسالت پر فائز تھے لیکن انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم کا جو مرتبہ، درجہ، مرتبہ، عزت، تعظیم، تکریم اور خصوصیت رب اکبر جل جلالہ کے ہاں ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بلکہ اس درجہ اور مرتبہ پر کسی اور کے پہنچنے کا امکان ہی نہیں۔ اس مقدس ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع مراتب و درجات کو احاطہ حصر میں لانا ناممکن ہی نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس! دور حاضر کے منافقین کی جراتیں اور بیباکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات و کمالات کو ”بَشْرُ مِیٹر“ (Basharometer) کے ذریعہ ناپنے کی سعی بیجا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہہ کر توہین و تنقیص رسالت کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی منافقانہ اور ریاکارانہ عبادت کے نشہ کے غرور و گھمنڈ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر برتری کا باطل دعویٰ کرتے ہوئے بھی نہیں جھکتے۔

ہے۔ اس کے دماغ میں بھڑکی ہوئی تکبر اور غرور کی آگ پر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تخذیر الناس“ کی مندرجہ بالا عبارت پٹرول (Petrol) کا چھڑکاؤ کر کے اسے مزید مشتعل کرتی ہے اور نتیجتاً وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمسری کے دعویٰ سے متجاوز ہو کر اب برتری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ =

جس کو استنجا، وضو، غسل اور طہارت کے اہم مسائل کی واقفیت تک نہیں، جسے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض و وجبات اور دیگر ضروری امور کا احساس نہیں اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تب فرائض و واجبات کے ترک ہونے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ جو نماز کے ارکان تک صحیح طور پر ادا نہیں کرتا اور کراہت تحریمی کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، ایسی فتور آمیز نماز پڑھ کر اس کی عقل میں بھی فتور آتا ہے۔ اور وہ اپنے کو مقبول بارگاہ الہی اور مستجاب درگاہ خداوندی گردانتا ہے اور اب میرا اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ رابطہ (Direct Conetction) ہو گیا ہے۔ ایسے خیالی تصور اور خیال فاسد میں مستغرق رہتا ہے۔ وہ جاہل مبلغ انبیاء کرام کے نماز و روزے اور دیگر اعمال و حسنات کا بھی حساب لگاتا ہے اور پھر اس کا اپنی عبادت سے تقابل کرتا ہے۔ مثلاً:-

دارالعلوم دیوبند کے بانی آنجنمانی مولوی قاسم نانوتوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تخذیر الناس“ کی مذکورہ عبارت کی مضحکہ خیز تاویل کرتے ہوئے دور حاضر کے منافقین یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے کیونکہ نانوتوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ”عمل میں بسا اوقات امتی مساوی یعنی برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تر سٹھ سال کی ہوئی ہے۔ اور نماز کی فرضیت چالیس سال کی عمر شریف میں نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے تو آپ نے صرف ۲۳ نہیں سال ہی نماز پڑھی ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہوا اور اس نے دس سال کی عمر سے نماز پڑھنی شروع کی اور وہ پچانوے سال کی عمر تک پابندی سے نماز پڑھتا رہا اور انتقال کیا، تو اس نے اپنی زندگی کے ۸۵/۱۰۰ سال تک نماز پڑھی۔ لہذا وہ عمل

بذات خود اجر و ثواب متعین کر کے اپنے من میں پھولے نہیں سماتے اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آہا! آج تو میں نے اتنی اور اس قدر نیکی کمائی ہے اور آج کے دن میرے نامہ اعمال کی بھی کھاتا (Ledger) میں اتنی تعداد میں نیکیاں جمع (Credit) ہوئی ہیں۔ اس ریا کارانہ حرکت کو دور حاضر کے منافقین نے ”مذاکرہ“ کا نام دے رکھا ہے۔ راقم الحروف نے ٹرین کے سفر کے دوران کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہابی تبلیغی جماعت کے جاہلوں کی ٹولی کا اجہل امیر بعد نماز عشاء ہر مبلغ سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا نیکی کی ہے؟ ہر مبلغ یکے بعد دیگرے اپنے امیر سے اپنا روزنامہ بیان کرتا ہے کہ آج میں نے فرائض کے علاوہ اتنی رکعتیں نفل، اتنے کلمے، اتنے استغفار، اتنے درود، اتنے پارے کی تلاوت وغیرہ وغیرہ کیا عمل کئے ہیں۔ جس کو سن کر امیر جماعت واہ واہ! سبحان اللہ! کہتا جائے اور اس جاہل عابد کو سراہتا جائے اور پھر حساب لگائے کہ اتنی رکعتیں نفل پڑھیں اس کا اتنا ثواب، کلموں کی نیکیوں کا اتنا میزان وغیرہ وغیرہ یا کا میزان لگاتا جائے اور پانچ پچیس لاکھ نیکیاں کھاتے (Account) میں جمع ہو گئیں اور ہزاروں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ماشاء اللہ! آج کے دن تم نے بہت نیکیاں کمالیں۔ اپنے امیر جماعت کی زبان سے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں صرف ایک دن میں جمع ہونے کی سند (Credit Note) سن کر وہ جاہل مبلغ ہوا پراڑنے لگتا ہے۔ جب دہلی یا مدراس کا چالس دن کا چلہ پورا کر کے گھر واپس آتا ہے تو اپنی چالس دن کی نیکیوں کا اب خود میزان (Total) لگاتا ہے تو اس کا عدد (figure) کروڑوں اور اربوں میں ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کا اتنا بڑا عدد ہو گیا ہے علاوہ ازیں میرے لاکھوں صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں لہذا اب میرا ایک و نٹ خسارہ یعنی (Debit) کے بجائے منافع (Credit) میں متبدل ہو گیا ہے۔ اور وہ جاہل مبلغ اپنے کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف سمجھنے لگتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے شکم سے تولد ہوا ہو۔ اپنی نیکیوں کے خود ساختہ حصول پر اس کا دماغ سا توں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے کو صالح الاعمال اور متقی و پرہیزگار کے زمرہ میں متصور کر کے وہ جاہل مبلغ اتنا مغرور و متکبر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے ہیچ سمجھتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اولیاء و انبیاء کے مقابل اپنی نیکیوں کی کثرت کا تقابل کرتا

”إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ“ (پارہ: ۷، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۸)

ترجمہ:- ”اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش

دے، تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔“ (کنز الایمان)

اس سے مقصود اُمت کا عرض حال اور ان کی مغفرت کی درخواست تھی۔ منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوتے اور آپ کا شکم اطہر دیکھ کے جوش مارنے کی آواز کی مانند آواز دے رہا ہوتا۔“

(مندرجہ بالا تینوں روایات بحوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۶ و ۱۱۷)

مندرجہ بالا تینوں روایات سے یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمانے میں جو محنت اور مشقت برداشت فرمائی، ایسی محنت و مشقت اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کچھ احادیث کریمہ ایسی تلاوت کریں کہ جن سے معلوم ہو کہ باعتبار درجہ اور اجر و ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تک کسی کی بھی نماز نہیں پہنچ سکتی اور آپ کا عمل آپ کے لئے نافع ہے۔

○ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ کے لئے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ امام مسلم اور ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر آدمی کی نماز آدھی نماز ہے۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر مرد کی نماز پڑھنا آدھی نماز ہے، حالانکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے لیکن میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۴۰)

میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ گیا یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ عرصہ اور مدت تک عبادت و ریاضت کی یا نہیں؟ اس نے حضور اقدس سے زیادہ عمل کیا یا نہیں؟ نماز کی تعداد اور ایام نماز کی تعداد کے معاملہ میں وہ حضور اقدس سے بڑھ گیا یا نہیں؟

کیسی لچر اور لغو دلیل ہے۔ اور کیسی بے تکی منطق ہے۔ حالانکہ ”تخذیر الناس“ کتاب کی مذکورہ عبارت صرف توہین و تنقیص رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غرض فاسد سے کہی اور لکھی گئی ہے لیکن وہابی تبلیغی جماعت کے مبلغین کے سامنے ان کے مقتدا و پیشوا کی مذکورہ گھنونی عبارت پیش کی جاتی ہے، تب وہ اپنے آنجہانی پیشوا ملانا نو توئی کا دفاع کرنے کے لئے مندرجہ بالا بے ڈھنگی اور پھوٹا ویل پیش کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقبول و مستجاب عبادت و ریاضت کو اپنی ریاکارانہ عبادت پر قیاس کر کے کثرت تعداد رکعات نماز اور طول مدت زمانہ نماز کے ذریعہ پیمائش کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف ایک سجدہ کا ہماری نماز کی کروڑوں بلکہ اربوں رکعتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز اور کہاں ہماری نماز۔

○ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز میں قیام اس طرح ہوتا کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آجاتا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ اتنی محنت اور مشقت کس لئے برداشت فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ تو مغفور ہی ہیں۔ فرمایا خدا کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مغفور بنایا، شکر گزار بندہ بن جاؤں۔“

○ اُم المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل لزوم اور دوام لئے ہوئے ہے۔ تم میں سے کس کی طاقت ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی مشقت برداشت کر سکے۔“

○ ”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی صرف ایک ہی آیت پر ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں اور وہ آیت یہ ہوتی ہے:-



## ”حضور اقدس کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں“

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ“
○ = پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۳ = ○
ترجمہ:- ”اے نبی کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو“ (کنز الایمان)
تفسیر:- ”تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر۔ جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۰)

اس آیت کریمہ میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں۔ ازواج مطہرات کو یہ شرف کسی اور فضل و کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ تمام ازواج مطہرات کو اُمتی کی ہی حیثیت حاصل تھی۔ کسی کو بھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ اُن اُمتی خواتین مقدسہ کو صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زوجیت کا علاقہ اور رشتہ کی نسبت ہو جانے کی وجہ سے وہ بلند مرتبہ حاصل ہوا کہ اُمتی ہونے کے باوجود وہ تمام جہاں کی عورتوں سے مرتبہ میں افضل و اعلیٰ ہو گئیں۔ اس

”امام احمد نے بسند صحیح اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ ان سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم لوگ حضور کے عمل کے مانند عمل کرو گے؟ کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے لئے نافع تھا“، یعنی ”آپ کو عمل کی احتیاج نہ تھی۔ جس طرح کہ ہم کو عمل کی احتیاج ہے۔ آپ کا عمل آپ کے لئے اول تا آخر اجر و ثواب میں زائد ہے۔“ (حوالہ:- ایضاً)

”امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (المتوفی ۴۵۸ھ) نے امام مجاہد سے ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ“ (پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۷۹)۔ ترجمہ:- ”اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔“ کے تحت روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفارۃ ذنوب (یعنی گناہ کے کفارہ) میں نافلہ ادا نہیں فرماتے تھے جیسا کہ ہم اور تم جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ کفارۃ ذنوب کے لئے کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض میں خلل اور نقصان راہ پاتا ہی نہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۴۱)

الحاصل! عمل کے معاملہ میں اُمتی کبھی بھی اپنے نبی سے برابری نہیں کر سکتا۔ تو جب اُمتی نبی سے برابری نہیں کر سکتا تو نبی سے بڑھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی سے مساوات اور نبی سے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اپنے درجات و مراتب میں منفرد اور یگانہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ:-

الہیہ تھی؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں:-

(۱) پہلی بات یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم اور محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ”نوری کیفیت“ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوتا اور اپنے محبوب کی نوری تجلیوں کو بشری جامہ میں مستور نہ فرمایا ہوتا اور صرف ”نور مبین“ کی کیفیت کے ساتھ جلوہ نما فرمایا ہوتا، تو کسی کی بھی طاقت و صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس ”نُورٍ مِّنْ نُورِ اللّٰهِ“ والی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بلکہ آپ کے نور انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوتا۔ جب ہم آسمان میں درخشاں سورج کو ایک منٹ کے لئے بھی اپنی آنکھیں اس پر جما کر دیکھ نہیں سکتے اور سورج کی طرف نگاہ کرتے ہی ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو سورج بھی جن کا طفیلی ہے اور جن کے نور کے صدقہ میں سورج کو بھی روشنی ملی ہے، اس ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بغیر کسی حجاب کے عیاناً دیکھنا کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں تھا۔“

(۲) ”حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں ایک مرتبہ عرض کی کہ:- ”قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ“ ترجمہ:- ”عرض کی اے رب میرے! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔“ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي“ حضرت موسیٰ کی عرض پر ارشاد باری ہوا کہ ”فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔“

اس ارشاد باری سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی انسان اپنی فانی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الحاصل! اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم بلا واسطہ میرے نور کا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے لہذا اس پہاڑ یعنی طور سینا کی طرف دیکھو۔ اگر اس پہاڑ نے میرے نور کی تجلی برداشت کر لی اور اپنے مقام پر قائم رہا تو عنقریب تم میرے دیدار سے

امت کی قیامت تک ہونے والی تمام عورتوں میں سے کسی ایک کو بھی ازواج مطہرات سے درجہ اور مرتبہ میں ہمسری یا برتری حاصل نہیں۔ اگر کسی عورت نے ازواج مطہرات کے ساتھ ہمسری برتری کا دعویٰ کیا تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ اس نے قرآن مجید کے اس ارشاد کا کھلم کھلا خلاف کیا۔ تو جو لوگ اُمتی ہونے کے باوجود اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری اور برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کے ارشاد کی موافقت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ خود قارئین کرام فرمائیں۔

## ”حضور اقدس صورت بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف فرما ہوئے؟“

یہاں تک کے مطالعہ سے یہ حقیقت ظاہر ہو چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”سر اپا نور“ ہی تھے۔ نور سے ہی آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ بے مثل و مثال ”نوری بشر“ کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ نوری کیفیت یا بشکل فرشتہ کیوں تشریف نہ لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوری کیفیت یا صورت ملائکہ میں بھی بھیج سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں ہی کیوں بھیجا؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”حکیم“ ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور و معروف مقولہ ہے کہ ”فَعَلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُ عَنِ الْحِكْمَةِ“ یعنی ”حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں بھیجنے میں کیا حکمت

(پارہ: ۲۷، سورۃ الذاریات، آیت: ۵۶)

ترجمہ: ”اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔“

(کنز الایمان)

اس آیت میں فرمان الہی ”میری بندگی کریں“ کی تفسیر میں ہے کہ ”اور میری معرفت حاصل ہو۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۴۱) یعنی بندگی کے ذریعہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی شناخت، پہچان، واقفیت اور خدا شناسی حاصل ہو۔ لیکن انسانوں کو اللہ کی بندگی کرنے کی راہ دکھانے کے لئے اور بندگی کی راہ پر گامزن کر کے، بندگی کی رغبت اور شوق دلانے کے لئے انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجے۔ انبیاء و مرسلین کو انسانوں کے درمیان اور انسانوں کی رہبری و ہدایت کے لئے انسانوں ہی کی شکل و صورت میں بھیجا۔ اگر انبیاء و مرسلین کو انسانوں کے بجائے فرشتوں کی شکل و صورت میں بھیجا گیا ہوتا تو عوام الناس ان سے گھبرائے ہوتے اور ان سے قرب و نزدیکی حاصل کرنے میں خوف و ڈر محسوس کرتے۔ جیسا کہ:-

(۴) ”حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، طاہرہ و طیبہ، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ہونے والی ولادت اطہر کی اطلاع دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، تب حضرت جبرئیل کو فرشتہ کی صورت میں نہیں بلکہ انسان کی شکل و صورت میں بھیجا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا“ (پارہ: ۱۶، سورۃ مریم، آیت: ۱۷) ترجمہ:- ”تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (روح الامین) بھیجا۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔“ (کنز الایمان)

اگر حضرت جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصلی صورت میں حضرت مریم کے پاس گئے ہوتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئی ہوتیں۔ کیونکہ حضرت جبرئیل کی اصلی صورت کے متعلق احادیث کریمہ میں وارد ہے کہ:-

170

9

مشرف ہو سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس کی ایک تجلی کوہ طور پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاوُخًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ ترجمہ:- پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔“

(حوالہ:- پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۴۳، ترجمہ از:- کنز الایمان)

اور اراق سابقہ میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو حضور کا نور درحقیقت اللہ کا نور ہے۔ سورۃ الاعراف کی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے نور کو بالمشافہ (Face to Face) نہیں دیکھا تھا مگر اس تجلی نور الہی کو دیکھا تھا جو کوہ طور پر گری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی و رسول بھی اس نور کی تاب نہ لاسکے اور ”وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ یعنی ”حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔“ جب اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت نبی و رسول بھی اللہ کے نور کو بالمشافہ نہ دیکھ سکے، تو عام انسانوں میں اتنی تاب کہاں کہ وہ اللہ محبوب کے نور کو رو برو اور آمنے سامنے ہو کر دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم کا نور جو اللہ کے نور سے مستفاد ہے۔ اس نور کو اپنے سر کی آنکھوں سے بالمشافہ دیکھنا عام انسانوں کے لئے محال و ناممکن تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بشری جامہ پہنا کر اور بشریت کے حجاب میں مستور فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔

(۳) اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو انسانی جسم کا جامہ پہنا کر ہی کیوں بھیجا؟ اور بصورت فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟

اس سوال کا اطمینان بخش جواب حاصل کرنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لئے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن شریف میں ہے کہ:-

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“

السلام نے صورت بشری اختیار فرمائی۔ اسی طرح ہمارے تمہارے جیسے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک نہیں بلکہ لاکھوں پیغام و فرمان پہنچانے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صورت بشری اختیار فرمائی۔ قرآن مجید کی ہزاروں آیات اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فرامین عالیہ ہم تک پہنچانے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان صورت بشری میں تشریف لائے۔ جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”حقیقت نور“ ختم ہوگئی اور آپ معاذ اللہ عام انسانوں کی کیفیت میں متبدل ہو گئے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ”حقیقت نور محمدیہ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نور انور کی نوری تابانی اور درخشانی سے ہماری آنکھوں کو خیرہ ہونے سے بچانے کے لئے اس فانی دنیا کے قیام کے قلیل عرصہ تک کے لئے عارضی طور پر لباس بشری اختیار فرمایا تھا۔

(۵) علم نفسیات (Psychology) کا دستور ہے کہ ہر ذی روح مخلوق اپنے

ہم جنس کا اعتماد کرتی ہے اور اپنی ہم جنس مخلوق سے مانوس ہو کر اس کی طرف راغب اور مائل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ہم جنس کی بات کو اچھی طرح سمجھ کر قابل اقتدار سمجھتی ہے۔ مثلاً آدمی آدمی کی اور جانور جانور کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ کنبہ، گھرانہ، قوم، حسب، نسب، نسل، خاندان، برادری، رنگ، روپ، قد، قامت، پیشہ، کاروبار، زبان، رہن سہن، طور طریقہ، علاقہ، صوبہ، ملک وغیرہ کے اعتبار سے عالم انسانی متفرق النوع ہونے کے باوجود بنی آدم اور نوع انسانی میں شمولیت کی وجہ سے آدمی اور انسان ہی کہے جاتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے ان میں انسانوں سے انس اور اعتبار کا فطری مادہ ہوتا ہے۔ ہر انسان انسانیت کے دائرہ میں محدود رہ کر تہذیب و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونہ میں بسنے والے انسان کو اپنے ہم جنس انسان سے ایک قدرتی لگاؤ اور انس ہوتا ہے۔ اور پوری نوع انسانی کی ہدایت، رہبری اور بھلائی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ

”شیخین نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرئیل آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور ان کے وجود عظیم نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا ہے“۔ امام احمد نے حضرت عائشہ سے جو روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ”حضرت جبرئیل سُدیسی (ریشمی) لباس میں ملبوس تھے جس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔“

”ابوالشیخ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے حضرت جبرئیل کو دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو (پر) موتیوں کے تھے اور انہوں نے مور کی مانند اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہوا تھا۔“

”ابوالشیخ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو سبز حُلّے (بہشتی لباس) میں دیکھا۔ اس وقت انہوں نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا تھا۔“

(مندرجہ ذیل روایات :- بحوالہ :- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص: ۲۷۶)

حضرت سیدنا جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصلی شکل و صورت اور ہیئت و کیفیت دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرانہ جائیں اس لئے حضرت جبرئیل کو ان کے پاس انسان (بشر) کے روپ میں بھیجا گیا۔ اور حضرت جبرئیل نے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لئے ”صورت بشری“ اختیار فرمانے کی وجہ سے حضرت جبرئیل کی حقیقت ملائکہ اور صفت فرشتہ ختم نہ ہوگئی بلکہ قائم و برقرار رہی۔ ان کا صورت بشری اختیار کرنا ایک مشن کے تحت اور عارضی طور پر تھا۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک دامن عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ بندی کو اللہ تعالیٰ کا صرف ایک پیغام پہنچانے کے لئے حضرت جبرئیل علیہ

وہ فرشتہ ہونے کی وجہ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن ہم تو انسان ہیں۔ یہ کام ہمارے بس میں نہیں۔ ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم اپنے نفس ہمارے پالے پڑا ہوا ہے اور نفس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی وجہ سے ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”صورت بشری“ میں اس دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو باور کر دیا کہ میں ایک انسان ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجالا سکتا ہوں اور احکام الہیہ کی پابندی کر سکتا ہوں، تو اے لوگو! تم بھی انسان ہونے کے ناطے میری اطاعت و پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کر سکتے ہو۔

(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصورت فرشتہ دنیا میں تشریف نہ لائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کا جز قرار دیتے تھے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ”وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لِّإِنِّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفًا بِالْبَيِّنَاتِ ۝“

(پارہ: ۲۵، سورۃ الزخرف، آیت: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ:- اور اس کے لئے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا، بیشک آدمی کھلا ناشکر ہے۔ کیا اس نے اپنے لئے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ (کنز الایمان)

اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ”کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا خالق ہے یہ ستم کیا کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اور اولاد صاحب اولاد کا جز (حصہ) ہوتی ہے۔ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جز قرار دیا، کیسا عظیم جرم ہے۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۸۱)

ایک اور مقام پر ہے کہ ”إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى“ (پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۲۷) ترجمہ:- ”بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں۔“ (کنز الایمان)۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر

نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان (بشر) کی شکل و صورت میں انسانوں کے درمیان بھیجا۔

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّنَّاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

(پارہ: ۲۲، سورۃ سبأ، آیت: ۲۸)

ترجمہ:- ”اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے۔ تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں۔ گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لئے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی ہیں۔ آپ کی رسالت تمام جن وانس کو شامل ہے اور آپ تمام خلق کے رسول ہیں اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۶)

مذکورہ آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ تمام نوع انسان کے لئے نبی و رسول بن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں صورت بشری میں تشریف لے آئے۔ اگر آپ انسان کے بجائے فرشتہ کی صورت میں تشریف لاتے اور بحیثیت فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو ”صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ“ کی طرف بلا تے تو آپ کی دعوت حق و صداقت اثر پذیر نہ ہوتی کیوں کہ لوگ یہی کہتے کہ وہ فرشتہ ہیں اور انسانی فطرت سے منزہ ہیں لہذا وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور عبادت و ریاضت و اعمال حسنہ کی طرف راغب ہو کر منہیات و گناہوں سے بچ سکتے ہیں، یہ کام

خریدنے کے لئے رضا مند نہیں ہوگا اور اس مکان کو خریدنے سے باز رہے گا۔ جنات سے انسان کے خوفزدہ ہونے کا یہ عالم ہے کہ کسی ویران مقام سے گزرتے وقت اسے جنات کا صرف خیال و تصور آتے ہی اس کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور ڈر کے مارے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔

اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان کے بجائے ”صورت جن“ میں تشریف لاتے تو تمام انسان رشد و ہدایت سے محروم رہ جاتے کیونکہ کسی بھی انسان کو آپ کے قریب جانے کی جرأت و ہمت نہ ہوتی اور ایک فطری ڈر کی وجہ سے آپ سے دور رہتے۔ علاوہ ازیں جنات میں سے ہونے کی وجہ سے آپ مستقل اور دائمی طور پر نظر بھی نہ آتے بلکہ کبھی نظر آتے اور کبھی نظروں سے غائب رہتے۔ لہذا آپ صورت بشری میں تشریف لائے تاکہ نوع انسان آپ کو بالمشافہہ اپنی آنکھ سے دیکھے اور مستقل دیکھے، آپ کا بچپن، جوانی، اور زندگی کے تمام ایام کا زمانہ دیکھے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ دیکھے، آپ سے ملنے، آپ کی صحبت میں رہنے، بات چیت کرے، سوالات کرے، دین کے احکام معلوم کرے، آپ کی عملی زندگی اور آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھے اور آپ کی اتباع و پیروی کرے۔ اور نوع انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ سے رشد و ہدایت حاصل کرے کیونکہ انسان جنات سے ڈرتا ضرور ہے لیکن جنات کو انسان کا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ”قوم جنات“ حاضر ہو کر ایمان و ہدایت سے بہرہ مند ہوئی تھی۔ انسان چاہے جنات کو نہ دیکھ سکے لیکن جنات انسانوں کو باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔

قرآن شریف میں ہے کہ ”قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝“ (پارہ ۲۹، سورۃ الجن، آیت: ۱ اور ۲) ترجمہ: ”تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو

میں ہے کہ ”انہیں (فرشتوں) کو خدا کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۵۰)

اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ”نور“ کو لباس بشری میں مستور کرنے کے بجائے لباس ملائکہ کے پردہ میں چھپا کر دنیا میں تشریف لاتے اور آپ کی رات رات بھر کی طویل عبادت و ریاضت اور احکام الہیہ کی سخت پابندی، منہیات سے اجتنات، افعال رزیلہ و قبیحہ سے کنارہ کشی وغیرہ محاسن اور علاوہ ازیں آپ کی حیرت انگیز معجزات کا ظہور پذیر ہونا، ان تمام براہین و دلائل کو دیکھ کر کفار و مشرکین یہی کہتے کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ نبی فرشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں لہذا وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا امکان یہ تھا کہ آپ کے معجزات عظیمہ کو دیکھ کر کفار و مشرکین آپ کی پرستش کرنے لگتے۔ لہذا شرک کا سد باب فرمانے کے لئے اور توحید کا پرچم بلند کرنے کے لئے آپ ”صورت بشری“ میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔

(۷) اب ایک پیچیدہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ سبا کی آیت ۲۸ کی تفسیر میں ہے کہ ”آپ کی رسالت تمام جن و انس کو شامل ہے۔“ تو جب آپ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنات کا بھی رسول ہیں تو آپ بشکل و صورت انسان ہی کیوں تشریف لائے۔ جنات میں سے کیوں نہیں آئے؟ اس کا آسان اور عام فہم جواب یہ ہے کہ انسانوں کے مقابلہ میں جنات بہت ہی طاقت اور تصرف والی مخلوق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایسی مخلوق ہے جو پوشیدہ رہنے کی وجہ سے عام طور پر نظر نہیں آتی۔ آدمی ہمیشہ جنات سے خائف اور خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مکان کا سودا کر رہا ہو اور اس مکان کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر بازار کی قیمت سے بھی زیادہ دام دے کر مکان خریدنے کا عزم و ارادہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جس مکان کو میں خریدنا چاہتا ہوں اس مکان میں جنات کا دخل ہے، تو وہ شخص آدمی قیمت پر بھی اس مکان کو

بندہ ہوں۔ ایسا بندہ ہوں جسے نبوت و رسالت کے تاج کرامت و عنایت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ لہذا:-

اے لوگو! "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو خوب اچھی طرح یاد رکھ کر مجھے خدمت کہنا اور "يُوحَىٰ إِلَيَّ" کی میری فضیلت و خصوصیت کو فراموش کر کے مجھے اپنے جیسا عاجز بشر بھی مت کہنا۔ میری بشریت تمہاری طرح عام بشریت نہیں بلکہ بے مثل و مثال نوری بشریت ہے کیونکہ "أَنَا نُورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ" یعنی "میں اللہ کے نور سے ایک نور ہوں" اور اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے لہذا "لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ" یعنی "میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں" اور "أَيْكُمْ مِثْلِي" یعنی "تم میں سے کون میری مثل ہے"۔

الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق کائنات جل جلالہ کے ایسے معظم و مکرم بندے تھے کہ ان جیسا کوئی بندہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بقول:-

لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا  
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے

(از:- امام عشق و محبت رضا بریلوی)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نوری بشر تھے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی بشر کا تقابل نہیں کیا جاسکتا۔ بقول:-

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ      انسا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ  
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں      ایمان یہ کہتا ہے، میری جان ہیں یہ

(از:- امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی)

بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ و مرتبہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بقول:-

”خدا کہتے نہیں بنتی، بشر کہتے نہیں بنتی ÷ خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو“

ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔“ (کنز الایمان)۔ احادیث کریمہ میں کثرت سے ایسی روایات وارد ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قوم جنات کے گروہ درگروہ حاضر ہوتے تھے، آپ کے دست حق پرست پر ایمان لاتے تھے اور اسلامی احکام کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ المختصر! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت بشری میں تشریف لائے تو انسانوں اور جناتوں دونوں مخلوق نے فائدہ حاصل کیا۔ اگر حضور اقدس بشفکل جنات تشریف لاتے تو صرف جنات ہی بہرہ مند ہوتے اور انسان فیض سے محروم رہ جاتے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں صورت بشری میں دنیا میں تشریف لائے اس گفتگو کا ما حاصل:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے قیام کے دوران صورت بشری اختیار فرما کر لوگوں کو توحید و رسالت دونوں کی سچی معرفت اور صحیح تفہیم کرا دی۔ صورت بشری اختیار فرما کر لوگوں کو باور کرا دیا کہ اے لوگو! نہ تو میں فرشتوں میں سے ہوں اور نہ ہی جناتوں میں سے ہوں بلکہ انسانوں میں سے ہوں۔ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسا تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ انگلی کے ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا ہوں، اپنی انگلیوں سے پانی کے دریا جاری کر سکتا ہوں، موت کی آغوش میں لیٹے ہوئے مردہ کو پھر زندہ کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ قادر مطلق نے مجھے ایسی قدرت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ایسی قدرت و قوت عام انسان میں ہونا محال و ناممکن ہے۔ آدمی ہونے میں میں تم جیسا ہونے کے باوجود میں ایسے خارق عادات تصرفات کا حامل ہوں کہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں۔ لیکن خوب یاد رکھو کہ میں خدا نہیں ہوں کیونکہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں"۔ انسان ہونے کے ناطے میں خدا ہرگز نہیں ہوں بلکہ خدا کا

کیونکہ ”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ سے اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

### ارکان اسلام کا فرق:-

ہر مسلمان امتی کے لئے ارکان اسلام پانچ ہیں۔ (۱) کلمہ (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکاۃ اور (۵) حج۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چار ارکان ہیں۔ آپ پر ”زکاۃ“ فرض نہیں۔ مزید تفصیل کے لئے فتاویٰ شامی، کتاب الزکاۃ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں اس سلسلہ کے کچھ حوالے معتمد و معتبر و مستند کتابوں سے پیش خدمت ہیں۔

○ ”شاذلی طریقہ کے شیخ الصوفیہ، شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”التنویہ“ میں فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ان پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لئے ودیعت فرمائے۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کراتا ہے اور اس کو اس کے محل کے سوا میں خرچ کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام پر زکاۃ واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکاۃ ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ زکاۃ ادا کر کے طہارت مال حاصل کر کے ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے طہارت و پاکیزگی حاصل کر لی ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی عصمت کی وجہ سے ناپاکی سے پاک اور منزہ ہیں۔“

(بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص: ۵۱۶)

### نماز کی فرضیت کا فرق:-

مسلمان امتی پر (۱) فجر (۲) ظہر (۳) عصر (۴) مغرب اور (۵) عشاء کل پانچ وقت

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر تھے، لہذا آپ کے اور آپ

کے امتیوں کے لئے شریعت کے احکام بھی الگ الگ تھے“

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین کیفیتیں تھیں (۱) صورت بشری (۲) صورت حقیقی اور (۳) صورت ملکی۔ ان تینوں کیفیات میں سے دوسری اور تیسری کیفیت یعنی صورت حقیقی اور صورت ملکی کی حقیقت تو درکنار بلکہ آپ کی صورت بشری کو بھی ہم سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ آپ کی صورت بشری بھی حقیقتاً نوری بشریت ہونے کی وجہ سے بے مثل و مثال تھی۔ آپ کے جسم اطہر کے خصائص کا مختصر تذکرہ ”حضور اقدس کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات“ کے عنوان میں اوراق سابقہ میں کیا گیا ہے۔ آپ ایسے بے مثل و مثال ”نوری بشر“ تھے کہ آپ کے لئے شریعت کے احکام بھی جدا گانہ تھے۔ ان احکام کے فرق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اور امتی کبھی بھی مساوی نہیں ہوتے بلکہ نبی کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذیل میں ہم چند ان شرعی احکام کا ذکر کرتے ہیں، جن میں نبی اور امتی کے لئے الگ الگ حکم ہے۔

### کلمہ شریف کا فرق:-

تمام مسلمان امتی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“

لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں“ نبی اور امتی کے کلمہ میں اتنا عظیم فرق ہے کہ اگر کوئی امتی وہ کلمہ پڑھے، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، تو وہ امتی کافر ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔



امامت نہ کرے۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۱۵)

### عصر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنا:-

عصر کی نماز کے بعد نوافل (نفل نماز) پڑھنا منع ہے لیکن حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں:-

○ ”مروی ہے کہ دو نمازیں ایسی تھیں جسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں ترک نہیں فرمایا۔ ایک نماز فجر کے فرض کے پہلے دو رکعت اور دوسری بعد نماز عصر دو رکعت۔ حضور ان نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ رب العزت سے ملاقی ہوئے اور اس باب میں بطریق متعدد احادیث مروی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ صریح عصر کی سنتیں ہیں۔ اب اس کے سوا خلاصی کی کوئی صورت ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھے اور دوسروں کے حق میں مکروہ، جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد نماز عصر دو رکعت پڑھا کرتے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا کرتے۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۷۱۲)

○ ”امام بیہقی نے ”سنن کبریٰ“ میں اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو بعد نماز عصر نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس سے منع فرماتے تھے اور خود ”صوم وصال“ (مسلل روزے) رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو صوم وصال سے منع فرمایا کرتے تھے۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۱۴)

کی نماز فرض ہے، جب کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چھ وقت کی نماز فرض تھی۔ قرآن شریف، پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۷۹، ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ“ ترجمہ:- ”اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔“ (کنز الایمان) اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں:-

○ ”امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی (المتوفی ۳۶۰ھ) نے اپنی مشہور کتاب ”معجم اوسط“ میں اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (المتوفی ۴۵۸ھ) نے ”سنن کبریٰ“ میں ام المؤمنین، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں۔ (۱) وتر (۲) مسواک اور (۳) نماز تہجد۔“

(حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۹۲)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۸۷)

### بیٹھ کر امامت نماز فرمانا:-

ہمیں ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہونے کی وجہ سے امام اور مقتدی سب کھڑے ہو کر ہی باجماعت فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے بیٹھ کر نماز کی امامت کی تو قیام کا فرض ترک ہونے کی وجہ سے امام و مقتدی کسی کی بھی نماز نہ ہوگی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے اور دوسروں کو اس سے منع فرمایا ہے۔

دارقطنی اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بیٹھ کر

رہتا تھا۔“

(دو نوں روایات بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص: ۵۲۲)

### بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق:-

ایک مسلمان مرد بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبْعَ. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً“ (پارہ: ۴، سورۃ النساء، آیت: ۳) ترجمہ:- ”تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ دو بی بیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، تو ایک ہی کرو۔“ (کنز الایمان)۔ اس آیت سے مسلمان مرد کو بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، چار سے زیادہ رکھنا حرام ہے۔

لیکن! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں رکھنا مباح تھا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الَّتِي اَتَيْتَ اُجُورَهُنَّ“ سے لیکر ”خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ“ (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۰) ترجمہ:- ”اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو۔“ تا ”یہ خاص تمہارے لئے ہے، امت کے لئے نہیں۔“ میں صاف وضاحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے امتی کی طرح بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی قید نہیں بلکہ چار سے بھی زیادہ ازواج رکھنا آپ کے لئے مباح ہے۔

تفسیر میں ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ازواج کا نصاب نو<sup>۹</sup> (Nine) ہے جیسے کہ امت کے لئے چار ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۶)

”امام بخاری اور امام مسلم نے اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ دو نمازیں ایسی تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فرمایا کرتے تھے، وہ دو رکعتیں قبل نماز فجر اور دو رکعتیں بعد نماز عصر ہیں۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص: ۵۱۴)

### سو جانے (نیند) سے حضور اقدس کا وضو نہیں ٹوٹتا:-

علم فقہ یعنی شریعت کے قوانین کا مشہور مسئلہ ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سو جانا یعنی غفلت کی نیند (Sleeping) نواقض وضو میں سے ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو سو جانے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ حالت نیند میں بھی آپ کا قلب اطہر (مبارک دل) بیدار رہتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ”الْعَيْنُ يَنَامُ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ“ یعنی ”آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے۔“ ایک مزید حوالہ پیش ہے:-

”امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں وضو فرمایا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے خرخراہٹ (تیز سانس لینے) کی آواز سنی، اس کے بعد مؤذن آیا اور آپ اٹھ کر نماز کے لئے تشریف لے گئے اور وضو نہیں فرمایا۔“ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں:-

”امام محمد بن ماجہ تزوینی المتوفی ۲۷۱ھ اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے لیٹ کر سو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگتی تھی۔ پھر آپ اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کی علت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتیں اور آپ کا دل بیدار

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۴)

ترجمہ:- ”اور تم میں جو مریں اور بیبیاں چھوڑیں، وہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ

کو روکے رہیں۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار ماہ، دس روز ہے۔ اس مدت میں

وہ نکاح نہ کرے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۸)

یعنی عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ لیکن:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لئے قرآن مجید میں یہ حکم

نافذ فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا“ (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۳) ترجمہ:- ”اور تمہیں نہیں پہنچتا

کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ ان کے بعد کبھی ان کی بی بیوں سے نکاح کرو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ”کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد

فرمایا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۸)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن مسلمانوں کی

مائیں (أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ) ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”الْنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“ (پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۶) ترجمہ:- ”یہ نبی

مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔“

(کنز الایمان)۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ ”نبی مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ

رافت و رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لئے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ

اولی ہوں اور نبی کی بیبیاں مسلمانوں کی مائیں (Mothers) ہونے سے مراد تعظیم و حرمت

میں اور ان سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہونے میں ہے۔“

صدقہ اور زکاۃ کا مال حضور پر اور حضور کی آل پر حرام ہے:-

ایسا حاجت مند مسلمان کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے لئے صدقہ اور زکاۃ کا مال کھانا جائز ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہر حالت میں حرام

ہے۔

○ ”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ زکاۃ اور صدقہ آپ پر،

آپ کی آل پر اور آپ کے غلاموں پر اور آپ کی آل کے غلاموں پر حرام ہے۔“

○ امام مسلم نے مطلب بن ربیعہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں:- ”بلاشبہ یہ صدقات لوگوں کی کثافت اور میل ہیں اور یہ صدقات محمد

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور آل محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لئے حلال نہیں

کئے گئے۔“

○ ”ابن سعد نے حسن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے اہل پر صدقہ حرام کیا ہے۔“

○ ”ابن سعد نے عبدالملک بن مغیرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:- ”اے عبدالمطلب کی اولاد! بلاشبہ صدقہ لوگوں کا میل

ہے۔ تو تم نہ اسے کھاؤ اور نہ اس پر عامل بنو۔“

(چاروں روایات بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۰۱، اور ۵۰۲)

اُمّتی کی بیوہ عورت کا نکاح ثانی:-

اُمّتی کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ عورت عدت کے بعد دوسرے کسی سے نکاح کر سکتی

ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات

دانگی طور پر کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔

عام مسلمان اُمّتی کے لئے تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ:-

”وَالَّذِينَ يَتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

اُمّتی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جب کہ انبیاء کرام کی نہیں ہوتی:-

مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے انتقال کے بعد اس کا مال اور اس کی جائیداد و ملکیت اس کے ورثاء پر شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن شریف، پارہ: ۴، سورۃ النساء، آیت: ۱۱، ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ“ تا ”وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ“ میں تمام ورثاء کے حصص متعین فرمائے گئے ہیں لیکن یہ قوانین حصہ ترکہ و میراث اُمّتیوں کے لئے ہیں۔ انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین، حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ وراثت پر تقسیم نہیں ہوگا۔

❖ ”امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے امیر المؤمنین، اصدق الصادقین، امام المتقین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ❶ امام ابو داؤد نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر بن العوام سے ❷ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”إِنَّ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ“ ترجمہ:- ”ہم گروہ انبیاء وہ ہیں جو نہ کسی کی میراث لیتے ہیں اور نہ ہماری میراث کوئی لیتا ہے، جو کچھ ہم ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔“

(حوالہ:- (۱) فتاویٰ رضویہ شریف، جلد: ۴، ص: ۴۵)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۶۱

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۳

(۴) النبی الحجازی عن تکرار صلاة الجنائز، از:- امام احمد رضا بریلوی

❶ ”شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”میرے ورثاء درہم اور دینار کو آپس میں تقسیم نہ کریں۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۳)

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۵۴)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کو نکاح کرنے کی حرمت کی چند وجوہات ہیں۔ مثلاً:-

(۱) عورت جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ (حوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۶۱) لہذا ازواج مطہرات کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمیشہ کے لئے کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ امام بیہقی اور حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر تم اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو تو میرے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا کیونکہ عورت اپنے اس شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی، جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔

اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر حرام کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کریں تاکہ وہ ازواج جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف میں باقی رہیں۔“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۱۲)

(۲) ”اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ”امہات المؤمنین“ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کے ساتھ کسی بھی اولاد کا، کسی بھی حال میں نکاح جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔“

(۳) ”ایک وجہ حرمت کی یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ اور حیات ہیں اور کسی بھی زندہ شخص کی منکوحہ سے کسی اور کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی لئے بعض محدثین کرام نے حضور اقدس کے بعد ازواج مطہرات کے نکاح کی حرمت میں ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان ازواج مطہرات پر وفات کی عدت واجب نہیں ہے۔“ (حوالہ:- ایضاً)

حق میں پاک بلکہ باعث برکت ہیں کیونکہ آپ کے جسم اقدس سے جو کچھ بھی خارج ہوتا تھا وہ پاک تھا۔“ (دیکھو: فتاویٰ شامی، باب الانجاس)

○ ”امام بیہقی نے بسند حسین بن علوان، ہشام و عروہ سے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اور دارقطنی نے ”الافراد“ میں محمد بن سلیمان باہلی کی سند سے ہشام بن عروہ کے واسطے سے حضرت اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے آپ کو بیت الخلاء (Latrine) جاتے دیکھا۔ پھر آپ کے بعد میں گئی تو میں نے خارج ہونے والی چیز کا کوئی نشان نہ دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے عائشہ! تم نہیں جانتیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام سے جو فضلہ خارج ہو، وہ اسے کھا جائے۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۷۴)

● شیخ محقق، عاشق رسول، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شکاف (Split) پڑ جاتا اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی۔

● ایک صحابی سے مروی ہے کہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ قضائے حاجت کے لئے ایک جگہ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے تو میں اس جگہ گیا جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فراغت فرمائی تھی۔ میں نے اس جگہ بول و براز کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ البتہ چند ڈھیلے وہاں پڑے ہوئے تھے میں نے ان ڈھیلوں کو اٹھا لیا تو ان میں سے نہایت لطیف و پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹)

○ ”انبیاء کرام کی عدم میراث کا بنی و مداران کی حیات ہے۔ خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ابدیہ اور میراث مردوں کی ہوتی ہے۔ نہ کہ زندوں کی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۷۶۱)

○ ”اور ایک وجہ یہ کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اسی بناء پر امام الحرمین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا مال ان کی ملک پر باقی ہے جو ان کی طرف سے ان کی اہل پر خرچ کیا جائے گا، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات میں خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں۔“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۴)

حضور اقدس کا بول و براز اور خون پاک اور طاہر ہے:-

ہر انسان کا بول (iS'kkc /Urine) براز (ik[+kuk /Faeces) اور خون (yksgh/ Blood) اپنے اور دوسروں کے لئے ناپاکی کا حکم رکھتا ہے۔ ہمارے بدن سے نکلنے والی مذکورہ رطوبتیں نجاست کے حکم میں اور حرام ہیں۔ ان کو کھانا یا پینا حرام ہے۔ بلکہ ایسی نجس ہیں کہ انسان کے جسم سے اس کا خارج ہونا نوافض وضو ہے یعنی بدن سے ان اشیاء کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ“ (پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۶) ترجمہ:- ”یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا۔“

(کنز الایمان)

خون (Blood) ہر جانور اور انسان کا حرام ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ“ (پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۷۳) ترجمہ:- ”اس نے یہی تم پر حرام کئے ہیں مردار اور خون۔“ (کنز الایمان)

لیکن!!!

○ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات شریف اور خون مقدس امتی کے

خوشا نصیب :-

کتب احادیث میں ایسے کئی واقعات مرقوم ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول شریف اور خون اقدس پی لیا۔ اس پر حضور اقدس نے انہیں نہ روکا، نہ ناراضی کا اظہار فرمایا، نہ منہ دھونے کا حکم صادر فرمایا اور نہ ہی آئندہ ایسا کرنے سے منع فرمایا بلکہ انہیں صحت یابی، تندرستی، بیماری سے محفوظ ہونے کی خوشخبری دی، صرف یہی نہیں بلکہ دخول جنت اور دوزخ کی آگ سے نجات کی بشارت دی۔ چند واقعات حدیث پیش خدمت ہیں۔

○ ”حضرت حسن بن سفیان اپنی مستند میں، ابو یعلیٰ، حاکم، دارقطنی سے اور ابو نعیم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ حضرت ام ایمن رات کے وقت کا نشانہ اقدس میں خدمت کے لئے رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے رات کے وقت ایک پیالہ جیسا برتن رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اگر رات میں حاجت ہو تو اس میں بول شریف فرمادیں۔ ایک رات جب آپ نے اس میں بول مبارک فرمایا اور صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس تخت کے نیچے ایک پیالہ ہے۔ اسے زمین کے سپرد کر دو۔ حضرت ام ایمن نے عرض کی، خدا کی قسم! رات میں مجھے پیاس معلوم ہوئی تو میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور اقدس نے تبسم فرمایا اور نہ انہیں اپنا منہ دھونے کا حکم فرمایا اور نہ دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ”اب تمہیں کبھی پیٹ کا درد لاحق نہ ہوگا۔“ (خوشا نصیب)

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۷۴

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۹)

○ ”امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب المصری القسطلانی اپنی معرکہ الآراء کتاب ”الْمَوَاهِبُ الدُّنْيَا عَلَى الشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ میں اور امام جلیل قاضی

ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۴ھ) اپنی کتاب ”الشِّفَاءُ بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَى“ میں روایت فرمایا کہ:-

ایک عورت تھی جس کا نام ”برکہ“ تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ بھی کا نشانہ اقدس کی خدمت گزاری کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول شریف پی لیا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”أَصْحَمَتِ يَا أُمَّ يَوْسُفَ“ یعنی اے ام یوسف (حضرت برکہ کی کنیت ام یوسف تھی)! تم ہمیشہ کے لئے تندرست بن گئیں اور کبھی بیمار نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کبھی بیمار نہ ہوئی۔ بجز صرف اس بیماری کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا۔ تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہی۔ حتیٰ کہ اس کی اولاد میں کئی نسلوں تک یہ خوشبو رہی۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۷۵

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۹)

”جنگ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجروح (زخمی) ہوئے تو جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اقدس کے زخموں کو اپنے منہ سے چوس کر زبان سے صاف کیا۔ ان کے منہ میں خون اقدس جمع ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اپنے منہ سے خون باہر نکال دو۔ حضرت مالک بن سنان نے کہا کہ نہیں! خدا کی قسم! میں حضور اکرم کے مقدس خون کو زمین پر ہرگز نہیں گرنے دوں گا۔ چنانچہ وہ خون اقدس کو نکل گئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکتی اور جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ انہیں یعنی مالک بن سنان کو دیکھے۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰، اور جلد: ۲، ص: ۲۲۲)

یوسف نے ان کو شہید کر کے دار (سولی) پر کھینچا۔

○ ”ابن حبان“ نے الضعفاء“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قریشی جوان سے کھینچے لگوائے۔ جب وہ جوان کھینچنے لگانے کے کام سے فارغ ہوا تو وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اسے پی گیا۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا بھلا ہو، تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اسے زمین میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں ہے۔ حضور نے فرمایا جا! تو نے اپنے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲: ص ۵۳۸)

○ ”شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

”یہ حدیثیں دلالت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول اور دم (خون) طیب و طاہر ہے۔ اور اسی قیاس پر آپ کے تمام فضلات شریف کا حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے شارح، امام بدرالدین محمود عینی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے اور شیخ اجل امام شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی کی ہاشمی، (المتوفی ۸۵۳ھ) فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بہت زیادہ اور کثرت سے روشن دلائل موجود ہیں۔ اور ہمارے ائمہ کرام اسے حضور اقدس کی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۱: ص ۵۱)

نبی اور امتی کے لئے شریعت کے احکام میں فرق ہونے کے تعلق سے ہم نے کل گیارہ مثالیں پیش کی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ایسی مثالیں کثرت سے پیش کی جاسکتی ہیں کہ جن مثالوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص وفضائل ”أَظْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ“ ظاہر و باہر ہیں اور ان مثالوں سے نبی اور امتی کا فرق واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اس حقیقت میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی بھی امتی، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد اور عالم و فقیہ ہو، کسی بھی نبی سے ہمسری نہیں کر سکتا۔

خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲: ص ۵۳۹)

○ ”دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھینچنے لگوائے۔ (فصد لینا، گردن سے خون نکالنا) اور اپنے مقدس خون کو میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ وہ اس مقدس خون کو ایسی محفوظ جگہ پر ڈال دے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون اقدس کو پی گئے۔ حضور اقدس نے میرے بیٹے سے پوچھا تم نے اس خون کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے مکروہ جانا کہ میں آپ کے مقدس خون کو کہیں ڈالوں لہذا میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں کا تم سے بھلا ہوا اور تم کو لوگوں سے بھلا ہو۔“

(حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲: ص ۵۳۸)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۱: ص ۵۰)

**نوٹ:-** حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا شمار ”عشرہ مبشرہ“ میں ہوتا ہے اور جن کا لقب ”حواری رسول“ ہے، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اور ان کے صاحبزادے کا نام ”عبداللہ بن زبیر“ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خون پی لینے سے ان میں ایسی قوت، مردانگی، شجاعت اور بہادری پیدا ہوگئی تھی کہ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار فرمادیا اور مکہ مکرمہ میں اقامت رکھی اور ان کے حلقہ میں حجاز، یمن، عراق خراسان وغیرہ مقام کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ عبدالملک بن مروان کے عہد امارت میں ظالم حجاج بن

فرمائی ہے۔“

(تینوں احادیث کریمہ بحوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲: ص ۵۶۶  
(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۱: ص ۵۵۲)

## حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہنے کا اور بشر کہنے والے کے لئے کیا حکم شرع ہے؟“

ماضی کے کفار، مشرکین، یہود، نصاریٰ، منافقین اور مرتدین کے نقش قدم پر چل کے دور  
حاضر کے منافقین بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہتے ہیں۔ صرف بشر ہی نہیں  
کہتے بلکہ ۷ ہمارے تمہارے جیسے بشر ۷ عاجز بشر ۷ مجبور بشر وغیرہ کہتے ہیں اور اپنے اس  
باطل عقیدہ کی بذریعہ کتب نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا  
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر آپ کی  
نوری بشریت کو عام انسانوں کی بشریت کی طرح کہہ کر آپ کے اختیارات، تصرفات، عظمت،  
فضیلت، قدرت، وغیرہ کا انکار کر کے توہین و تنقیص بارگاہ رسالت کا جرم عظیم کرتے ہیں۔  
حالانکہ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کے ضمن میں ہم نے قرآن و حدیث کی ہدایت و روشنی میں  
مدلل تفصیلی بحث و وضاحت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی  
بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ آپ کی بشریت بے مثل و مثال نوری بشریت تھی۔  
منافقین زمانہ ان دلائل ساطعہ اور براہین قاطعہ کا رد کرنے سے ہمیشہ عاجز اور قاصر رہے ہیں اور  
انشاء اللہ تاقیامت عاجز و قاصر رہیں گے۔

دورِ حاضر کے منافقین اپنی ریاکاری پر مشتمل عبادت اور مکارانہ ریاضت پر اکر کر اور اتر  
کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اپنی  
نمازوں کی تعداد رکعت اور دیگر عبادت کے وقت کی مقدار کا تخمینہ کرتے ہیں اور اپنی ریاکارانہ  
عبادت کی گنتی اور شمار کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخلصانہ اور مقبول بارگاہ الہی عبادت  
سے تقابل کر کے بزمِ خویش تجزیہ کر کے یہ فاسد تخیل اخذ کرتے ہیں کہ ”عمل میں امتی بسا اوقات  
نبی سے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔“ مَعَاذَ اللَّهِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ لیکن ان  
کو مرغز اور کور باطن جاہلوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ کوئی بھی امتی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
تو کیا؟ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بھی عمل میں اور عمل کے اجر  
و ثواب میں ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں ذیل میں چند احادیث کریمہ پیش خدمت ہیں:-

**حدیث:-** ”ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا  
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ قسم ہے  
اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی اُحد کے پہاڑ کے  
برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو ان کے ایک مُد جو (یعنی دو رطل جو tqokj)  
(Barley) کی برابری نہ کر سکے گا اور نہ ان کے آدھے کی فضیلت کو۔“

**حدیث:-** ”طیالسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ  
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اُحد کے پہاڑ کے برابر  
سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے اور بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ  
کرے تاکہ میرے کسی صحابی کے کسی دن کی ایک گھڑی کی فضیلت حاصل کر لے، تو  
وہ کبھی اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔“

**حدیث:-** ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ  
سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ“ ترجمہ:- ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین  
(علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے بعد میرے صحابہ کو سارے جہاں والوں پر برگزیدگی عطا



اگر کوئی شخص اپنی والدہ محترمہ کے متعلق یہ کہے کہ وہ تو مرے باپ کی بیوی ہے۔ ایسے شخص کے لئے بے ادب اور گستاخ کا لقب ہی موزوں اور مناسب ہے۔ بے شک! اس کی ماں اس کے باپ کی بیوی ہے۔ اس کے باپ کی بیگم ہونے کی وجہ سے ہی وہ اس کی ماں بن سکی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص کی ماں بے شک اس کے باپ کی بیوی ہے لیکن ماں جیسی معزز، محترم اور واجب التعظیم شخصیت کو باپ کی بیوی کہنا بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی، بداخلاقی، بدزبانی، بدخصلتی، بدگوئی، بدکلامی، اور بدالحاظی ہے۔ اپنی ماں کو والدہ ماجدہ، امی جان، محترمہ امی، پیاری اماں، وغیرہ معزز و مہذب القابات سے مخاطب کرنے کے بجائے باپ کی بیوی، او کی جوڑو یا والد کی بیگم کہنے والا شخص سماج اور سوسائٹی کی نظروں میں بے حیا بے شرم، بے غیرت، بے ادب، بے ڈھنگا، بے شعور اور بے تمیز کہلائے گا۔ اس بدتمیز اور نالائق کپوت سے کوئی کہے کہ ذرا اپنی والدہ ماجدہ کے تعارف میں چند جملے کہو اور وہ احمق اپنی والدہ کے متعلق یہ کہے کہ:-

- ✱ میری ماں میرے باپ کی بیوی ہے کیونکہ میرے باپ سے نکاح کیا ہے۔
- ✱ میرے چچا کی بھانج ہے کیونکہ میرے چچا کے بھائی کی بیگم ہے۔
- ✱ میرے دادا کی بہو ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی جوڑو ہے۔

ایسے نالائق کپوت کو مزید بکواس کرنے سے روکتے ہوئے یہ کہا جائے کہ او، بے ادب! او، گستاخ! یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ اور جواب میں وہ یہ کہے کہ جناب! اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حقیقت! اور صداقت پر مبنی ہے۔ تب اسے کہا جائے گا کہ اپنی حقیقی ماں کا تعارف کرانے اور اس کی تعریف کرنے کے لئے دے کر صرف یہی گستاخانہ جملے ہی تیری ناپاک زبان سے صادر ہوئے؟ کیا یہ کہتے ہوئے تیری زبان کو جھٹکے لگتے ہیں کہ:-

- ✱ میری ماں کے قدموں تلے میری جنت ہے۔
- ✱ اس کی رضامندی میں خدا کی رضامندی اور اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔
- ✱ جس نے مجھے اپنا خون جگر پلایا ہے اور بڑی ممتا سے میری پرورش کی ہے۔
- ✱ خود بھوکے اور پیاسی رہی ہے لیکن مجھے شکم سیر کھلایا پلایا۔

منافقین زمانہ کی ایک بے تکی اور بے شعور دلیل:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال ”نوری بشریت“ کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث کی بین اور مستحکم دلیلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے منافقین زمانہ جذبہ بغض و عناد کے تحت، اپنی ثقافت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی بے تکی اور بے شعوری دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس کو سن کر یقین کے درجہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ منافقین زمانہ کو عقل و فہم سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

منافقین زمانہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم کو ”بشر“ بایں معنی کہتے ہیں کہ آپ انسان تھے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیا حضور اقدس انسان نہیں تھے؟ آپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند تھے یا نہیں؟ کیا آپ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے (Grand Son) تھے یا نہیں؟ آپ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ماجد تھے یا نہیں؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے یا نہیں؟ آپ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ وغیرہما ازواج مطہرات کے شوہر تھے یا نہیں؟ ان تمام رشتوں کے ناطے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ اور ہم اسی حقیقت کی بناء پر آپ کو بشر کہتے ہیں۔ آپ کی بشریت کا انکار کرنا حقیقت سے منہ موڑنے کی مترادف ہے۔

قارئین کرام کی عدالت عالیہ میں استغاثہ ہے کہ ایسے جاہل بلکہ اجہل منافقین علمی دلائل سے نہیں سمجھتے بلکہ علمی دلائل سمجھنے کی صلاحیت و لیاقت بھی ان میں نہیں ہوتی۔ ان عقل کے دشمنوں کو لاکھ کوئی کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کے ہم بھی قائل ہیں لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہہ کر مخاطب کرنا جائز نہیں۔ تب وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ واہ! جناب واہ! حضور کے بشر ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود حضور کو بشر کہنے کی ممانعت کرتے ہو؟ ایسے احمق لوگوں کو جس کی جوتی اسی کا سروالی مثل پر عمل کرتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہی مناسب ہے۔ جو ذیل میں مرقوم ہے۔

- ☆ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔“
- ☆ ”چالیس (۴۰) سال کی عمر تک آپ ایمان باللہ کی حقیقت سے ناواقف تھے۔“ (مختصر سیرت نبویہ، ص: ۲۴)
- ☆ ”حضور اقدس جیسا علم غیب تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، ص: ۸)

ایسے گستاخ اور بے ادب منافق کو مزید بکواس کرنے سے روکنے کے لئے یہ کہا جائے کہ او، بے ادب! او، گستاخ! اپنی زبان کو لگام دے اور بارگاہ رسالت کی توہین و تنقیص سے باز آ۔ اور جواب میں وہ منافق یہ کہے کہ جناب آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور مجھ پر گستاخی رسول کا الزام عائد کرنے سے اجتناب کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ دلائل و حقائق کے تحت ہی کہا ہے۔ تب اس سے یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تیری گندی اور مفسد ذہنیت کے جراثیم بطریق گستاخانہ جملے ہی تیری نجس زبان سے کیوں نکالتا ہے؟ کیا یہ کہتے ہوئے تیری زبان میں ببول کے کانٹے چھپتے ہیں کہ:

- ”حضور اقدس کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ اور پوری کائنات حضور کے نور سے وجود میں آئی ہے“

(حوالہ:- (۱) مصنف عبدالرزاق (۲) المواہب از قسطلانی (۳) افضل القرئی از امام ابن حجر مکی (۴) شرح مواہب از امام زرقانی (۵) دلائل النبوة از امام ابوبکر بیہقی (۶) انجیس از علامہ دریا بکری (۷) مطالع المسرات از علامہ فاسی وغیرہ)

- ”حضور اقدس نے ایک شخص کی مردہ لڑکی کو اس کی قبر سے زندہ فرما کر اس سے کلام فرمایا:“

(حوالہ:- (۱) دلائل النبوة از بیہقی (۲) المواہب از قسطلانی (۳) مدارج النبوة از محدث دہلوی)

- ☆ میرے ایام طفلی میں رات رات بھر بیدار رہ کر مجھے سہلایا اور سُلا یا ہے۔
- ☆ مجھے قرآن مجید اور دینی مسائل کی تعلیم دی ہے۔
- ☆ مجھے نماز کا پابند بنایا ہے۔ نیکی کی راہ اپنانے کی اور بدی کا راستہ ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔
- ☆ اخلاقی محاسن اور اعلیٰ تہذیب کے گوہر شاداب سے مجھے مزین فرمایا ہے۔
- ☆ جن کی پر خلوص دعاؤں کے طفیل میں نے ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں۔
- ☆ لیکن! وہ احق اور بد تمیز کپوت یہی رٹ لگاتا رہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ کیا میرے باپ سے نکاح کرنے کی وجہ سے میری ماں میرے باپ کی بیوی نہیں تھی؟ میرے چچا کی بھانج اور میرے دادا کی بہو نہ تھی؟ تب اسے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ تو نے اپنی ماں کا دودھ لجا یا ہے۔ تو بیٹا کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ ترے جیسا نابلد اور نابکار بیٹا خدا کسی کو بھی نہ دے۔ تیرے جیسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔

اسی طرح!!!

اگر کوئی شخص بظاہر کلمہ پڑھتا ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ:- معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ!

- ☆ ”حضور اقدس ہمارے تمہارے جیسے انسان (بشر) اور عاجز بندے ہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۹۹)
- ☆ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۷۰)
- ☆ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۴۷)
- ☆ ”امتی بھی عمل میں بسا اوقات بظاہر نبی سے بڑھ سکتا ہے۔“
- ☆ (تخذیر الناس، ص: ۵)

☆ ”نفس بشریت میں حضور اقدس عام انسانوں کی طرح ہیں اور آپ کو بھائی کہنا قرآن کے موافق ہے۔ (براہین قاطعہ، ص: ۷)

- ◎ جھک جاتا۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ (۲) شواہد النبوة)
- ◎ ”عالم شیر خواری میں گہوارے میں کلام فرمایا اور فرشتے آپ کا گہوارا (جھولا) جھولاتے تھے۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ
- ◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔“
- ◎ حوالہ:- (۱) المواہب از علامہ قسطلانی (۲) شرح مواہب از امام زرقانی (۳) جمع الوسائل از علامہ ملا علی قاری (۴) تفسیر مدارک التنزیل (۵) معارج النبوة (۶) الشفا (۷) نسیم الریاض (۸) فضل القرئی (۹) مکتوبات امام ربانی (۱۰) خصائص کبریٰ (۱۱) مدارج النبوة)
- ◎ ”آپ کا نوارنی چہرہ آفتاب و ماہتات سے بھی زیادہ چمکتا تھا اور آپ حسن و جمال میں بے مثال تھے۔“
- ◎ حوالہ:- (۱) سبیل الہدیٰ (۲) الدارمی (۳) مدارج النبوة (۴) خصائص کبریٰ
- ◎ ”آپ کے مقدس پسینہ کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی بہتر و عمدہ تھی۔“
- ◎ حوالہ:- (۱) معجم صغیر از طبرانی (۲) مدارج النبوة (۳) خصائص کبریٰ
- ◎ ”آپ کے مقدس کانوں کی قوت سماعت کا یہ عالم تھا کہ آپ آسمان کی چرچراہٹ اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز بھی سماعت فرماتے تھے۔“ (حوالہ:- (۱) ترمذی (۲) ابن ماجہ (۳) ابونعیم)
- ◎ ”جس کھاری اور کڑوے کنویں میں آپ کا لعاب دھن شریف پڑ جاتا، اس کنویں کا پانی تمام کنوؤں کے پانی سے میٹھا ہو جاتا اور کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو آئے لگتی۔“
- ◎ (حوالہ:- (۱) شواہد النبوة (۲) مدارج النبوة (۳) خصائص کبریٰ)
- ◎ ”لعاب دہن کی برکت سے مریض فوراً شفا یاب ہوتے تھے اور ان کا مرض دائمی طور پر ختم ہو جاتا۔“
- ◎ (حوالہ:- (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) شواہد النبوة، وغیرہ)

- ◎ ”حضرت جابر کے دوسرے بیٹوں کو زندہ فرمایا۔“
- ◎ (حوالہ:- شواہد النبوة، از علامہ نور الدین جامی)
- ◎ ”انگی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے۔“
- ◎ (حوالہ:- مدارج النبوة، از شاہ عبدالحق محدث دہلوی)
- ◎ ”حضور اقدس کو پتھر، درخت، چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے۔“
- ◎ (طبرانی، ابونعیم، بیہقی، بزاز، ترمذی)
- ◎ ”جانوروں نے حضور اقدس کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کو تعظیم کا سجدہ کیا۔“ (حوالہ:- (۱) شواہد النبوة، (۲) مدارج النبوة (۳) الشفاء از قاضی عیاض اُندلسی)
- ◎ ”حضور اقدس کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔“
- ◎ (حوالہ:- (۱) ابونعیم (۲) امام بیہقی (۳) خصائص کبریٰ از امام جلال الدین سیوطی)
- ◎ ”مقام صہبا میں حضرت علی کی نماز عصر کے لئے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر طلوع کرایا۔“ (مدارج النبوة، از شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی)
- ◎ ”حضور اقدس کا حکم ہوتے ہی جما ہوا درخت اپنی جڑیں اُکھاڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔“
- ◎ ”ولادت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت ہی بے شمار معجزات ظہور میں آئے مثلاً ① ولادت کے بعد فوراً آپ نے سجدہ فرمایا ② سجدہ سے سر اٹھاتے ہی آپ نے بزبان فصیح ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ فرمایا ③ آپ ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے ④ ولادت کے وقت جسم اقدس پر کسی قسم کی آلودگی نہ تھی ⑤ ولادت کے وقت نور کی بارش ہوئی ⑥ خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا، وغیرہ۔
- ◎ (حوالہ:- (۱) شواہد النبوة (۲) خصائص کبریٰ (۳) مدارج النبوة (۴) الامن والعلی)
- ◎ ”ایام طغلی میں گہوارے میں سے جدھر انگی کا اشارہ فرماتے ادھر چاند

حوالہ:- (۱) الشفا از قاضی عیاض (۲) المول از عرفی (۳) الخصال از ابن سبع (۴) بخاری شریف (۵) مدارج النبوة (۶) خصائص کبریٰ

”حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی تمنا اور آرزو فرمائی۔“ (مدارج النبوة)

”حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عظیم الشان نبی اور رسول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور اقدس کی شریعت پر عمل کریں گے۔“ (خصائص کبریٰ)

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا اور اپنے دیدار اور ہمکلامی سے مشرف فرمایا۔“ (حوالہ:- (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) خصائص کبریٰ (۴) مدارج النبوة)

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی مقدس قبر انور میں زندہ اور حیات ہیں اور اپنے امتی کے حال سے باخبر ہیں۔“

(حوالہ:- (انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء، از:- علامہ جلال الدین سیوطی)

ایسے تو بیشمار معجزات و تصرفات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار من الشمس ہیں۔ لیکن اگر کوئی گستاخ منافق ان اعجاز و کمالات کو بیان کرنے کے بجائے حضور اقدس کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر، عاجز بندہ، مکر مٹی میں مل گئے وغیرہ کہے اور چوری اوپر سے سینہ زوری کرتے ہوئے ایسا کہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کیا غلط ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت میں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا ارشاد نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں پیدا نہیں ہوئے؟ کیا آپ اللہ کے بندہ نہیں تھے؟ کیا آپ نے انتقال نہیں فرمایا؟ تب اسے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ تیری کلمہ گوئی اور اقرار دین اسلام ان منافقوں کی طرح ہے جن کے

”آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز و تصرف تھا کہ دور و دراز کے فاصلہ پر واقع شدہ واقعات و حوادث کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمادیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے زمین کے تمام حجابات ہٹا دیئے تھے اور کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہ تھی۔“

حوالہ:- (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) بیہقی (۴) ابو نعیم)

”آپ جس طرح آگے دیکھ سکتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے اور رات کی تاریکی میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھ سکتے تھے۔“

حوالہ:- (۱) ابن عدی (۲) بیہقی (۳) بخاری (۴) مسلم (۵) ابن عساکر (۶) ابو نعیم)

”آپ کے جسم اقدس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے کپڑوں میں کبھی بھی جو نہیں پڑی۔“

”آپ طبعی طور پر جماہی سے پاک اور منزہ تھے۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ)

”دست اقدس کے اعجاز اور تصرفات کے واقعات اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ جن کا بالتفصیل تذکرہ ممکن نہیں مثلاً ○ ہاتھ مبارک میں پر کیف ٹھنڈک اور نرمی مہک تھی۔ ○ جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا جسم بڑھاپے میں بھی جوان کی طرح تر و تازہ رہتا۔ ○ جس کے سر پر دست پاک پھیر دیتے اتنے حصہ کے بال ایک سو سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی سیاہ رہتے۔ ○ جس کے چہرہ پر دست اقدس پھیر دیتے اس کا چہرہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہتا۔ ○ کسی گنجه کے سر پر ہاتھ شریف پھیر دیتے تو سر میں بال اُگ نکلتے۔ ○ کسی آسیب زدہ یا دیوانہ کے سر پر دست پاک پھیر دیتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ ○ ٹوٹا ہوا پاؤں دست اقدس کا مس ہوتے ہی فوراً اس کی ہڈی جڑ جاتی۔ ○ زخم لگنے کی وجہ سے رخسار پر لٹکی ہوئی آنکھ دست بابرکت لگتے ہی فوراً صحیح ہو جاتی۔ وغیرہ

ترجمہ:- ”اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے

ہیں، جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں زمانہ اقدس کے دشمنان رسول اور گستاخان رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ بارگاہ رسالت کے گستاخ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں نہیں فرمائے۔ یعنی جو الفاظ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز یعنی عزت، رتبہ اور مرتبہ کے لئے نامناسب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے، ان الفاظوں کو گستاخ رسول حضور اقدس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے جیسا بشر ہے یا میرا محبوب اعظم تمہاری طرح عاجز بندہ ہے۔ لیکن دور حاضر کے منافقین ان الفاظ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بشری بولی بولنے والے دور حاضر کے منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تب وہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت مقدسہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بطور دلیل و ثبوت پیش کرتے ہیں اور اپنا منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری دانش پر تعجب ہے۔ کیسی عجیب بات کہتے ہو۔ جب حضور کو قرآن میں ”بشر“ کہا گیا ہے اور قرآن سے استدلال کر کے ہم نے بھی حضور کو بشر کہہ دیا تو اس میں تم کیوں اس قدر پریشان ہوتے ہو۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم رب فرمایا ہے کہ ”میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔“

ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تو اضع و انکساری

متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ (پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۸) ترجمہ:- ”اور کچھ لوگ کہتے  
ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔“ (کنز الایمان) لہذا اے  
توہین کی نیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے! تیری اس  
گستاخانہ بولی کے سبب تو ہرگز مؤمن نہیں بلکہ منافق ہے۔

حضور اقدس کو بشر کہنے کے متعلق شرعی حکم:-

پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو  
”يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ“ کہہ کر مخاطب فرمایا ہو۔ یا ایسا ارشاد فرمایا ہو کہ ”أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلَهُمْ“ یعنی  
”آپ ان لوگوں جیسے بشر ہیں۔“ بلکہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا ارشاد فرمایا ہے اور یہ  
ارشاد گرامی کے ذریعہ اپنے محبوب اعظم و اکرم کی زبان حق ترجمان سے یہ کہلایا ہے کہ ”اے  
محبوب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔“ اس ارشاد گرامی میں کیا  
حکمت ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے اوراق سابقہ میں اس آیت مقدس کی  
مفصل تفسیر اور وضاحت قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ جس کا اعادہ نہ کرتے  
ہوئے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ دور حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی  
غرض سے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔

”زمانہ ماضی کے گستاخ رسول بھی توہین و تنقیص رسالت کی غرض سے  
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا  
کرتے تھے۔“

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ“

(پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۸)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطریق تواضع و انکساری جو جملہ اپنے لئے ارشاد فرمایا ہے، اس جملہ کا حضور کے لئے استعمال کرنا کسی امتی کو رو نہیں۔ ایک مثال پیش خدمت ہے:-

”کسی اسلامی یونیورسٹی کے صدر المدرسین جو اپنے وقت کے جید عالم اور محدث ہوں۔ ہزاروں طلباء نے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیئے ہوں اور اپنی علمی پیاس بجھائی ہو اور وہ عالم صاحب ”استاد العلماء“ کے منصب پر فائز ہوں، وہ اگر ازراہ تواضع و انکساری یہ فرمائیں کہ میں تو طلباء کا خادم ہوں۔ تو ان کے اس جملہ کو دلیل بنا کر ان کا کوئی شاگرد اگر یہ کہے کہ اس یونیورسٹی کے صدر المدرسین تو میرے خادم ہیں۔ تو ایسے بیوقوف اور احمق شاگرد کے لئے یہی کہا جائے گا کہ اس کا دماغ مغز سے خالی ہے۔ صدر المدرسین صاحب نے بے شک اور ضرور اپنے متعلق یہ فرمایا ہے کہ میں طالب علموں کا خادم ہوں لیکن ان کے اس متواضع جملہ کو دلیل بنا کر کسی طالب علم کو رو نہیں کہ وہ معزز و معظم صدر المدرسین کو اپنا خادم کہے۔ اگر کسی طالب علم نے اپنے استاد محترم کو اپنا خادم کہا تو وہ بے ادب اور گستاخ کہلائے گا۔“

اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطریق تواضع و انکساری اپنے کو ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمایا ہے، اس کو دلیل بنا کر کسی امتی کو رو نہیں کہ وہ اپنے آقا و مولیٰ اور سید الانبیاء والمرسلین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہے۔ اگر کسی امتی نے اپنے رسول معظم اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تو وہ امتی بے ادب اور گستاخ کہلائے گا اور بارگاہ رسالت کا گستاخ و بے ادب دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ:-

⊙ ”فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ جس شخص نے توہین کی نیت سے حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”هَذَا الرَّجُلُ“ یعنی ”یہ شخص“ کہا، وہ کافر ہے۔“

⊙ ”فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر،

بھائی، آدمی اور انسان کہہ کر پکارنا حرام ہے۔ اگر توہین کی نیت ہے تو کفر

ہے۔“ (بحوالہ:- جاء الحق، از:- حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی)

الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کسی بھی امتی کو رو نہیں۔

کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ:-

⊙ ”تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کہ اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۴۹)

⊙ ”سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلحاظ ظاہری ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمانا حکمت ہدایت و ارشاد کے لئے بطریق تواضع ہے اور جو کلمات تواضع کے لئے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے۔ تو کسی امتی کو رو نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری بشریت کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۵۸)

⊙ ”کسی کو بھی جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے مثل بشر کہے کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت بہ طریقہ تواضع فرماتے ہیں۔ ان کا کہنا دوسروں کے لئے روا نہیں ہوتا۔ دویم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہہ و مہمہ (ہر چھوٹا بڑا) میں پایا جائے، یہ درپردہ ان کمالات کے نہ ماننے کا مُشعر (ظاہر کرنا) ہے۔ سویم یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے مثل کہتے تھے اور اس سے گمراہی میں مبتلاء ہوئے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۴۹)

قرآن مجید کی تفسیر سے ماخوذ مندرجہ بالا تین عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ ازراہ تواضع و انکساری فرمایا ہے۔ اور حضور اقدس

لیکن

☆ کسی بھی نبی کے کسی بھی مؤمن امتی نے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ نہیں کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ حضرات صحیح معنی میں مؤمن اور سچے مسلمان تھے۔

☆ لہذا! جو صحیح معنی میں مؤمن و مسلمان ہیں وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا عاجز بندہ نہیں کہتے بلکہ ”نوری بشر“ اور کائنات کے مالک و مختار کہتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ.....

- ⊙ حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار، مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔
- ⊙ حضور اقدس کو بے مثل و مثال نوری بشر کہنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار، مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔ کسی مؤمن کا طریقہ نہیں۔

⊙ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو اپنے جیسا بشر کہنے والے بے ادب اور گستاخ گروہ کو تازیانہ زدن کرتے ہوئے حضرت مولانا روم اپنی ”مثنوی“ میں فرماتے ہیں کہ:-

ہمسری با انبیاء برداشتند ÷ اولیاء را ہم چوں خود پنداشتند  
گفتہ ایں کہ ما بشر ایشان بشر ÷ ما و ایشان بستہ خوابیم و خور  
ترجمہ:- ”ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اولیاء عظام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اپنے اس باطل دعویٰ کی توثیق میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی انبیاء و اولیاء بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ کھانا کھانے اور سونے کے معاملہ میں وہ اور ہم مساوی ہیں۔“

خوب یاد رکھو کہ.....

⊙ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ”بشر“ کہنے کا طریقہ شیطان کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ابلیس لعین نے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشر کہا تھا۔ اور شیطان کے نقش قدم پر چل کر کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، مرتدوں اور منافقوں نے انبیاء کرام کو ”بشر“ کہا۔ ہر نبی کے زمانہ کے منکروں نے اپنے نبی کو ”بشر“ کہہ کر اپنے نبی کی عظمت اور اہمیت گھٹانے کی رذیل کوشش کی ہے۔

⊙ دور حاضر کے منافقین بھی ماضی کے کفار و منافقین کے نقش قدم پر چل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ⊙ اپنے جیسا بشر ⊙ عاجز بندہ وغیرہ کہہ کر بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا جرم عظیم کرتے

ہیں۔

جب کہ احقر حیدرآباد گیا ہوا تھا کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ میں پچیس (۲۵) برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا (مولانا نانوتوی کا) دیکھا ہے۔ وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا، جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔“

حوالہ:- (۱) حکایت اولیاء (ارواحِ ثلاثہ) از:- مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، ناشر:- کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند، حکایت نمبر: ۲۳۲، ص: ۲۵۹ (۲) سوانح قاسمی، از:- مولوی مناظر حسن گیلانی، ناشر:- دارالعلوم دیوبند (یو۔ پی) جلد: ۱، ص: ۱۳۰

قارئین کرام سے التماس ہے کہ مندرجہ بالا روایت کو بغور مطالعہ فرمائیں اور اس عبارت کے ضمن میں مندرجہ ذیل نکات پر توجہ فرمائیں:-

(۱) مولوی رفیع الدین صاحب وہابی دیوبندی جماعت کے اکابر میں سے تھے۔ نیز طویل عرصہ تک وہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم رہ چکے ہیں اور مولوی قاسم نانوتوی کے خاص معتمد اور مصاحب تھے۔

(۲) انہیں مولوی رفیع الدین صاحب کا واقعہ ان کے مرید خاص مولوی نظام الدین حیدر آبادی نے بمقام حیدرآباد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے بیان کیا ہے اور مولوی نظام الدین صاحب حیدرآبادی کے لئے تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ”صالحین میں سے تھے“ یعنی مولوی نظام الدین صاحب طبعیت کے ہونے کی وجہ سے ان کا بیان کردہ واقعہ سچائی پر مبنی اور قابل اعتماد ہے لہذا اس واقعہ کو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے ”حکایات الاولیاء“ (پرانا نام ”ارواحِ ثلاثہ“) کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور تھانوی صاحب کے حوالہ سے مولوی قاسم نانوتوی کے سوانح نگار مولوی مناظر حسن گیلانی نے ”سوانح قاسمی“ میں نقل کیا ہے۔

## حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟

قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے منافقین جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب اندھی عقیدت و شخصیت پرستش کے جذبہ فاسد کے تحت ”انسانیت سے بالا درجہ والا“ اور ”فرشتہ مقرب“ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اندھا گائے بہرا بجائے، والی مثل پر عمل کرتے ہوئے اپنی اندھی عقیدت کی تشہیر و اشاعت بھی کرتے ہیں۔

مولوی قاسم نانوتوی کو انسانیت سے بالا درجہ اور فرشتہ مقرب کہا:-

◎ جن کو وہابی تبلیغی جماعت کے متبعین بڑے ادب و فخر سے ”قاسم العلوم والخیرات“ کہتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کے متعلق دورِ حاضر کے منافقین کا نظریہ عقیدت دیوبندی مکتبہ فکر کی دو مستند کتابوں کے حوالے سے پیش خدمت ہے:-

”مولوی نظام الدین صاحب مغربی حیدرآبادی مرحوم نے جو مولانا رفیع الدین صاحب سے بیعت تھے اور صالحین میں سے تھے، احقر سے فرمایا



”بشریت“ کے حامل ہیں لیکن مولوی قاسم نانوتوی صاحب تو بشریت سے بھی بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی روایت کردہ مذکورہ عبارت میں مطلق انسانیت کا لفظ وارد ہے اور مطلق انسانیت میں تمام انسان آگئے۔ اور تمام انسانوں میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین عظام اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگئے۔ اس عبارت میں مطلق انسانیت کا لفظ بغیر کسی قید اور استثناء کے کہا گیا ہے۔ یعنی لفظ انسانیت تمام انسانوں کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام انسان پھر چاہے وہ انبیاء اور مرسلین ہوں۔ تمام کی انسانیت یعنی بشریت سے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کی بشریت اونچی اور بلند ہے۔

عبارت کے آخر میں تو غلو و مبالغہ کی آخر منزل سے بھی تجاوز کرتے ہوئے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ”وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔“ یعنی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی حقیقت میں ایک فرشتہ تھے اور دنیا میں انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس عبارت میں نانوتوی صاحب کو صرف فرشتہ نہیں بلکہ ”فرشتہ مقرب“ کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی عام فرشتوں کی طرح ایک عام فرشتہ نہ تھے بلکہ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور دیگر حاملان عرش و کرسی فرشتگان خاص کی طرح ”مقرب فرشتہ“ تھے۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہنے والے منافقین زمانہ اپنے پیشوا اور ملا کی تعریف میں کس درجہ غلو اور مبالغہ کر رہے ہیں۔ اپنے پیشوا کو بشریت سے اعلیٰ درجہ کا اور مقرب فرشتہ کہہ رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے پیشوا کے متعلق یہ جملہ لکھ دیا کہ ”جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا“ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی انسان نہیں تھے بلکہ انسانیت سے بالا درجہ کی ہستی تھے لیکن وہ انسانوں میں ظاہر کیئے گئے تھے۔ واہ! کیا کہنا! جب نبی اکرم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی روایت کرتے ہیں کہ مولوی رفیع الدین صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ ”میں پچیس برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔“ واہ! کیا عقیدت و تعظیم و ادب ہے؟ مولوی رفیع الدین صاحب کسی عام انسان (بشر) کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے بلکہ مولوی قاسم نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مولوی قاسم نانوتوی کی خدمت میں بغیر وضو یعنی حالت حدث (بحیثیت محدث) حاضر ہونا بے ادبی ہے۔ ایک دو مرتبہ کا اتفاق نہیں بلکہ پورے پچیس (۲۵) سال تک باضابطہ اور نہایت پابندی سے با وضو نانوتوی صاحب کے پاس جاتے رہے اور بقول ”کبھی بھی بلا وضو نہیں گیا“ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی رفیع الدین صاحب پچیس سال یعنی تین سو مہینے یعنی تقریباً نو ہزار دنوں میں ایک مرتبہ بھی نانوتوی صاحب کی خدمت میں ”بے وضو“ نہیں گئے بلکہ جب بھی گئے، تب ”با وضو“ ہی گئے۔ کیا مولوی رفیع الدین کے لئے نانوتوی صاحب ”نماز“ تھے؟ یا ان کے پاس جانا نماز کا حکم رکھتا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟

وجہ یہی تھی کہ بقول مولوی رفیع الدین صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند ”میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا (مولانا نانوتوی کا) دیکھا ہے۔“ یعنی مولوی قاسم نانوتوی کا درجہ، مرتبہ و درجہ انسانیت سے بالا یعنی اونچا و بلند ہے۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف میں کس قدر غلو اور مبالغہ کیا جا رہا ہے اور کیسے خطرناک انداز میں مولوی قاسم نانوتوی کی شان و عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبارت کے جملہ کی طرف پھر ایک مرتبہ توجہ فرمائیں۔ ”میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا ہے“ کا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ لغت میں انسانیت کا معنی ”بشریت“ ہے۔ (فیروز اللغات، ص: ۱۳۰) یعنی مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی کا مرتبہ انسانیت یعنی بشریت سے بلند ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان گزر چکے، موجود ہیں اور بعد میں آئیں گے وہ تمام انسان

احمد ٹانڈوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”تم نے کبھی خدا کو بھی اپنی گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی  
خدا کو بھی اس عرشِ عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے  
دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکتے کہ رب العالمین اپنی کبریائی پر پردہ  
ڈال کر تمہارے گھروں میں بھی آکر رہے گا؟ تم سے ہم کلام ہوگا؟  
تمہاری خدمتیں کرے گا؟

نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔

تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں؟ مجذوب ہوں؟ کہ بڑا ہانک رہا ہوں؟ نہیں  
بھائیوں! یہ بات نہیں ہے۔ سڑی ہوں نہ سودائی۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ  
ہے، حق ہے۔ مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ محبت کا  
معاملہ ہے اور محبت میں اشارو، کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت  
بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔ کچھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی  
باتیں ہی محبت کو اس آتی ہیں۔“

یہاں تک حقیقت و مجاز کا فرق، سمجھ کا فرق، محبت کا معاملہ، بے پردہ سچائی اور محبت کو اس  
آنے والی باتوں کی تمہید باندھنے کے بعد مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی آگے لکھتے ہیں کہ:-

”تو پھر خدا را بتاؤ، جن آنکھوں نے گزری گاڑے میں ملنوف اس  
بندے کو دیکھا ہے، وہ کیوں نہ کہیں کہ ہم نے خود اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ  
اپنی اسی سرزمین پر دیکھا ہے۔“

(حوالہ:- الجمیعت، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ ص: ۵۹)

مندرجہ بالا عبارت پر کچھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے مذکورہ عبارت کے کچھ الفاظ کے معنی  
لغت سے دیکھ لیں تاکہ قارئین کرام میں سے اردو سے کم واقفیت رکھنے والے حضرات کو  
”الجمیعت“ کے شیخ الاسلام نمبر کی مذکورہ عبارت اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو۔

کا معاملہ ہوتا ہے تو دور حاضر کے منافقین ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کی ہی راگنی  
لاپتے ہیں اور جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب ”اندھا بانٹے  
ریوڑیاں، ہر پھر کے اپنوں ہی کو دے“ والی مثل کے مصداق ہوتے ہوئے اپنے  
پیشوا کو ”انسانیت سے بالا درجہ“ اور ”فرشتہ مقرب“ کہہ دیتے ہیں بلکہ الوہیت  
کے درجہ تک پہنچا دیتے ہوئے بھی کسی قسم کی جھجک اور کھٹک محسوس نہیں کرتے۔  
چند مثالیں پیش خدمت ہیں:-

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے  
متعلق لکھا کہ رب العالمین اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر گلی کوچوں  
میں چلتا پھرتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولوی حسین احمد ٹانڈوی کہ جن کو وہابی تبلیغی جماعت  
کے تبعین ”مولانا مدنی“ اور ”شیخ الاسلام“ کے نام سے ملقب کرتے ہیں۔ جب ان کا انتقال  
ہوا تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دیوبندی مکتبہ فکر کے مصنفین اور شعراء نے  
کافی تعداد میں مضامین، کتب اور مراثی ارقام طبع کیں۔ دہلی سے شائع ہونے والے  
”الجمیعت“ روزنامہ نے بھی ٹانڈوی صاحب کے حالات زندگی اور مناقب پر مشتمل ”شیخ  
الاسلام نمبر“ شائع کیا۔ اس خاص نمبر میں مختلف نامہ نگار، سوانح نگار اور مضمون نگار نے اپنی  
عقیدت والہانہ نسبت کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً:-

◎ ”الجمیعت“ روزنامہ (دہلی) کا ”شیخ الاسلام نمبر“ مورخہ ۲۵ رجب  
المرجب ۱۳۷۷ھ سنچر، مطابق ۱۵ فروری ۱۹۵۸ء کے صفحہ نمبر ۵۹ پر  
وہابی جماعت کی ایک نامور شخصیت مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی کا  
مضمون شائع ہوا ہے۔

مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجنمانی مولوی حسین

شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کو اپنی گلیوں میں چلتے پھرتے یا لوگوں سے تواضع و انکساری سے گفتگو اور خدمت کرتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر تمہارے مکانوں میں آ کر سکونت اختیار کرے؟ ان تمام ناممکن باتوں کو جملہ استفہامیہ کے طور پر ارقام کر کے سوال پوچھا ہے اور پھر اپنے ہی قائم کردہ سوالوں کا خود ہی جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔“

جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گلی کو چوں میں چلے پھرے، انسانوں کے درمیان آ کر رہے اور بسے، ہمارے گھروں میں سکونت پذیر ہو، ہم سے ہم کلام ہو اور ہماری خدمت میں کرے۔ یہ تمام امور ناممکن اور محال ہیں۔ ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان امور کا کوئی امکان ہی نہیں۔

(۳) اپنے ناممکن تخیل و تصور کا رد و ابطال کرنے کے بعد جناب ملیح آبادی صاحب ان ناممکن امور کے امکان کی سبیل ایجاد کر رہے ہیں۔ اور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل ایسی پھوہڑ بات کبھی کہہ نہیں سکتا لہذا ملیح آبادی صاحب ”تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں۔“ کا جملہ استعمال کر کے اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی عقل کا چراغ گل ہو گیا ہو۔ لیکن پھر بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں اور اپنے شش و پنج کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس بات کا امکان محال ہے ایسی بات کہہ کر کہیں میں پاگلوں میں تو شمار نہیں ہوتا؟ ”مجزوب ہوں کہ بڑھانک رہا ہوں؟“ یعنی کیا میں دیوانہ ہوں کہ دیوانگی کے عالم میں بے تنگی بات کہہ رہا ہوں؟ جناب ملیح آبادی صاحب کو خود اپنی کہی ہوئی بات کے درست ہونے میں تردد ہے کہ میری یہ بات ٹھنڈے پیر کی گپ تو نہیں سمجھی جائے گی نہ؟ خدائے تعالیٰ مولانا مدنی صاحب کے روپ میں گلی کو چوں میں گھومتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے وغیرہ باتیں کہنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ میرے ایسے واہیات جملے اور لغو کلام کہیں میری جنونی

## حَلَّ لُغْتُ:

- فردوسی = عاجزی، تواضع، غربتی، مسکینی (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۹۳۱)
  - مجذوب = خدا کی محبت میں غرق، بے ہوش، مست، بے خود، آپے سے باہر، صاحب جذب، دیوانہ، پاگل، سڑی، سودائی۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۲۰۵)
  - بڑھانکنا = بڑھانا، مجذوبانہ باتیں کرنا۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۹۹)
  - سڑی = پاگل، سودائی، دیوانہ، احمق، بیوقوف (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۷۹۸)
  - سودائی = دیوانہ، پاگل، خبطی، جنونی، احمق (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۸۱۹)
  - کنایہ = ایما، اشارہ، مہم بات، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۳۳)
  - گزری = موٹا سوتلی کپڑا (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۹۸)
  - گاڑھا = موٹا، دبیز، ایک قسم کا موٹا کپڑا، کھدّر (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۷۷)
  - مَلْفُوف = لپٹا ہوا، لفافہ میں بند، سر بند، بند (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۲۸۳)
  - راس آنا = موافق آنا، ٹھیک ہونا۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۹۷)
- حل لغت کے کالم میں مرقوم الفاظ کے معنی و مطلب معلوم کر لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ ”شیخ الاسلام نمبر“ کی مندرجہ بالا پیش کردہ عبارت کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے کی ہم مؤدبانہ گزارش اپنے معزز قارئین کرام سے کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نمبر کی مذکورہ عبارت کتنی خطرناک اور تو حید گش ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل تبصرے سے آجائے گا۔
- (۱) مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک ذمہ دار اور مشہور مصنف ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتاب ”آزادی کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ نے غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ مولوی ملیح آبادی صاحب اپنے پیشوا مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کی محبت اعلیٰ یعنی اندھی محبت میں ایسے بہکے اور پھسلے کہ ان کا تو حید کا خود ساختہ دعویٰ کا فور ہو گیا۔
- (۲) عبارت کا ما حاصل یہ ہے کہ جناب ملیح آبادی صاحب ایک ناممکن اور محال بات کا

(۶) اپنے مقتدا اور پیشوا مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کو ”مجازی خدا“ ثابت کرنے کے لئے جناب ملیح آبادی صاحب نے آگے چل کر جذبہ محبت کا دامن تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”محبت کا معاملہ ہے۔“ یعنی جناب ٹانڈوی صاحب کے مرتبہ عالیہ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محبت کا معاملہ اور تقاضا ہے۔ کس کی محبت کا معاملہ ہے؟ خدا کی محبت کا معاملہ ہے؟ نہیں، نہیں! بلکہ ٹانڈوی صاحب کی محبت کا معاملہ ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ ”اندھی محبت“ کا معاملہ ہے۔ اور مشہور مثل ”اندھے کو رات دن برابر ہے۔“ کے مطابق جناب ملیح آبادی صاحب بھی ٹانڈوی صاحب کی محبت میں اندھے بن کر اچھے اور برے میں تمیز کرنے سے عاجز اور قاصر بن کر انہیں ”الوہیت“ کی سرحد میں مار تول کر گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ حقیقی خدا نہ کہہ سکے تو ”مجازی خدا“ کہہ دیا۔

(۷) جناب ملیح آبادی صاحب اپنے مقتدا اور پیشوا جناب ٹانڈوی صاحب کو علو مرتبت کے منصب پر فائز کرنے کرانے کے لئے محبت کا معاملہ پیش کرنے کے بعد محبت کا مزاج اور محبت کی خاصیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ”اور محبت میں اشاروں، کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔“ یعنی محبت میں کوئی بات صاف و صریح لفظوں میں عیاناً اور کھلم کھلا نہیں کہی جاتی بلکہ اشاروں اور کنایوں سے کام لیتے ہوئے بات سمجھائی جاتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ”محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی“ یعنی ایسی حقیقت کہ جو سچ ہونے کے باوجود بے پردہ ہو وہ سچائی محبت کو گوارا نہیں ہوتی۔ اس جملہ کے ذریعہ ملیح آبادی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا جناب ٹانڈوی صاحب ایسی قدسی صفات کے حامل تھے کہ ان کی قدسی صفات کو صاف اور صریح لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ جناب ٹانڈوی صاحب کی ”صفات قدسی“ بقول جناب ملیح آبادی ایسی سچائی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس کا علانیہ طور پر اعتراف بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ”محبت کا معاملہ ہے..... اور محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔“

کیفیت کی نشاندہی تو نہیں کرتے؟

(۴) یہاں تک تو جناب ملیح آبادی صاحب نے ناممکن بات اور امر محال کے ساتھ ساتھ دیوانگی پاگل پن اور جنون کی راگنی آلاپتے رہے اور پھر اچانک پانسلا پلا اور بات کا رخ یک لخت موڑ دیا۔ اور اب یقین کے درجہ میں بات کرنے لگے۔ جس امر محال کے متعلق تصور کرنے کو بھی پاگل پن کہہ رہے تھے، اب اسی امر محال کے امکان کی بات کہنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ”نہیں بھائیو! یہ بات نہیں ہے۔ سڑی ہوں، نہ سودائی“ یعنی ایسی ناممکن اور محال بات کہہ کر میں پاگل یا دیوانہ نہیں ہوں بلکہ سالم العقل اور فرزانہ ہوں۔ کیونکہ میں نے جو محال بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ ”جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، حق ہے۔“ یعنی خدائے تعالیٰ کا گلی کو چوں میں چلتے پھرتے نظر آنا، فانی انسانوں سے فروتنی کرنا، اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر لوگوں کے گھروں میں آ کر رہنا لوگوں سے بات چیت کرنا اور لوگوں کی خدمات کرنا سچ ہے، حق ہے۔

(۵) اپنی سراسر جھوٹ اور کذب و دروغ پر مشتمل بات کی صداقت اور حقانیت ثابت کرنے کے لئے جناب ملیح آبادی صاحب ”سمجھ کا پھیر“ اور ”حقیقت و مجاز کا فرق“ کی منطق چھانٹی شروع کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ”مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔“ یعنی عبارت کی ابتداء میں جس امر محال کا ذکر کیا ہے۔ اس کا صادر ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہ امکان سمجھ کے پھیر اور حقیقت و مجاز کے فرق پر مبنی ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ اپنے حقیقی روپ میں انسانوں کے درمیان رہ کر گلی کو چوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا تھا بلکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب ہمارے درمیان رہ کر ادھر ادھر بھٹکتے تھے، ہمارے ساتھ فروتنی کرتے تھے، ہمارے گھروں میں آ کر ڈیرا ڈالتے تھے، ہم سے گفتگو کرتے تھے، ہماری خدمات کرتے تھے، یہ سب ”خدائی جلوہ“ تھا۔ جناب حسین احمد صاحب ٹانڈوی ہمارے درمیان ”خدا کا جلوہ“ اور ”مجازی خدا“ کی حیثیت سے اس دھرتی پر رونما ہوتے تھے۔

انداز میں اظہار کرنے کے بجائے صاف کھلے انداز میں منکشف کر رہے ہیں کہ جب خدا کا فانی انسانوں سے فروتنی کرنا، اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر لوگوں کے گھروں میں آ کر رہنا، لوگوں سے ہمکلام ہونا اور لوگوں کی خدمتیں کرنا ناممکن اور محال ہے خدائے تعالیٰ حقیقی روپ میں اس طرح ہمارے درمیان نظر نہیں آتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ”خدا را بتاؤ“ کہ ہماری آنکھوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو ہم سے فروتنی، ہمارے درمیان سکونت، ہم سے ہمکلامی اور ہماری خدمات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جن کو ہم نے اس انداز سے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے مولانا حسین احمد مدنی کے روپ میں حقیقی خدا کے بجائے خدا کا جلوہ دیکھا ہو۔

(۱۰) جناب مولوی عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی اپنے پیشوا مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے عقیدت و محبت میں ایسے غوطہ زن بلکہ مستغرق ہیں کہ اپنے پیشوا کو حقیقی خدا نہ کہہ سکتے تو ”مجازی خدا“ کہہ کر ہی دم لیا اور صاف لفظوں میں انہیں خدا کا جلوہ کہہ دیا۔ ”جن آنکھوں نے گزی گاڑھے میں ملفوف اس بندے کو دیکھا ہے۔“ یعنی ”جن آنکھوں نے گزی گاڑھے یعنی موٹا اور دبیز سوتی کپڑے یعنی کھدر میں ملفوف یعنی لپٹا ہوا جو بندہ یعنی مولوی حسین احمد ٹانڈوی کو دیکھا ہے وہ بظاہر تو ایک بندہ نظر آتا ہے لیکن اس بندے کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا ہی مناسب ہے کہ ”ہم نے خود اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ اپنی اس سر زمین پر دیکھا ہے۔“ یعنی اللہ کا جلوہ گزی گاڑھا یعنی **کھدر (+kknh) پہننے** ہوئے بندے کی شکل میں زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔

(۱۱) قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ ہوا اس مقصد سے عرض ہے کہ ”الجمعیت“ (روزنامہ) کے ”شیخ الاسلام نمبر“ کی زیر تبصرہ عبارت میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے لئے ”گزی گاڑھے میں ملفوف بندہ“ کا جو جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ بر محل اور مناسب ہے۔ یعنی ”کھدر پہننے والا

یعنی ٹانڈوی صاحب کی الوہیت کا علی الاعلان اور صاف لفظوں میں اقرار و اعتراف نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اشاروں اور کنایوں میں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب ٹانڈوی صاحب چاہے بشکل و صورت انسان ہمارے درمیان نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی انسان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جلوہ مولانا ٹانڈوی کی صورت میں روئے زمین پر انسانوں کے درمیان رونما ہوا تھا۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ مسلسل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کا ورد جاری رکھتے ہوئے انصاف فرمائیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام اور بالخصوص نبی کریم رؤف و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی مخالفت کرنے کے لئے بات بات میں توحید کا علم بلند کرنے والے اور اپنے آپ کو توحید کا سچا پرستار کہنے والے اور توحید خالص کے دعویدار کس بے رحمی سے توحید کے اصولوں پر چٹھری پھیر رہے ہیں۔ جناب ملیح آبادی صاحب اپنے پیشوا مولوی ٹانڈوی صاحب کو خدا کا جلوہ ثابت کرنے کے لئے کیسی گھوما پھرا کر بات کر رہے ہیں۔ محبت کا معاملہ بے پردہ سچائی، اشاروں کنایوں، وغیرہ کی بے تکلی اور بے ربط تمہید باندھنے کے بعد اب یہ لکھتے ہیں کہ ”کچھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو اس آتی ہیں۔“ یعنی محبت کا اظہار بند لفظوں میں، ڈھکے انداز اور چھپے ہوئے مطلب سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کہنا ہو اور جو مقصد ہو اسے صاف اور صریح طور پر کہنے کے بجائے ڈھکے انداز میں کہنا ہی مناسب ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جناب ٹانڈوی صاحب کو ”خدا کا جلوہ“ کہنے کے لئے بھی وہی انداز اور طرز اختیار کیا گیا ہے۔

(۹) عبارت کے اختتام میں توحید کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تک لکھ دیا کہ ”تو پھر خدا را بتاؤ! جن آنکھوں نے گزی گاڑھے میں ملفوف اس بندہ کو دیکھا ہے، وہ کیوں نہ کہیں ہم نے خود اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ اپنی سر زمین پر دیکھا ہے۔“ یعنی اب ملیح آبادی صاحب اپنی محبت ٹانڈوی کو بند بند، ڈھکے ڈھکے اور چھپے چھپے

بھی نہیں۔ لیکن جناب ٹانڈوی صاحب کو سیاست کا ایسا پگڑا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ مذہبی امور میں بھی جبراً سیاست کی آمیزش کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہتے کہ میت کے کفن کے لئے بھی کھڈر کا اصرار کر کے ایک نئی بدعت رائج کر رہے تھے۔

کھڈر پہننا جائز اور مباح ہے۔ لیکن فرض یا واجب تو ہرگز نہیں۔ کھڈر پہننے والا گنہگار نہیں۔ اسی طرح کھڈر نہ پہننے والا بھی گنہگار نہیں۔ کھڈر نہ پہننے والا شرعاً مستحق تعزیر اور لائق سزائش نہیں۔ کھڈر نہ پہننے والے پر شرعاً کوئی جرم عائد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا مواخذہ ہے۔ لیکن ٹانڈوی صاحب سیاسی لباس کھڈر کے ایسے دلدادہ تھے کہ میت کے کفن کے لئے بھی کھڈر کو ضروری سمجھتے تھے اور اگر کسی میت کا کفن کھڈر کا نہ ہوتا تو ٹانڈوی صاحب صرف ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ ”سخت ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔“ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ایسے کام کے لئے ناراضگی ظاہر کرنا مناسب اور مستحسن ہے لیکن جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں احکام شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، ایسے کام کے لئے ناراضگی بلکہ ”سخت ناراضگی“ ظاہر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی میت کا کفن کھڈر کا نہ ہونا، خلاف شریعت کام ہرگز نہیں، تو پھر اس پر کیوں سخت ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو کام ہمیں پسند ہے وہ کام دوسرے بھی پسند کریں؟ ٹانڈوی صاحب سیاسی آدمی تھے، لہذا کھڈر پر فریفتہ تھے، لیکن ان کی محبوب اور مرغوب ’کھڈر‘ کی وردی سے تمام لوگ محبت و رغبت رکھیں، حتیٰ کہ میت کا کفن بھی کھڈر کا ہو، ایسا اصرار کرنا تشدد اور زیادتی نہیں، تو اور کیا ہے؟ جناب ٹانڈوی صاحب نے کھڈر کا لباس مذہبی بناء پر نہیں اپنایا تھا بلکہ صرف اور صرف سیاست کی وجہ سے ہی اپنایا تھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب ٹانڈوی صاحب نے اپنے سیاسی ارتکاب کو مذہبی رنگ دینے کی نازیبا اور مذموم حرکت کر کے مذہب اور سیاست کا معجون مرکب بنانے کی ناموزوں کوشش کی تھی۔

ایک مزید حوالہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے:-

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجناب مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کو

بندہ“۔ جناب ٹانڈوی صاحب ایک نمبر کے سیاسی آدمی اور سیاسی پارٹی ”کانگریس“ کے خاص رکن تھے۔ جب بھی کوئی شخص سیاست کے دلدل میں کودتا ہے، تو اس کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ملبوسات صرف اور صرف کھڈر کے ہی ہوتے ہیں۔ خود کو ”دیس بھکت“ اور ”مصلوب گاندھوی“ میں شمار کرانے کے لئے وہ ہمیشہ کھڈر کا ہی لباس پہنتا ہے۔ جناب ٹانڈوی صاحب بھی سر سے پاؤں تک سیاست کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ لہذا انہوں نے بھی دائمی طور پر کھڈر کے کپڑے اختیار کر لیتے تھے۔ جناب ٹانڈوی صاحب ”کھڈر دھاری“ یکے سیاسی مٹا تھے۔

## ”ٹانڈوی صاحب کا ”کھڈر پریم“

سیاسی لیڈر ہونے کی وجہ سے ٹانڈوی صاحب یکے ”کھادی دھاری مٹا تھے۔ سیاست کی علامت ”کھڈر“ سے ایسا دلی تعلق اور قلبی انس تھا کہ زندگی بھر کھڈر پہنتے رہے بلکہ لوگوں کو بھی کھڈر پہننے کی تلقین کرتے تھے اور رغبت دلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا یہ اصرار تھا کہ میت کا کفن بھی کھڈر ہی کا ہو اور جس میت کا کفن کھڈر کا نہیں ہوتا تھا، اس پر سخت ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے تھے۔

◎ روزنامہ ”الجمعیت“ کے ”شیخ الاسلام نمبر“ کی ایک عبارت پیش خدمت ہے:-

”مولانا نے ایک جنازے کی نماز کے وقت سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ کفن کھڈر کا نہیں تھا۔“ (حوالہ:- ”الجمعیت“ ”شیخ الاسلام نمبر“، ص: ۲۵)

کفن کھڈر کا نہ ہونا یہ کوئی خلاف شریعت کام نہ تھا کہ جناب ٹانڈوی صاحب سخت ناراض ہو گئے۔ حالانکہ کھڈر کا کفن شرعاً ممنون بھی نہیں۔ سفید کپڑے کا کفن جو بیش بہا قیمت کا اور امیرانہ شان کا نہ ہو۔ ایسے کپڑے میں میت کو کفنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کفن کھڈر کا نہ ہو تو گناہ

”اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم نور میں رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی نور ہے۔ ان کے دائیں بھی نور ہے، ان کے بائیں نور ہے۔ ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ وہ خود نور ہو گئے ہیں۔“

(حوالہ:- روزنامہ ”الجمعیت“، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ ص: ۱۲)

جناب ٹانڈوی صاحب جب زندہ تھے تب اس سرزمین پر ”خدا کا جلوہ“ تھے اور جب مر گئے تو سیدھے عالم نور میں پہنچ گئے اور بالآخر خود سراپا نور ہو گئے۔ قارئین کرام انصاف فرمائیں کہ دورِ حاضر کے منافقین اپنے پیشوا کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اور ”پیراں نئی پرند میراں می پراندا“ یعنی پیر تو نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں یعنی جھوٹی تعریف کرتے ہیں والی مثل پر بھر پور عمل کرتے ہیں۔ اپنے پیشوا کی تعریف و توصیف کے وقت توحید کے خود ساختہ تمام اصول بھی یک لخت فراموش کر جاتے ہیں۔

اگر کوئی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کے اصول ملحوظ رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ اور آپ کی بے مثل و مثال نوری بشریت بیان کرتا ہے تو بھی دورِ حاضر کے منافقین کے ماتھے پر شکن پڑتے ہیں اور ناگواری کے آثار ان کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں اور فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ پیش کر کے اور اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ حسب ذیل توہین آمیز جملے ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔

◎ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”اولیاء و انبیاء و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے، نہ کہ اللہ کی طرح۔“

سیاسی لباس کھدّر سے ایسا لگاؤ تھا کہ زندگی بھر انہوں نے کھدّر کا لباس پہنا اور کھدّر کا ہی ہمیشہ استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ان کو کھدّر میں ہی کفن کر دینا یا گیا۔ ”آپ نے زندگی بھر کھدّر پہنا، کھدّر رہی کا استعمال کیا اور مرنے کے بعد بھی کھدّر رہی کا کفن آپ کے حصہ میں آیا۔“

(حوالہ:- روزنامہ ”الجمعیت“، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“، مورخہ

۱۵ فروری، ۱۹۵۸ء سنیچر، ص ۱۱۶)

بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ ہمارے موضوع سخن دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب ٹانڈوی صاحب کو ان کے عاشق زار اور دیوبندی مکتبہ فکر کے ذمہ دار اور نامور مولوی و مصنف جناب یحییٰ آبادی نے ”خدا کا جلوہ“ اور ”مجازی خدا“ کا منصب عطا کرنے کے لئے توحید کے تمام اصولوں کا گلا گھونٹ کر خراج عقیدت پیش کرنے میں حد درجہ کا غلو اور مبالغہ کیا ہے۔ لگے ہاتھ ایک مزید حوالہ ٹولیں:-

ٹانڈوی صاحب عالم نور میں رہتے ہیں اور خود بھی نور ہو گئے ہیں؟

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور مرکٹی میں مل گئے کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب اپنے پیشوا کی اندھی عقیدت و محبت میں بہک کر اپنے پیشوا کی تعریف کے پُل باندھتے ہوئے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ اوراق سابقہ میں مولوی عبدالرزاق یحییٰ آبادی کے مضمون کی ایک عبارت پیش کی گئی ہے۔ جس میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے متعلق بڑی دلیری اور جرأت سے صاف صاف لکھ دیا کہ جناب ٹانڈوی صاحب اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر کھدّر کے لباس میں ملفوف ہو کر شکل سیاسی مولوی حسین احمد ٹانڈوی لوگوں کے درمیان آ بسا ہے۔ (معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ)

جناب ٹانڈوی صاحب کا مندرجہ بالا رتبہ و مرتبہ تو ان کی حیات میں تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد اب وہ کس درجہ و رتبہ پر فائز ہیں، وہ دیکھیں:-

کہتا ہے۔“ (حوالہ:- ”براہین القاطعہ علی ظلام الانوار الساطعہ“ مصنف:- مولوی خلیل احمد انبٹوی، مصدقہ:- مولوی رشید احمد گنگوہی، ناشر:- کتب خانہ امدادیہ، دیوبند، ص: ۲)

مندرجہ بالا عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی آدم یعنی انسانوں سے مماثل یعنی عام انسانوں کی مانند اور مثل ہونے کے لئے قرآن مجید کی آیت مقدسہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ ہی بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اور مندرجہ بالا عبارت میں آیت کے ترجمہ کی طرف قارئین کرام توجہ فرمائیں گے تو ایک خیانت سامنے آئے گی مولوی خلیل احمد صاحب انبٹوی نے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔“ اس ترجمہ میں جناب انبٹوی صاحب نے ”تمہارے جیسا“ کے بجائے ”تمہارے ہی جیسا“ کا جملہ لکھا ہے۔ اس جملہ میں لفظ ”ہی“ کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ لفظ ”ہی“ تخصیص و تاکید کا حرف ہے۔ (دیکھو:- فیروز اللغات، ص: ۱۳۵۹) یعنی تمہارے جیسا کے بدلے ”تمہارے ہی جیسا“ کا جملہ لکھ کر بات کو موکد کیا گیا ہے یعنی معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ”جملہ بنی آدم“ یعنی تمام انسانوں کی طرح بشریت کے معاملہ میں مماثل یعنی ہمسر ہونے میں کسی قسم کا شک و تردید نہیں۔ جیسا کہ اوراق سابقہ میں ہم نے عرض کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت کو عام انسانوں کی بشریت کی طرح ثابت کرنے کے لئے منافقین زمانہ قرآن مجید کی مقدس آیت ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ ہی پیش کر کے اس آیت سے غلط استدلال کرنے کی حرکت مذموم کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی طرز اور طریقہ اپنایا گیا ہے۔ جناب انبٹوی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد یہاں تک لکھ مارا ہے کہ ”پس اگر کسی نے بوجہ آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کہہ دیا۔“ (نوٹ:- ہم نے اصل کتاب سے حرف بحرف عبارت نقل کی ہے۔ اصل کتاب میں ”بوجہ آدم ہونے کے“ چھپا ہوا ہے۔ حالانکہ ”بوجہ بنی آدم ہونے کے“ ہونا چاہئے۔ شاید طباعت کی غلطی سے ”بنی آدم“ کے بجائے ”آدم“ چھپ گیا ہے۔ یعنی مولوی خلیل احمد انبٹوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

(حوالہ:- ”تقویۃ الایمان“ مصنف: مولوی اسمعیل دہلوی، ناشر: دارالسلفیہ، ممبئی، صفحہ نمبر: ۹۹) تقویۃ الایمان کی مندرجہ بالا عبارت میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں کو عاجز بندے اور عام انسانوں کی مانند شمار کر کے صرف اتنی ہی اہمیت دی کہ وہ ہمارے ”بڑے بھائی“ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی جتنی ہی اہمیت دو۔ اور بڑے بھائی جتنی ہی تعظیم کرو۔ جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ انبیاء کرام کی تعظیم اپنے باپ کی تعظیم سے کم کرو۔ کیونکہ بڑا بھائی چاہے کتنا بھی معظّم و کرم ہو، باپ کے درجہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ بلاشبہ! بڑے بھائی کا مرتبہ بڑا ہے لیکن اس کا مرتبہ باپ کے مرتبہ سے کم ہے۔ بڑا بھائی بمقابل باپ کے درجہ میں کم ہی ہوتا ہے۔ الحاصل! تقویۃ الایمان کے گستاخ مصنف اور امام المنافقین نے انبیاء کرام کی تعظیم کو بڑے بھائی کی تعظیم تک محدود کر دیا ہے اور انبیاء کرام کی تعظیم کا درجہ باپ کی تعظیم سے کم بتایا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جذبہ اور عشق صادق کے ولولہ میں بارگاہ رسالت میں اس طرح عرض کرتے تھے کہ ”فَدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ يٰاَسْوَءَ سَوْءٍ“ یعنی ”یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان“۔ صحابہ کرام تو اپنے ماں باپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ سکھائیں اور دور حاضر کے منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اپنے باپ جتنی کرنے سے روکتے ہیں اور یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان اور عاجز بندے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں لہذا ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی ہی کرو۔ ناظرین کرام انصاف کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمانی جذبہ کی بولی کے مقابل دور حاضر کے منافقین کی بولی کیسی ہے؟ ایمانی ہے یا کفری؟

○ منافقین زمانہ کی دیگر کتاب کا ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرمایا ہے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (ترجمہ) ”کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔“..... پس اگر کسی نے بوجہ آدم ہونے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کہہ دیا۔ وہ تو خود نص کے موافق ہی



الْكِتَابِ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ ط فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ“ (پارہ: ۳، سورہ ال عمران، آیت: ۷) ترجمہ: ”وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، مگر اہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈھنے کو۔“ (کنز الایمان)

اس ارشاد بانی کے مطابق دورِ حاضر کے منافقین بھی آیاتِ متشابہات کو بطور دلیل پیش کر کے اور آیاتِ متشابہات کے من چاہے معنی اور تاویل کر کے گمراہی کا پہلو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب ”براہین قاطعہ“ کی زیر تبصرہ عبارت میں طریقہ اپنایا گیا ہے۔ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت پیش کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”نفس بشریت“ میں جملہ بنی آدم یعنی تمام انسانوں کے برابر کہا۔ پھر انسان انسان آپس میں بھائی بھائی والا غیر معقول و نامناسب نظریہ کے تحت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے ناطے بھائی کہا۔ پھر جرأت اتنی بڑھی کہ یہاں تک لکھ دیا کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہا اس نے قرآن کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق کہا ہے۔ بات کہاں کی کہاں پہونچادی؟ نفس بشریت کی منطق چھانٹ کر حضور اقدس کو پہلے عام انسانوں کی طرح بشر کہا پھر ”بھائی“ کہہ دیا۔ اور حضور کو بھائی کہنا قرآن کے ارشاد کے موافق لکھ دیا۔ ان منافقوں سے ہم صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی کون سی آیت ہے، جس کا صاف اور صریح مطلب ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہو۔

صرف ایک آیت کریمہ کہ جو آیاتِ متشابہات سے ہے یعنی ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سے غلط استدلال کر کے پہلے حضور اقدس کو بشر کہا، پھر بھائی کہہ دیا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا ہرگز روا نہیں۔ اگر ایمان کی نظر سے اس آیت کو سمجھا جائے تو اس آیت سے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت ثابت ہوتی ہے لیکن دورِ حاضر کے منافقین کو نبی کا بھائی

علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہا تو اس نے ہرگز نص کے خلاف نہیں کیا ”نص“ یعنی قرآن پاک کی وہ آیتیں جو صاف اور صریح ہوں۔ (دیکھو:۔ فیروز اللغات، ص: ۱۳۶۱) جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہنا قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے انبٹوی صاحب نے لکھا ہے کہ ”وہ تو خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔“ یہاں بھی ”ہی“ کا حرف تاکید استعمال کر کے بات کو وزن دار اور مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہنا قرآن سے ثابت ہے اور جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہتا ہے وہ ہرگز قرآن کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ موافقت کرتا ہے۔

ہمارے محترم اور معزز قارئین کرام کی عدالت میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض ہے کہ ”براہین قاطعہ“ کے مصنف جناب انبٹوی صاحب کیسے فریبانہ انداز میں موٹر موڑ کر اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ عبارت کی ابتداء میں ”نفس بشریت“ یعنی انسان ہونے کی حقیقت کی منطق چھانٹی ہے۔ بعد ”جملہ بنی آدم“ یعنی تمام انسانوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس بشریت میں برابر کہا۔ ایک نکتہ یہاں قابل توجہ اور غور ہے کہ انبٹوی صاحب نے جملہ بنی آدم سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس بشریت میں مماشٹھرایا ہے اور جملہ بنی آدم میں تمام انسان آگئے۔ چاہے مشرک ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، دہریا ہو، یہودی ہو، نصاریٰ ہو، چاہے مومن ہو۔ جملہ بنی آدم ان تمام اقسام کو محیط ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مشرک ہو یا کافر یا اور کوئی باطل مذہب کا تابع ہو، نفس بشریت میں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مانند و مثل ہے۔ اور اپنی اس ناموزوں بات کو موزوں ثابت کرنے کے لئے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت قرآن پیش کی ہے۔ حالانکہ اوراق سابقہ میں اس آیت مقدسہ کی تفصیلی وضاحت ہم قرآن و حدیث و نیز کتب تفاسیر و کتب ائمہ دین سے پیش کر چکے ہیں۔ جن کا اعادہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ آیت کریمہ آیتِ متشابہات میں سے ہے اور قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہی لوگ آیاتِ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جس کا تفصیلی بیان ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

(حوالہ:- ”الجمعیت“ روزنامہ، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ مورخہ:- ۲۵/رجب المرجب، ۷/۱۳ھ مطابق ۱۵/فروری ۱۹۵۸ء سنیچر، صفحہ نمبر: ۶۷) دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجنہانی مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب کی تعریف و توصیف میں مندرجہ بالا عبارت میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ:-

”آپ کے فضائل علمیہ اور کمالات باطنیہ کی صحیح اطلاع یا تو خداوند قدوس کو ہو سکتی ہے یا اُن اولیاء کرام اور علمائے ربانین کو ہو سکتی ہے۔ جن کو مبداء فیاض نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔“ یعنی ٹانڈوی صاحب میں ایسے ایسے علمی اور روحانی فضائل و کمالات تھے کہ اس کی صحیح معلومات یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، یا اولیاء کرام کو ہے یا ان عالموں کو ہے جو علم الہی جانتے ہیں اور جن کے پاس چشم بصیرت یعنی دل کی آنکھ ہے۔ ذرا انصاف کرو! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ تو ان منافقوں نے ناپ کر طے کر لیا کہ ہمارے جیسے بشر اور ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ لیکن اپنے پیشوا کے متعلق یہ اعتقاد کہ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ، اولیاء کرام اور علمائے ربانین کو ہی معلوم ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ”ہم جیسے کو چشم آپ کی ذات قدسی صفات کو کیا پہچان سکتے ہیں“ یعنی ہمارے جیسا کو چشم یعنی اندھا ٹانڈوی صاحب کی قدسی صفات والی ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ٹانڈوی صاحب کے فضائل و درجات و کمالات کا اندازہ لگانا ہم جیسوں کے لئے ناممکن ہے۔ ٹانڈوی صاحب مراتب و درجات کی اتنی بلند منزل میں ہیں کہ وہاں تک ہم جیسوں کی سوچ و فکر کی رسائی نہیں۔ ان کے اعلیٰ مراتب و درجات کی منزل رفیع کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ بلکہ دیکھنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ ان کو ان کے درجات و کمالات کے اعتبار سے دیکھنے کے معاملہ میں تو ہم اندھے ہی ثابت ہوں گے۔ ذرا پھر ایک مرتبہ انصاف کرو! درحاضر کے منافقین کی تبلیغی ٹولی کا جاہل سے جاہل بلکہ اجہل اور کور باطن و کور دل مبلغ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات و مراتب کی صحیح اطلاع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر اور بھائی کہتا ہے لیکن اپنے پیشوا کے درجات و کمالات کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان کے درجات و کمالات کی اطلاع حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

بننے کا ایسا چمکا لگا ہے کہ جس آیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت عیاں و بیاں ہو رہی ہے، اسی آیت سے غلط استدلال کر کے بلکہ کھینچ تان کر اور گھسیٹ گھساٹ کر غلط معنی و مفہوم اخذ کر کے حضور اقدس کو ”بشر“ اور ”بھائی“ کے ہی درجہ اسفل میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مولوی خلیل احمد انٹوی صاحب کی رسوائے زمانہ کتاب ”براہین قاطعہ“ کی زیر بحث مذکورہ بالا عبارت دراصل امام المنافقین، ملا اسماعیل دہلوی کی مہلک ایمان کتاب ”تقویۃ الایمان“ کی اُس عبارت کی تائید و توثیق میں کہی ہے جس عبارت میں تمام انبیاء و اولیاء کو عام انسان، عاجز بندے اور بڑے بھائی کہا گیا ہے۔

مختصر یہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عظمت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو دورِ حاضر کے منافقین قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے من مانے تراجم اور من چاہی توضیح کر کے حضور اقدس کے مراتب عالیہ کی پیمائش کرتے ہیں اور گویا کہ انہوں نے حضور اقدس کے مراتب و درجات کو یقینی طور پر ناپ تول لیا ہوا اور حضور اقدس کے رتبہ عالی کی کہاں تک حد ہے؟ وہ ظاہر کرتے ہیں اور حضور اقدس کے درجات و مراتب کی حد بندی کرتے ہیں بلکہ ایک متعین حد مقرر کرتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح بشر تھے، ان کی بڑائی صرف اتنی ہی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ لیکن جب ان کے پیشوا کا معاملہ ہوتا ہے تو پیمائش کے تمام آلات توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پیشوا کے لئے ایسے کلمات مدح و ثنا راقم کرتے ہیں، جن کلمات کا استعمال حضور اقدس کی تعریف و توصیف میں ان کے اعتقاد میں ناروا اور شرک ہے۔

◎ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”آپ کا قلب حامل شریعت اور آپ کا عمل تفسیر شریعت تھا۔ آپ کے فضائل علمیہ اور کمالات باطنیہ کی صحیح اطلاع یا تو خداوند قدوس کو ہو سکتی ہے یا اُن اولیاء کرام اور علماء ربانین کو ہو سکتی ہے۔ جن کو مبداء فیاض نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔ ہم جیسے کو چشم آپ کی ذات قدسی صفات کو کیا پہچان سکتے ہیں۔“

## ”دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی نے گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہِ طور سے تشبیہ دے کر ”آرِنِی“ یعنی تیرا جلوہ دکھایا کارا“

وہابی تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کے پیر و مرشد آنجناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے انتقال پر تبلیغی جماعت کے حکیم الامت اور مُسَلَّم پیشوا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی کہ جن کو تبلیغی جماعت کے تبعین بڑے فخر سے ”شیخ الہند“ کہتے ہیں، انہوں نے گنگوہی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مرثیہ مرتب کیا۔ وہ فیصدہ گنگوہی اور مرثیہ گنگوہی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اسی ”مرثیہ گنگوہی“ کا ایک شعر پیش خدمت ہے:-

تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہو ہوں بار بار ”آرِنِی“ میری دیکھی بھی نادانی
حوالہ:- مرثیہ گنگوہی، مرتبہ:- مولوی محمود الحسن دیوبندی، ناشر:- کتب خانہ اعزازیہ، دیوبند، صفحہ: ۱۲)

مذکورہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اپنے آنجناب پیشوا جناب گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے گنگوہی جی! تمہاری تربت انور یعنی نہایت نورانی قبر کو طور سے یعنی کوہ سینا یعنی کوہ طور یعنی ملک شام کا وہ مشہور پہاڑ جس پر خدائے

”شیخ الاسلام نمبر“ کی مندرجہ بالا عبارت کے ضمن میں کافی طویل تنقیدی تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن طوالت مضمون کے خوف سے اختصاراً یہاں تک جو کچھ عرض کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صرف یہی کہنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف میں محبت کے جذبہ صادقہ کے تحت کہے جانے والے کلمات تحسین پر دور حاضر کے منافقین بڑے زور سے چیخ و مچا دیتے ہیں۔ اور توحید کا جھنڈا بلند کر کے شرک کے خطرہ کی گھنٹی بجاتے ہیں لیکن جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب توحید کا جھنڈا سمیٹ کر اور توحید کے تمام خود ساختہ اصولوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ایسے ”هُمَّ بُكْمُ عُمَى“ یعنی بہرے گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ شرک کے خطرہ کی گھنٹی تو کیا گھنٹا بھی سنائی نہیں دیتا۔ لگے ہاتھ دور حاضرہ کے منافقین کی اپنی پیشوا کی اندھی عقیدت اور مخور محبت کی لڑکھٹاہٹ دیکھیں۔

ترجمہ:- ”اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا۔ عرض کی اے رب میرے، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔“ (کنز الایمان)

المختصر! حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے طور کے پہاڑ پر خدائے تعالیٰ کے دیدار کی آرزو میں ”آرِنِی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہا۔ جس کا تجزیہ حسب ذیل ہے:-

- ☆ مقام:----- کوہ سینا یعنی ملک شام کا مشہور پہاڑ کوہ طور
- ☆ کیا کہا؟:---- ”آرِنِی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔
- ☆ کس نے کہا؟:-- حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔
- ☆ کس سے کہا؟:-- اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔

اب آئیے! دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنے پیشوا جناب گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے جو شعر کہا ہے وہ پھر ایک مرتبہ دیکھیں:

تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ  
کہو ہوں بار بار ارنی، میری دیکھی بھی نادانی

اس شعر میں جناب دیوبندی صاحب نے قرآن مجید میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی واقعہ کا پھر ایک مرتبہ تخلیقی اعادہ کرتے ہوئے گنگوہی صاحب کی قبر کو ”کوہ طور“ سے تشبیہ دیتے ہوئے، مولوی محمود حسن دیوبندی بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ”آرِنِی“ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ سے ”آرِنِی“ کہا تھا جبکہ محمود حسن صاحب تو گنگوہی جی سے کہہ رہے ہیں۔ جس کا تجزیہ حسب ذیل ہے۔

- ☆ مقام:----- مولوی رشید احمد گنگوہی کی قبر بمقام گنگوہ (یو، پی)
- ☆ کیا کہا؟:---- ”آرِنِی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔
- ☆ کس نے کہا؟:-- مولوی محمود الحسن دیوبندی، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے۔

تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، اس پہاڑ سے تشبیہ دے کر ”آرِنِی“ یعنی ”مجھ کو تیرا جلوہ دکھا“ کہہ رہا ہوں، اور ”ارنی“ کہنے میں میری نادانی عیاں ہو رہی ہے۔“

اس شعر پر تبصرہ کرنے سے پہلے ”آرِنِی“ کے تعلق سے قرآن مجید کے ایک مشہور واقعہ کی جانب التفات کریں:-

”حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ کوہ سینا (کوہ طور) پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے طور کے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر چار فرسنگ کے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لئے آسمان کھول دیا گیا۔ آپ نے ملائکہ (فرشتوں) کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا۔ یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کریم کلام سنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلام ربانی کی لذت سے اس قدر لطف اندوز اور بہرہ مند ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو ہوئی اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ”آرِنِی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔

(تفسیر خازن اور تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰۱)

مندرجہ واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے کہ:-

”وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ“ (پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۴۳)

وسالام کی طرح ”اَرِنِ“..... ”اَرِنِ“..... ”اَرِنِ“..... پکار رہا ہوں، یہ میری نادانی ہے۔ لفظ ”نادانی“ کے معنی لغت میں جہالت، بے وقوفی، ناسمجھی، وغیرہ وارد ہیں۔ (دیکھو:۔ فیروز اللغات، ص: ۱۳۳۶)۔ لہذا شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جہالت، بے وقوفی اور ناسمجھی کے عالم میں جناب گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہ طور سمجھ کر اور جناب گنگوہی صاحب کو خدا اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ تصور کر کے ”اَرِنِ“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہا ہے۔ یعنی جناب محمود حسن صاحب دیوبندی اپنے خلاف تو حید ارتکاب پر کسی قسم کا مواخذہ اور گرفت نہ ہونے کے لئے ”اپنی نادانی“ کا بہانہ بطور سپر پیش کر کے اپنا دفاع کرنے کا مکر و فریب کر رہے ہیں۔

ایک بات خاص طور سے قابل غور و توجہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہوتا ہے، تب دور حاضرہ کے منافقین ضرورت سے زیادہ دانا، سیانا، ہوشیار، اور سمجھ دار بنتے ہوئے توہین و تنقیص رسالت کی غرض فاسدہ سے آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ کے دلائل اپنے اعتقاد کی تائید و موافقت میں ثابت کرنے کے لیے غلط ترجمہ، من گھڑت تفاسیر، من چاہے مطالب، دروغ گوئی اور کذب بیانی کا آسرا لیتے ہیں لیکن اپنے مقتداء و پیشوا کی خلاف تو حید اور غلو و مبالغہ پر مشتمل تعریف کرتے وقت قرآن و حدیث کے دلائل کے بجائے ”دیوانہ“ اور ”نادان“ بن کر بھی نہ کہنے کا سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اوراق سابقہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور سیاسی ملا جناب حسین احمد ٹانڈوی صاحب کو ”خدا کا جلوہ“ اور ”کھد ر پوش مجازی خدا“ ثابت کرنے کے لیے مولوی عبدالرزاق بلّیح آبادی صاحب نے اپنی خلاف تو حید بات کو مناسب ٹھہرانے کے لیے ”محبت کا معاملہ ہے“ کا بہانہ پیش کر دیا اور یہاں جناب گنگوہی صاحب کو ”اَرِنِ“ کہہ کر پکارنے کو مناسب ٹھہرانے کے لئے مولوی محمود الحسن دیوبندی اپنی ”نادانی“ کا عذر آگے دھرتے ہیں۔ ایسے دیوانوں اور نادانوں نے بی شمار لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اپنے پیشواؤں کی اندھی عقیدت میں ”دیوانہ“ اور ”نادان“ بن کر اپنی خود ساختہ تو حید کے پردے کو بھی تارتا رکڑا لا ہے۔

○ ایک اہم نکتہ کی طرف بھی معزز قارئین کرام کی توجہات مرکوز کرنا ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب مولوی محمود الحسن دیوبندی کا مرتب کردہ

☆ کس سے کہا؟:۔۔۔ آنجہانی مولوی رشید احمد گنگوہی سے۔

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صرف ایک مرتبہ ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ”اَرِنِ“ عرض کیا تھا مگر دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی تو بار بار یعنی کئی مرتبہ اپنے پیشوا گنگوہی جی کی جناب میں ”اَرِنِ“ کہہ رہے ہیں۔ شعر کے الفاظ ”کہو ہوں بار بار اَرِنِ“ اس پر دلالت کرتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام اور مرسلین عظام اور بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ میں توہین و تنقیص کرنے کے لئے تو حید..... اور تو حید کی رٹ لگانے والے دور حاضر کے منافقین کے گروہ کے پیشوا اور شیخ الحدیث اپنے مقتدا گنگوہی صاحب کی اندھی عقیدت میں تو حید کے اصولوں کے گلے پر کس بے دردی سے پھڑکی پھیر رہے ہیں۔

جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم کا معاملہ سامنے آتا ہے تو منافقین زمانہ فوراً تقویت الایمان کی بولی بولتے ہیں کہ ”ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے“ (دیکھو:۔ تقویت الایمان، ص: ۹۹) اور مزید برآں قرآن مجید کی مقدس آیت ”قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بھی بطور دلیل پیش کریں گے۔ لیکن جب اپنے گروہ کے سیاسی ملا اور دیگر پیشواؤں کا معاملہ آئے گا تو تمام دلیلیں اور اصول نَسِيًا مَنَسِيًا کر جائیں گے۔

مرثیہ گنگوہی کے زیر بحث شعر میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی کی دلیری اور بیباکی ملاحظہ ہو کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان راز و نیاز کا جو معاملہ ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلام ربانی سے محظوظ ہو کر دیدار الہی کی آرزو اور تمنا میں اپنے رب سے ”اَرِنِ“ عرض کیا تھا۔ اسی واقعہ کا اعادہ خیالی جناب گنگوہی صاحب کی ”سماہی“ پر کر رہے ہیں۔ اور تو حید کے اصولوں کی برسر عام دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اپنی سراسر خلاف تو حید اس مذموم حرکت کو مناسب ثابت کرنے کے لئے شعر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ”میری دیکھی بھی نادانی“ یعنی میں جناب گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہ طور سے تشبیہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ

تقویت الایمان کی مندرجہ بالا عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کو دُور یا نزدیک سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ دُور سے اور نزدیک سے وہ برابر سن لیتے ہیں، شرک ہے۔ یعنی کسی بزرگ کو کہ جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ دُور سے پکارنا یا نزدیک سے پکارو، ہر حال میں شرک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنے پیشوا گنگوہی صاحب کو اپنے مرثیہ گنگوہی میں ”اَرِنْسِي“ کہہ کر پکارا ہے۔ ان کا یہ پکارنا چاہے دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں بیٹھ کر یعنی دُور سے ہو یا چاہے بمقام گنگوہ گنگوہی جی کی ”سہادی“ پر حاضر ہو کر انہوں نے گنگوہی صاحب کو ”اَرِنْسِي“ کہہ کر پکارا ہو۔ امام المنافقین مولوی اسمعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تقویت الایمان“ کے فتوے کی رو سے کسی کو دُور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو کام انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ کرنا دور حاضر کے منافقین کے اعتقاد میں شرک، ناجائز اور حرام ہیں، وہی کام انہوں نے اپنے پیشواؤں کے حق میں جائز قرار دے کر اور اپنے پیشواؤں کی طرفداری کر کے کھلم کھلا ”سیاں بھیسے کو تو ال، اب ڈر کا ہے کا“ والی مثل پر عمل کر کے اپنے متضاد رویہ سے قوم و ملت کی رہبری کر رہے ہیں یا رہنمائی کر رہے ہیں؟

## خدائے تعالیٰ سے بڑھ کر تھانوی صاحب کا ڈر؟

اس عنوان کی سرخی دیکھ کر ہمارے معزز قارئین کرام شاید حیرت و تعجب سے چونک اٹھے ہوں گے۔ لیکن بھگوان اللہ تعالیٰ ہم نے پوری کتاب میں کامل دیانتداری سے کام لیتے ہوئے غیر جانبدارانہ روئے اختیار کیا ہے۔ الزام تراشی اور افترا پردازی سے پرے ہو کر ہم نے دلائل و شواہد کے دائرہ میں رہ کر، بہت ہی احتیاط سے اصل کتاب سے حوالہ نقل کیا ہے۔

وہابی تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ ”الْفَصْلُ لِلَّوْ صُلِّ“ مؤلفہ:- مولوی ابرار الحق، ناشر:- مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون، یوپی، جز اول، ص: ۹ کی ایک عبارت ذیل میں پیش ہے۔

”مرثیہ گنگوہی“ ۱۳۲۳ھ میں جناب گنگوہی صاحب کی موت واقع ہونے کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ اور گنگوہی صاحب کے انتقال کے بعد مرثیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ”تمہاری تربت انور کو“ یعنی گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے گنگوہی جی! تمہاری محبت میں میں ایسا نادان ہو گیا ہوں کہ تمہاری قبر کو طور کے پہاڑ سے تشبیہ دے کر ”اَرِنْسِي“ کہہ کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا دیدار کراؤ، اور تم کو ”اَرِنْسِي“ کہہ کر پکارنے میں میری جو دیوانگی اور نادانی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو تم نے دیکھا؟ مرثیہ کے اس شعر میں گنگوہی صاحب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو کیا انتقال کے بعد بھی اپنے ایک اندھے عاشق اور احمق دیوانہ کے دلی جذبات کی پکار سننے کا گنگوہی صاحب کو تصرف ہے؟ کیا گنگوہی صاحب کو اپنی تاریک اور اندھیری قبر کی چار دیواری میں محبوس ہونے کے باوجود مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی کا ”اَرِنْسِي“ سننے کا اختیار ہے اور کون ”اَرِنْسِي“ کہہ رہا ہے وہ جان لینے کا علم رکھتے ہیں؟ حالانکہ دور حاضر کے منافقین کے اعتقاد میں انبیاء کرام کو پکارنا شرک ہے۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں۔“

حوالہ:- تقویت الایمان،

از:- مولوی اسمعیل دہلوی،

ناشر:- دارالسنن، بمبئی، تاریخ اشاعت، اپریل ۱۹۹۷ء، ص: نمبر ۴۲

مولوی فقیر محمد صاحب نے دوران سفر موقع پا کر اپنے چند اشکال تھانوی صاحب کے سامنے پیش کئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ:-

”میں خدا سے بھی زیادہ آپ کا ڈر محسوس کرتا ہوں۔ اگر خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اتنا ڈر و خوف نہیں ہوتا، جتنا ڈر اور خوف آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنے پر ہوتا ہے۔ آپ کے خوف کا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف مجھ سے کوئی کام ہو جاتا ہے، تب اتنا خوف لاحق ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تب اتنا ڈر نہیں لگتا۔ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟“

مولوی فقیر محمد صاحب کے مندرجہ بالا معروضہ پر لگتا ہے کہ تھانوی صاحب پھولے نہیں سمائے ہوں گے۔ تیرے صدقے جاؤں! تیرے منہ میں گھی شکر! کیا عجیب بات سنائی۔ واہ! واہ! تمہاری محبت و عقیدت قابلِ داد ہے! ارے! کیا کہا؟ خدا سے بھی زیادہ مجھ سے ڈرتے ہو؟ میرے مزاج کے خلاف کسی کام کے ارتکاب پر خوف و ندامت سے زندہ درگور ہو جانے کی خواہش کرتے ہو؟ اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی پر کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہو؟ شاباش! کیا خوب کہی۔ اس احساس پر ڈر گئے ہو کہ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے گھبراتے کیوں ہو۔ ہمارا جواب سنو!

مولوی فقیر محمد صاحب کو تھانوی صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ:-

”الجواب :- نہیں! کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی ہے اور حاضر کا طبعی اور تفاوتِ خاصیتوں کا ہے۔“ یعنی تم کو خدا سے زیادہ میرا ڈر محسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ احساس غیر اختیاری ہے یعنی تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی یعنی عقل سے منسوب ہے اور حاضر کا خوف طبعی یعنی طبیعت سے منسوب ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا غائب ہے لہذا اس کا خوف کم محسوس ہوتا ہے اور میں حاضر ہوں لہذا میرا

”تیسری حالت یہ ہے کہ حضرت والا کا خوف اتنا ہے کہ گویا حق تعالیٰ کا خوف اتنا اپنے اندر نہیں پاتا۔ اگر حضرت والا کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جاوے، تو اتنی خشیت ہوتی ہے کہ زمین پھٹ جاوے اور اس میں سما جاؤں اور امر حق کی مخالفت سے اتنا خوف نہیں ہوتا۔ اس سے ڈرتا ہوں کہ گناہ تو نہیں؟“

**جواب :-** نہیں۔ کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی ہے اور حاضر کا طبعی اور تفاوتِ خاصیتوں کا ہے۔“

مندرجہ بالا عبارت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس کا پس منظر ملاحظہ ہو:-

”مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے انتقال سے پانچ سال پہلے یعنی ۱۳۵ھ میں لاہور کا سفر کیا تھا۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ۲۹ صفر المظفر ۱۳۵ھ بمطابق ۳۰ اپریل ۱۹۳۸ء بروز سنہ پیر اپنے گاؤں تھانہ بھون (ضلع مظفرنگر، یو، پی) سے بذریعہ ٹرین لاہور جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ تھانہ بھون سے لاہور بذریعہ ٹرین (ریل) جانے کے لئے براہ (via) سہارنپور اور امرتسر ہی جانا پڑتا تھا۔ تھانوی صاحب نے اپنے لاہور کے سفر کی اطلاع اپنے متعلقین و محبین کو پہلے ہی سے بذریعہ خط دے رکھی تھی لہذا جب تھانوی صاحب کی ٹرین امرتسر ریلوے اسٹیشن پہنچی، تو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر تھانوی صاحب کے ”مرید خاص“ مولوی فقیر محمد صاحب امرتسر موجود تھے۔ مولوی فقیر محمد صاحب کو کچھ ذہنی الجھنیں اور قلبی اشکال گھیرے ہوئے تھے اور ان کو طرح طرح کے وسوسے آیا کرتے تھے۔ لہذا انھوں نے اپنے وسوسوں اور اشکال کا حل حاصل کرنے کی غرض سے تھانوی صاحب کے ساتھ لاہور کا سفر کرنے کا طے کیا تھا تا کہ اثنائے راہ ٹرین میں اور دوران سفر وہ موقع پا کر تھانوی صاحب کو اپنی الجھنیں سنا کر اس کا شافی حل حاصل کر سکیں۔

الغرض! مولوی فقیر محمد صاحب امرتسر سے تھانوی صاحب کے ہمسفر بنے اور لاہور تک کا سفر کیا۔ اس سفر کی تفصیل مولوی ابرار الحق نے تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ”الفصل للوصل“ کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۱ تا ۱۸۱ میں ارقام کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۹ کی عبارت ہم نے یہاں حرف بحرف نقل کی ہے۔

یعنی موجود ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدّس کلام قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں:-

☆ آیت نمبر ۱:- "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"

(پارہ: ۵، سورة النساء، آیت: ۳۳)

ترجمہ:- "بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۲:- "هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَّا كَانُوا"

(پارہ: ۲۸، سورة المجادلة، آیت: ۷)

ترجمہ:- "وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۳:- "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"

(پارہ: ۲، سورة البقرہ، آیت: ۱۸۶)

ترجمہ:- "اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۴ اور ۵:- "وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"

(۱) پارہ: ۲۸، سورة المجادلة، آیت: ۶

(۲) پارہ: ۳۰، سورة البروج، آیت: ۹

ترجمہ:- "اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۶:- "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوْسُ بِهِ

نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"

(پارہ: ۲۶، سورة ق، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- "اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو دوسوسہ اس کا نفس

ڈالتا ہے۔ اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔"

(کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۷:- "إِنَّ رَبَّكَ لَبِا لِمُرْصَادٍ"

(پارہ: ۳۰، سورة النجر، آیت: ۱۴)

خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور خدا تمہارے سامنے سے غائب ہے لہذا تمہیں خدا سے زیادہ میرا خوف محسوس ہوتا ہے۔

قارئین کرام! انصاف فرمائیں! تھانوی صاحب اپنی اہمیت جتانے کے لئے خدا کے خوف سے اپنے خوف کے احساس کو مناسب قرار دینے کے لئے "غائب" اور "حاضر" کی بے تکی منطق بگھار رہے ہیں۔ اس وقت انبیاء کرام کی عظمت و اہمیت کا معاملہ نہیں، اس وقت ملت اسلامیہ کے کروڑوں صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اعتقاد کا معاملہ نہیں بلکہ خود اپنی اہمیت و شان جتانے کا معاملہ ہے۔ اپنے عاشق زار اور عقیدت میں اندھے خاص الخاص مرید کے اعتقاد کا معاملہ ہے، لہذا شرک، ناجائز اور حرام کا فتویٰ دینا تو درکنار بلکہ اپنے مرید کے خلاف توحید تصور رات و تخیلاتِ فاسدہ کو مناسب ٹھہرانے کی سعیِ بلیغ کی جا رہی ہے۔ اپنے مرید کے خیالاتِ فاسدہ کا دفاع کرنے کے لئے معاذ اللہ خدا کو "غائب" اور خود کو "حاضر" سے معنون کیا۔

اگر تھانوی صاحب میں غیرتِ ایمانی کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہوتا، تو ایسے خلاف توحید خیالات پر تامل اٹھتے کیونکہ سوال پوچھنے والا کوئی دیہاتی جاہل نہ تھا کہ جس کو اچھے بُرے کی تمیز نہ ہو۔ بلکہ سوال پوچھنے والا ایک ذمہ دار مولوی تھا۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جس خلاف توحید شبہہ کے ازالہ کے لئے مولوی فقیر محمد نے تھانوی صاحب کی طرف رجوع کیا، اس شبہہ کا ازالہ کرنے کے بجائے تھانوی صاحب نے اضافہ کر دیا یعنی معاملہ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا بلکہ الجھنا آسان سلجھنا مشکل والے مقولہ پر عمل کر دکھایا۔ یعنی مولوی فقیر محمد صاحب کے دل میں خلاف توحید جو دوسوسہ تھا، اس دوسوسے کو دور کرنے کے بجائے اس دوسوسے کی مَضْرَبَت کو مَنْفَعَت قرار دیا یعنی جو دوسوسہ مہلک اور نقصان دہ تھا اس کو مناسب بتایا۔ جو دوسوسہ ایمان کے لئے سم قاتل تھا، اس میں "غائب" اور "حاضر" کی منطق کا قاتل زہر ملایا اور خود کے بھی ایمان کے لالے پڑ گئے۔



یعنی غیر موجود، غیر حاضر اور پوشیدہ نہیں۔

○ بندہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھو آیت نمبر ۲، اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات و کبریائی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے لہذا وہ ہرگز غائب نہیں ہے بلکہ موجود و قریب ہے۔

○ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نزدیک ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۳، اور نزدیک وہی ہوتا ہے جو غائب نہیں ہوتا۔ غائب میں نزدیک و قریب ہونے کی صفت و صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ جو غائب ہوتا ہے وہ بعید اور دور ہوتا ہے۔ اتنا دور ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے۔

○ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک اور قریب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۶، جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی رگ سے بھی ”أَقْرَبُ“ یعنی زیادہ نزدیک ہے، تو یقیناً ماننا اور کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب نہیں۔

○ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، دیکھو آیت نمبر ۷، جب اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں تو سب کچھ سے اللہ تعالیٰ بھی غائب نہیں۔ اس کی قدرت اور نظر کائنات کی ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا غائب ہونا محال اور ناممکن ہے۔

○ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، وہ خوب جانتا ہے، دیکھو آیت نمبر ۸، ۹، اور ۱۱، اور جو غائب ہوتا ہے وہ جان نہیں سکتا لہذا الاحمال ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب نہیں ہے۔

○ اللہ تعالیٰ بندوں کے کام دیکھ رہا ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۰، اور دیکھنے کے لئے دیکھنے والے کا موجود ہونا لازمی ہے کیونکہ جو غیر موجود یعنی غائب ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام کام دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہی ہوا کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ غائب نہیں بلکہ موجود ہے اور بندوں کے

ترجمہ:- ”بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۵ اور ۹ :- ”إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“

(۱) پارہ: ۴، سورۃ ال عمران، آیت: ۱۹

(۲) پارہ: ۱، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۷

ترجمہ:- ”اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۰ :- ”وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۱ :- ”يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“

(پارہ: ۲۴، سورۃ المؤمن، آیت: ۱۹)

ترجمہ:- ”اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۲ :- ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“

(پارہ: ۲۵، سورۃ الشوری، آیت: ۱۱)

ترجمہ:- ”اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۳ :- ”وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ“

(پارہ: ۴، سورۃ ال عمران، آیت: ۱۵۳)

ترجمہ:- ”اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔“ (کنز الایمان)

ایسی تو سینکڑوں آیات قرآنیہ پیش کی جاسکتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”شَهِيدٌ“، ”بَصِيرٌ“، ”سَمِيعٌ“، ”عَلِيمٌ“ اور ”خَبِيرٌ“ کا بیان ہے، مندرجہ بالا کل تیرہ (۱۳) آیات شریفہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ:-

○ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ دیکھو آیت: ۱، اور ۴، اور ۵، اور گواہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ غائب کی گواہی شرعاً، قانوناً اور عقلاً معتبر و مسموع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”شہید“ (گواہ) اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب

اعمال ملاحظہ فرما رہا ہے۔

○ اللہ تعالیٰ ”سمیع“ اور ”بصیر“ ہے یعنی سنتا دیکھتا ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۲، اور سننا اور دیکھنا اسی کے لئے ہی ممکن ہے جو غائب نہ ہو بلکہ موجود ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے تو ثابت ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ موجود ہے اور غائب نہیں۔

○ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۳، اور خبر ہونا یعنی اطلاع معلوم ہونا اسی کے لئے ممکن ہے جس نے کاموں کا مشاہدہ کیا ہو اور مشاہدہ کرنے کے لئے موجود ہونا ضروری ہے۔ غائب کے لئے مشاہدہ کرنا ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو لازمی ہے کہ بندوں کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ مشاہدہ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اور غائب نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی مندرجہ بالا مذکورہ صفات سے اللہ تعالیٰ کا غائب نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی غائب نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ○ ازلی ○ ابدی ○ سرمدی ○ قدیم ○ واجب الوجود ○ غیر مخلوق ○ غیر حادث ہے اسی طرح اللہ کی تمام صفات بھی ازلی، ابدی، سرمدی، قدیم، واجب الوجود، غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں۔

○ ازلی اور قدیم :- یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ جس طرح خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے صرف خدائے تعالیٰ کی ذات ہی تھی اور بعد میں اس کی صفات ظہور پذیر ہوئیں بلکہ خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ ہی اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں۔

○ سرمدی اور ابدی :- یعنی ہمیشہ رہیں گی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیشہ رہے گی اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا ہونا غیر ممکن ہے کہ خدا کی ذات تو ہمیشہ رہے گی اور اس کی صفات ہمیشہ نہ رہیں۔ بلکہ جس طرح خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی اس کی تمام صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ ساتھ

باقی رہیں گی۔

○ واجب الوجود :- یعنی اس کا وجود لازمی اور ضروری ہے۔ خدائے تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی خدائے تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ و جدا نہیں۔

○ غیر مخلوق :- یعنی پیدا کی ہوئی نہیں۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بفرمان قرآن ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“ (پارہ: ۳۰ سورہ اخلاص، آیت: ۳، ترجمہ: نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے۔) (کنز الایمان) کے مطابق اس کا وجود بذات خود ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تولد یعنی پیدا ہونے سے پاک ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی پیدا ہونے سے پاک اور کسی کے بنانے سے پاک یعنی غیر مخلوق ہیں۔

○ غیر حادث :- یعنی کبھی بھی زائل اور فنا نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات فنا اور زائل ہونے سے پاک اور منزه ہے، اس کی تمام صفات بھی فنا اور زائل ہونے سے بری اور مبرا ہیں۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی ذات ○ غیر محدود ○ محیط ○ حقیقی اور ○ غیر متناہی ہے۔ اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ان خوبیوں کی حامل ہیں۔

الحاصل! اللہ تعالیٰ کو ”غائب“ کہنا، اس کی صفت ○ شہید ○ قریب ○ علیم ○ سمیع ○ بصیر اور خیر میں نقص لگانا ہے اور شان الوہیت کی تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ جس لفظ میں یا جس وصف میں بارگاہ الوہیت کی تنقیص و توہین کا بلکہ ساشائے بھی ہو، ایسے لفظ یا وصف کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے لئے استعمال کرنا، یا منسوب کرنا، یا اضافت کرنا، اپنے کو دائرہ ایمان و اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ ایسے وصف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف کرنا کہ جو حقیقت پر مبنی ہونے کے باوجود غیر مہذب ہو، حرام ہے۔

اسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو خنزیر کا خالق کہنا جائز نہیں۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

☆ ”خدا تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کو ”خالق الخنزیر“ کہنا جائز نہیں۔ شرح عقائد سنی کی شرح نبراس ص: ۱۷۳ میں ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ خَالِقُ الْخَنَازِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ الْمَلْزُومُ لَا اللَّازِمُ“ (حوالہ:- عجائب الفقہ، ص: ۶۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ خنزیر (Pig) کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو خنزیر بھی تمام جانوروں میں شامل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو ”خالق الخنزیر“ کہنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خنزیر ایک لائق نفرت اور قابل قباحت جانور ہے۔ خنزیر ایک ایسا ناپاک اور حرام جانور ہے کہ اس کی حرمت اور نجاست پر قرآن مجید کی آیات اور متعدد احادیث کریمہ وارد ہیں۔ خنزیر کی حرمت، نجاست اور قباحت کی وجہ سے اس کی تخلیق کی مخصوص اضافت اللہ تعالیٰ سے کرنا خلاف شان الوہیت ہے۔

اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ یا ”خَالِقُ الْكَائِنَاتِ“ یا ”رَبُّ مُحَمَّدٍ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ”رَبُّ الْكَعْبَةِ“ یا ”خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ“ کہا، تو اس نے عین قرآن کے مطابق اور مناسب ہی کہا۔ لیکن اگر کسی نے مندرجہ بالا اوصاف کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ”رَبُّ الْخَنَازِيرِ“ یا ”خَالِقُ الْخَنَازِيرِ“ کہا، تو اس نے اس حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پیدا فرمایا ہے اور تمام جانوروں میں خنزیر بھی شامل ہے لہذا خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اس حقیقت کے باوجود بھی اس نے ناجائز اور غیر مناسب کہا ہے۔ کیونکہ خالق الخنزیر کہنے میں اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمت بیان نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے بارگاہ خداوندی میں توہین اور گستاخی کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو ”خالق خنزیر“ کہا، تو کافر ہو جائے گا۔

اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت، عظمت، تعظیم، ادب، تعریف، توصیف، مدح

آیات قرآنیہ سے اس مسئلہ کی وضاحت:-

اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مالک و رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انسان، فرشتے، جنات، چرند و پرند، حیوانات و بہائم بلکہ اس کائنات میں جتنے ذی روح ہیں، ان تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ“ (پارہ: ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۱۰۲)

ترجمہ:- ”یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ ہر چیز کا بنانے والا، تو اُسے پوجو۔“ (کنز الایمان)

”قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“

(پارہ: ۱۳، سورۃ الرعد، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔“ (کنز الایمان)

”صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلِّ شَيْءٍ“

(پارہ: ۲۰، سورۃ النمل، آیت: ۸۸)

ترجمہ:- ”یہ کام اللہ کا ہے جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز“ (کنز الایمان)

”وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا“ (پارہ: ۱۴، سورۃ النحل، آیت: ۵)

ترجمہ:- ”اور چوپائے پیدا کئے۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیات مقدسہ سے ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق یعنی بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں آیت نمبر ۴: میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے یعنی چار پاؤں والے جانور پیدا فرمائے۔ یعنی تمام جانوروں کو پیدا فرمایا۔ تمام جانوروں میں شیر، ہاتھی، بھیڑیا، گھوڑا، اونٹ، بیل گائے، بکری، خنزیر، وغیرہ سب آگئے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ تمام جانوروں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاتھی کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے اور خنزیر یعنی سور کو بھی

کی چند آیات قرآنیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں:-

☆ آیت نمبر: ۱-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْخَلْنَا  
وَأَسْمَعُوا ط وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“

(پارہ: ۱-، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۰۴)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! راعمانہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

(کنز الایمان)

تفسیر:- (شان نزول):-

(۱) ”جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے کہ ”رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ! ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے۔ یہودیوں کی لغت میں ”رَاعِنَا“ کا کلمہ بے ادبی کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا: اے دشمنان خدا! تم پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، اے سعد! تم ہم پر تو خفا ہوتے ہو، لیکن مسلمان بھی تو یہی کلمہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کی اس بات پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ”رَاعِنَا“ کہنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی اور اس معنی کا دوسرا لفظ ”انْخَلْنَا“ کہنے کا حکم نازل ہوا۔“ (مسئلہ) ”اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔“

و ثنا، بزرگی، برتری، سراہنا اور خوبی بیان کرنے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق و کائنات کا خالق اور رب ہے۔ خالق کائنات رب تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ، اعظم و بلاشان اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم و اکرم، محبوب رب العالمین، رحمۃ للعالمین، نبی کریم، رؤف و رحیم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کی تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا ہے:-

<p>”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ“</p>
<p>(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت نمبر: ۸ اور ۹)</p>
<p>ترجمہ:- ”بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔“</p> <p>(کنز الایمان)</p>
<p>تفسیر:- اس آیت میں وارد لفظ ”شاهد“ یعنی حاضر و ناظر کی تفسیر میں وارد ہے کہ:-</p> <p>”یعنی اپنی امت کے اعمال و احوال کا تاکہ روز قیامت ان کی گواہی دو اور مومنین مقررین کو جنت کی خوشخبری اور اور نافرمانوں کو عذاب دوزخ کا ڈر سناتا۔“</p> <p>(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۲۰)</p>

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے آداب اور سماجی زندگی میں اپنے محبوب کے ساتھ کس طرح کا تعظیم کا برتاؤ کرنا چاہئے، اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس سلسلہ

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۶۵)

ترجمہ:- ”تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم! وہ مسلمان نہ ہوں گے، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔“ (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۴:-

”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

(پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۵۷)

ترجمہ:- ”تو وہ جو اس پر (محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر) ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔“ (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۵:-

”وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ط لَئِنِ اقْتَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَانْتَيْمُمُ الزَّكَاةَ وَامْتَمْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ“

(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۲)

ترجمہ:- ”اور اللہ نے فرمایا بے شک میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔“

(کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۶:-

”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“

(پارہ: ۱۸، سورۃ النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ:- ”رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا جو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔“ (کنز الایمان)

(۲) ”وَاسْمَعُوا“ کی تفسیر میں ہے کہ ”اور ہم تن گوش ہو جاؤ تا کہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ (مسئلہ) ”در بار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔“

(۳) ”لِلْكَافِرِينَ“ میں اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔“ (حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۹)

نوٹ:- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ رسالت میں کمال ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی ”رَاعِنَا“ عرض کرتے تھے لیکن اس لفظ کی آڑ میں بارگاہ رسالت کے گستاخوں کو بے ادبی اور توہین کرنے کا موقع ملتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں یعنی صحابہ کرام کو بھی اس لفظ کے استعمال کی ممانعت فرمادی تا کہ دشمنوں کو بارگاہ محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔

☆ آیت نمبر ۲:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔“ (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۳:-

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ“

(۱۵) ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾

(پارہ: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۳)

(۱۶) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ﴾ (پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۴)

(۱۷) ﴿الِنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

(پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۶)

(۱۸) ﴿قُلْ أَبَا اللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۶۵)

مندرجہ بالا کل بارہ آیات قرآنیہ کے علاوہ کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن تمام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا ہے اور عظیم بشارتوں کے وعدے فرمائے ہیں اور شانِ اقدس میں توہین و تنقیص کرنے والوں کی سخت تعزیر و سزائیں فرما کر عذابِ عظیم کی وعید سے ڈرایا ہے۔ مثلاً:-

☆ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایسے لفظ کا بھی استعمال نہ کرو کہ دشمنوں کو اس لفظ کی آڑ میں توہین کرنے کا موقع ملے۔ دیکھو آیت نمبر ۱،

☆ میرے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو اور ان کے سامنے چیخ کر یا چلا کر بات مت کرو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اگر تم نے دربار رسالت کا ادب ملحوظ نہ رکھا اور میرے حبیب اکرم کے ساتھ عام انسانوں کی طرح گفتگو کی تو تمہارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیکھو آیت نمبر ۲۔

☆ اپنے ذاتی معاملات کا فیصلہ میرے محبوب کے سپرد کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ”حکم“ تہ دل سے تسلیم کر کے ان کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، وہ تمہارے ذاتی معاملات کے جھگڑوں کے متعلق جو کچھ بھی حکم صادر

اس سلسلہ کی چند دیگر آیات:-

یہاں تک ہم نے صرف چھ آیات مقدسہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ان میں سے صرف آیت نمبر ۱ کے ضمن میں بہت ہی مختصر تفسیر پیش کی ہے، بقیہ پانچ آیات کے صرف تراجم ہی ارقام کیئے ہیں۔ طول تحریر کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان آیات کی تفسیر اور شانِ نزول کی تفصیل نہ لکھنے کی کوتاہی پر ہم اپنے معزز اور کرم فرما قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔ مزید برآں اسی سلسلہ کی چند دیگر آیات کی بھی نشاندہی کئے دیتے ہیں:-

(۷) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ

لَكُمْ﴾ (الخ) (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۳)

(۸) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۱۲)

(۹) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾

(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۱۰)

(۱۰) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۱)

(۱۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾

(پارہ: ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۲۴)

(۱۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۳)

(۱۳) ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾

(پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۶)

(۱۴) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۶۱)

سے ہی بیعت کرتے ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۹۔ اسی طرح جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی بیان کرتے ہیں۔

☆ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دیکھو آیت نمبر ۱۰۔

☆ اے اللہ کے مؤمن بندو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ رسول تمہیں کسی امر کی طرف بلائیں یعنی ایمان، جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کا یہ بلانا تمہیں دائمی حیات بخشنے کے لئے ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۱۔

☆ جو لوگ بارگاہ رسالت کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پشت کرتے ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیز گاری کے لئے چن لئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۲۔

☆ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے معاملہ میں جب اللہ و رسول کوئی حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار نہیں رہتا۔ دیکھو آیت نمبر ۱۳۔ یعنی اللہ و رسول کا حکم ان کے لیئے حرف آخر کی طرح نافذ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں کوئی بھی شخص اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں۔

☆ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لئے دردناک عذاب یعنی دوزخ کا سخت عذاب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۴۔

☆ میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تمہارے دلوں کا چین ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۵۔

☆ میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لوگ حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۶۔ یعنی انہیں اپنی بے عقلی کی وجہ سے

فرمائیں، اس میں ذرہ برابر بھی چوں و چرا مت کرو۔ ان کے اٹل فیصلے پر تم نے اف کیا یا کسی قسم کا تردد و تامل کیا تو تم مؤمن کہلانے کے لائق نہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۷۔ جو لوگ میرے رسول اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم و نصرت و اطاعت کی، وہی لوگ با مراد ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۸۔

☆ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، رسولوں کے تعظیم و توقیر بجالائے اور فریضہ نماز و زکوٰۃ کو ادا کیا، ان لوگوں پر اپنے انعام و اکرام کی نوازش فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۹۔ اور جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، وہ یقیناً اللہ والا ہو گیا۔

☆ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ دیکھو آیت نمبر ۲۰۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔

☆ میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرات مت کرو۔ ہاں وہ اگر کھانے کے لئے بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول مت ہو جاؤ، بلکہ روانہ ہو جاؤ۔ تمہارا بیٹھا رہنا مکان کی تنگی کی وجہ سے میرے محبوب کے اہل خانہ کے لئے تکلیف و مشقت کا باعث ہوتا ہے لیکن میرا محبوب حسن اخلاق کا پیکر جمیل ہونے کے وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن محبوب اعظم کی اس تکلیف پر میں تمہیں متنبہ فرماتا ہوں کہ اب سے اس طرح بیٹھے رہ کر میرے محبوب کو تکلیف و مشقت مت پہنچاؤ۔ دیکھو آیت نمبر ۲۱۔

☆ اے میرے ایمان والے بندو! اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ عالی میں کچھ عرض و معروض کرنا چاہتے ہو تو اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ (خیرات) کرو۔ دیکھو آیت نمبر ۲۲۔

☆ جو لوگ میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھ

دنیا کو ”عشق نبی“ اور ”تعظیم رسول“ کا پیغام حق دیا اور لوگوں کے ایمان کو پختہ و مجلا بنایا۔ تحفظ ناموس رسالت کے لئے اپنا سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ قوم مسلم میں زندہ رکھا اور ملت اسلامیہ کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی سے روشناس کرایا۔

لیکن:

افسوس! صد افسوس! اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں، جو بظاہر تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ”روح ایمان“ یعنی محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے ایسے بھاگتے ہیں کہ گویا انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ لوگوں کو عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روکتے ہیں۔ جب کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب فوراً تو حید کا جھنڈا بلند کر کے ”شُرک“ اور ”بدعت“ کے فتاویٰ کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں توہین و تنقیص کرنے کی غرض فاسد سے قرآن مجید کی آیات کے غلط تراجم و مطالب اور خود ساختہ توضیح پیش کرتے ہوئے بھی نہیں جھکتے۔ البتہ! جب اپنے پیشواؤں کا معاملہ سامنے آتا ہے تب اپنے خود ساختہ تو حید کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کا شعور نہیں۔  
 ☆ اے مسلمانو! اچھی طرح جان لو! تمہارے جسموں میں جو جان ہے اس جان کے مالک بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۔  
 ☆ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عالی میں گستاخی کا کلمہ بول کر پھر یہ عذر کرنا کہ ہم نے توہین کی نیت سے ایسا نہیں کہا بلکہ یونہی ہنسی کھیل اور دل لگی کے طور پر ایسا کہا ہے۔ یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسنے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ دیکھو آیت نمبر ۱۸۔

الحاصل:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ادب و احترام، اور تعظیم و توقیر کا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، اللہ ان لوگوں سے ہمیشہ راضی رہتا ہے جو لوگ اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور ادب و توقیر بجالانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہر مؤمن پر لازم ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ:-

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَ

النَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (مشکوٰۃ شریف، باب الایمان)۔

ترجمہ:- ”تم میں سے کوئی بھی مؤمن ہو نہیں سکتا، جب تک اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے، والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

اس حدیث پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کامل طور پر عمل کیا اور ”رضائے الہی“ کے حقدار بنے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر تابعین عظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، صالحین، اولیاء کاملین، علمائے ملت اسلامیہ وغیرہ نے اپنے اقوال و کردار کے ذریعہ عالم



## منافقین زمانہ کے اعتقاد اور نظریات

(۱) حضور اقدس کے متعلق	(۲) اپنے پیشواؤں کے متعلق
بشریت میں جملہ بنی آدم کی طرح ہیں“ (حوالہ:- براہین قاطعہ، ص: ۷) نوٹ:- جملہ بنی آدم میں مؤمن، کافر، مشرک، مجوسی وغیرہ ہر انسان شامل ہیں۔	سے بالا ہے۔ وہ ایک فرشتہ مقرب تھے، جو انسانوں میں ظاہر کئے گئے“ (حوالہ:- حکایت اولیاء، ص: ۲۵۹، حکایت نمبر ۲۴۲، اور سوانح قاسمی، جلد: ۱، ص: ۱۳۰)
اور عاجز بندے ہیں۔“ (حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۹۹) نوٹ:- تمام انبیاء میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگئے۔	المدرسین دارالعلوم دیوبند عالم نور میں رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کے داہنے، ان کے بائیں اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہے اور وہ خود نور ہو گئے ہیں۔“ (حوالہ:- الجمعیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر، ص: ۱۲)

کرگلی کوچوں میں گھومتے تھے، وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی پر پردہ ڈال رکھا ہے اور گزی گاڑے میں ملفوف جس ٹائڈوی صاحب کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ وہ اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ اس سرزمین پر دیکھا ہے۔ (حوالہ:- شیخ الاسلام نمبر، ص: ۵۹)

بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے ہوئے۔ ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔“  
(حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۹۹)

شریعت کا حامل اور ان کا عمل شریعت کی تفسیر تھا۔ ان کے فضائل و کمالات کی صحیح اطلاع یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے یا ان اولیاء و علماء کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔ ہم جیسے کور چشم مولوی حسین احمد ٹائڈوی کی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ (شیخ الاسلام نمبر، ص: ۶۷)

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، (حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۷۰)  
بظاہر اپنے نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ (حوالہ:- تحذیر الناس، ص: ۵)

نوٹ:- جب پہچان نہیں سکتے تو ان کے درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

ترجمہ:- ”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیلئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں کا ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو۔“ (کنز الایمان)
تفسیر:- یعنی وسوسے اور فریب کی بات انکو کرنے کے لئے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۵۵)

اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہر زمانہ میں ہوئے ہیں اور وہ دشمن آدمی شیطان اور جنات شیطان ہیں۔ اور انبیاء کرام کے جو دشمن ہوتے ہیں ان میں آپس میں ایسا گٹھ بندھن ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے خلاف متحد ہو کر خفیہ سازش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کے مطابق جب ہر نبی کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، تو لامحالہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی دشمن پیدا ہوئے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد دیگر انبیاء کرام کے دشمنوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ اقدس سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سو سال کے عرصہ دراز میں کافی تعداد میں دشمنان رسول پیدا ہوئے ہیں اور آج کے بعد سے قیامت تک دشمنان رسول بکثرت پیدا ہوں گے۔

تمام دشمنان رسول کا آئین اور مقصد یکساں ہی ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو بہن و تنقیص کرنا، آیات و مشابہات کا سہارا لے کر اور ان آیات کے من مانے تراجم اور من گھڑت تفاسیر کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت گھٹانے کی کوشش کرنا اور حضور اقدس کو ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ ثابت کرنے کے لئے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔

زمانہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھٹانے کے لئے لوگوں کو اس طرح بہکاتے تھے کہ:-

”یہ رسول تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ

(۱) اعتقاد منافقین متعلق حضور اقدس	(۲) اعتقاد منافقین متعلق اپنے پیشوا
پکارنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں، شرک ہے۔“ (حوالہ:- تقویٰ الایمان، ص: ۲۴)	محمود حسن دیوبندی نے مولوی رشید احمد گنگوہی کو ان کے انتقال کے بعد ”اَرِنِي“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہہ کر پکارا۔ (حوالہ:- مرثیہ گنگوہی، ص: ۱۲)
نزدیک یا دور سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب کے سب سے دور سے سنتے ہیں، کفر ہے۔“ (حوالہ:- فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۶۲)	بیٹھ کر گنگوہ نامی مقام میں مدفون مولوی رشید احمد گنگوہی کو مخاطب کر کے ”اَرِنِي“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہہ کر پکارا۔ (حوالہ:- مرثیہ گنگوہی، ص: ۱۲)

منافقین زمانہ کی کتابوں سے ایسے سیکڑوں متضاد اعتقاد و نظریات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ جو عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رکھنا ان کے نزدیک شرک ہے، وہی عقیدہ اپنے پیشواؤں کے متعلق جائز قرار دیتے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب انہیں ”توحید خالص“ کے اصول یاد آتے ہیں اور جب اپنے پیشواؤں کی عظمت کا معاملہ ہوتا ہے، تب اپنی خود ساختہ توحید کے تمام اصول فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

○ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا“ (پارہ: ۸، سورۃ الانعام، آیت: ۱۱۲)
---

پوری دنیا کے تمام کفار، مشرکین، یہود، نصاریٰ، منافقین، مرتدین اور ادیان باطل کے تابعین جمع ہو کر بھی اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اور مراتب و درجات کی رفعت نہیں گھٹا سکتے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ البتہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھٹانے کی کوشش کرنے والا اپنے ایمان سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ ”فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا“ یعنی ”تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔“

حضور اقدس، رحمت عالم، جانِ ایمان ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے بحکم قرآن گمراہ ہیں۔

## خوب یاد رکھو کہ :-

- سب سے پہلے نبی کو بشر کہہ کر کافر ہونے والا ابلیس لعین تھا۔ شیطان کے نقش قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں نے ہی انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہا ہے اور جنہوں نے انبیاء کرام کو بطور توہین ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے، وہ ایمان و ہدایت سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور گمراہ و بے دین ہیں۔
  - کسی بھی نبی کے کسی بھی مؤمن امتی نے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے۔ صرف کفار، مشرکین اور منافقین ہی حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔
- لہذا
- اس زمانہ میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ کفار و مشرکین کے طریقہ پر ہیں اور جو لوگ حضور اقدس کو بے مثل و مثال نوری بشر کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و توقیر کا سلیقہ عنایت فرمائے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی

کیوں نہ اتارا گیا کہ ان کے ساتھ رہ کر ہم کو ڈر سنا تا یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ کیوں نہ مل گیا یا ان کو کوئی باغ ہوتا، جس میں سے وہ کھاتے۔ ظالموں نے بالآخر قوم سے یہاں تک کہا کہ:-

”إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا“ (پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔“

(کنز الایمان) (تفسیر بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۴۸ اور ۵۱۵)

دشمنان رسول ﷺ کی مندرجہ بولی کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور بارگاہ رسالت کے دشمنوں کا یہ مقولہ نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا“

حوالہ:- (۱) پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۲۸)

(۲) پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۹)

ترجمہ:- ”دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں، تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پاسکتے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں صاف لفظوں میں ارشاد ہے کہ کفار قریش نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت گھٹانے کے لئے حضور کا کھانا تناول فرمانا اور بازار میں چلنا بطور مثال پیش کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”عام انسان“ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ ”أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ“ یعنی ”اے محبوب! دیکھو! انہوں نے یعنی کفار قریش نے تمہارے لیے کیسی مثالیں دیں ہیں۔ یعنی تمہارا کھانا پینا اور بازار میں چلنا پھرنا، بطور سند پیش کر کے تمہیں عام انسان ثابت کرنے کی کوشش کر کے تمہاری عظمت گھٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تمہاری عظمت گھٹانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن:- کیونکہ

”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (پارہ: ۳۰، سورۃ الم نشرح، آیت: ۴)

ترجمہ:- ”اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔“ (کنز الایمان)

## ماخذ اور مراجع

نمبر	اسماء کتب	اسماء مصنفین، مؤلفین وغیرہ
(۱)	قرآن مجید	کلام اللہ
(۲)	کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن	امام احمد رضا محدث بریلی
(۳)	معجم صغیر	ابوالقاسم سلیمان بن احمد ایوب طبری
(۴)	تفسیر خزائن العرفان	صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی
(۵)	تفسیر روح البیان	علامہ شیخ اسماعیل حقی بروہی (متوفی ۱۱۳۷ھ)
(۶)	عجائب القرآن	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
(۷)	تفسیر جہل علی الجلالین	سلیمان بن عمر الجعفی الشہیر بالجہل
(۸)	مدارج النبوة	شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۲ھ)
(۹)	المواہب اللدین علی الشمائل الحمدیہ	علامہ احمد بن محمد المصری القسطلانی شافعی
(۱۰)	دلائل النبوة	حضرت ابو نعیم بن عبد اللہ اصفہانی (المتوفی ۲۳۰ھ)
(۱۱)	شواہد النبوة	علامہ نور الدین عبدالرحمن جانی بن احمد بن محمد
(۱۲)	خصائص کبریٰ	امام جلال الدین سیوطی
(۱۳)	الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ	قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (متوفی ۵۴۴ھ)
(۱۴)	علم النجوم	مولوی مشتاق احمد چھترالوی (دہلوی)
(۱۵)	فیروز اللغات	مولوی فیروز الدین
(۱۶)	دی نیوریل پشین انگلش ڈکشنری	ایس سی پال
(۱۷)	قرآنی علوم	مفتی عبدالواحد قادری
(۱۸)	تفسیر نعیمی جلد: ۳	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
(۱۹)	جامع اللغات	مفتی غلام سرور لاہوری

توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فقط والسلام

مورخہ: ۱۴/ربیع الآخر ۱۴۲۰ھ مطابق ۱۷ جولائی ۲۰۰۰ء،

یوم دو شنبہ خاص جیل۔ پور بندر (گجرات)

خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ مطہرہ اور خانقاہ رضویہ بریلی کا ادنیٰ سوالی

عبدالستار ہمدانی، مصروف

(برکاتی - نوری)

- (۴۳) تفسیر کبیر (تفسیر رازی) مفتح الغیب امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازی شافعی (م-۶۰۶ھ)  
 (۴۴) حجة اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی (المتوفی ۱۳۵۰ھ)  
 (۴۵) اشعة الممعات شرح مشکوٰۃ (فارسی) شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین سعد  
 (۴۶) الامن والعلیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی (اعلیٰ حضرت)  
 (۴۷) ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام احمد بن محمد المصری القسطلانی  
 (۴۸) نوادر الاصول امام محمد بن عیسیٰ ترمذی (متوفی ۲۷۹ھ)  
 (۴۹) جمع الوسائل ملا علی بن یسسلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی  
 (۵۰) تفسیر مدارک التنزیل امام اجل علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن محمود نسفی (م-۱۰۷ھ)  
 (۵۱) نسیم الریاض شرح شفاے قاضی عیاض علامہ امام احمد شہاب الدین خفاجی مصری  
 (۵۲) مکتوبات امام ربانی (تین دفاتر تین) تصوف امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی  
 (۵۳) سبیل الھدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد علامہ محمد بن یوسف شامی  
 (۵۴) داری ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل بن البہرام (م-۲۵۰ھ)  
 (۵۵) معجم صغیر ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی (م-۳۹۰ھ)

تمت بالخیر

- (۲۰) مختصر سیرت نبویہ عبدالشکور کاکوروی (وہابی)  
 (۲۱) فتوح الشام امام العدل علامہ محمد بن عمرو الواقدی  
 (۲۲) مزہر امام جلال الدین السیوطی  
 (۲۳) المنجد  
 (۲۴) تفسیر خازن علاء الدین علی بن محمد بغدادی (م-۲۵۰ھ)  
 (۲۵) مسلم شریف امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشیری  
 (۲۶) در مختار شرح تنویر الابصار امام محمد بن علی دمشقی حنفی (متوفی ۱۰۸۸ھ)  
 (۲۷) رد المحتار (فتاویٰ شامی) علامہ محقق امین الدین محمد بن عابدین شامی  
 (۲۸) تقویۃ الایمان مولوی اسماعیل دہلوی (وہابی) (المتوفی ۱۲۳۶ھ)  
 (۲۹) اطیب البیان رد تقویۃ الایمان صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی  
 (۳۰) تفسیر عزیز بنی (تفسیر فتح العزیز) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی  
 (۳۱) طبقات المفسرین امام جلال الدین سیوطی  
 (۳۲) ترجمہ قرآن محمود الحسن دیوبندی (وہابی)  
 (۳۳) ترجمہ قرآن مولوی اشرف علی تھانوی (وہابی)  
 (۳۴) ترجمہ قرآن عاشق الہی میرٹھی (وہابی)  
 (۳۵) صلوات الصفاء فی نور المصطفیٰ (اعلیٰ حضرت) امام احمد رضا محدث بریلوی  
 (۳۶) دلائل النبوة امام ابوبکر بن حسین بیہقی شافعی (متوفی ۴۵۸ھ)  
 (۳۷) افضل القرئی امام ابن حجر عسقلانی  
 (۳۸) شرح المواہب اللدنیہ علامۃ الشمس، محمد بن عبدالباقی الزرقانی مالکی  
 (۳۹) انجیس فی احوال النفس نفیس علامہ حسین بن محمد بن حسن دریا بکری  
 (۴۰) مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات علامہ امام محمد مہدی بن احمد فاسی (المتوفی ۱۰۲۳ھ)  
 (۴۱) جواہر البحار علامہ امام عبدالکریم الجلیلی  
 (۴۲) موضوعات کبیر ملا علی بن یسسلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی